



اسلام ک طب

حصہ دوم

المعروف حقیقت قانون فطرت



مصنف محقق طب حکیم صہارت خان نوشانی

قادر یہ کتب خانہ ودواخانہ گلی نمبر 2 شہستان چوک بھکھی روڈ شیخوپورہ

5832-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُوتَى الْحِكْمَةُ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى

خَيْرًا كَثِيرًا

ہم جسے چاہتے ہیں حکمت (دانائی) عطا کرتے ہیں اور جس کو ہم حکمت عطا
فرمائی پس تحقیق اس کو خیر کثیر عطا فرمادی

5832-



اسلامِک طب حصہ دوم

المعروف

حقیقت قانون فطرت

قادر یہ کتب خانہ دو اخانہ گل نمبر 2 شہستان چوک بھکھی روڈ شیخوپورہ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

اس کتاب کا کوئی صفحہ یا مضمون کی اشاعت کی فردا ادارے کو حق حفظ نہیں ہے۔ دہشتگاری سے آرزوی
ایسا کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گا۔ حکیم صمارت خان اولی

نام کتاب اسلامیک طب حمد دوم
مصنف محقق طب حکیم صمارت خان نوشاء، ہی
کتابت محترمہ طبیبہ کنیز شافیہ
پروف ریڈنگ محترمہ طبیبہ جازیہ نور بن وکیم یونس عابد
اشاعت اول ماہ جمادی الثانی ۱۴۲۴ ہجری
ناشر محقق طب حکیم صمارت خان نوشاء، ہی
تعداد 500 سو
قیمت 200 روپے


ملنے کا پتہ

قادریہ کتب خانہ ودواخانہ گلی نمبر 2 شہستان چوک تھاٹھی روز شنبہ پورہ

عنوان

اپنی اس علمی تحقیق و فنی اکتشاف اور تجدید طب کو قانون فطرت سے تدقیق دی گئی ہے جو احیائے طب اور ارتقاء فن کے لیے کی گئی ہے اسے اپنے مرحوم والدین اور محترم مولانا طاہر تبسم قادری صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ شیخوپورہ کے نام نامی اسم گرامی سے موسم کرتا ہوں آپ نے علم فن طب کو فروغ دینے کے لیے اور علماء کو ان کی علمی وراثت لوٹانے کے لیے جامعہ میں باقائدہ طبعی تعلیم کا سلسلہ شروع کروا دیا ہے جو اس صدی کا قابل تحسین اقدام ہے

تحقیق طب حکیم صمارت خان نوشابی
جمادی الثاني 1424ھجری



فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
	معنوں	1
10	پیش افظ	2
16	علم طب	3
16	علم حفاظان صحت	4
25	حفظان صحت کے اہم عناصر	5
47	علم العلاج	6
48	علاج بالغذائی کی اہمیت اور وسعت	7
63	حقیقت علاج بالغذاء	8
64	زندگی اور ضرورت غذا	9
68	طااقت غذا میں ہے	10
78	روزہ اور وقفہ غذا	11
82	حرکت کا تعلق عضلات سے ہے	12
85	تحریک قدرت کا فطری قانون ہے	13
93	فضلات کی حقیقت	14

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
15	خواص الاغذاء بہ قلب و عضلات	99
16	اشیاء کے اثرات اور جسم انسانی	100
17	اشیاء کی تین اقسام	104
18	ایلووتھی کی غذا کے متعلق تحقیقات	106
19	کھارتہشی اور نمک کے قلب و عضلات پر اثرات	109
20	مفرد اعضاء کے تحت ڈائٹئے	110
21	جسم انسانی کو کسی غذا کی ضرورت ہے	113
22	بناتا تی اغذیہ میں مکمل غذا نیت نہیں	120
23	غذا بطور دواء	124
24	متوازن غذا کیا ہے	126
25	وٹامن کے استعمال میں غلط فہمی	149
26	غذا اگی علاج کے اصول	152
27	قلب و عضلات کے تحت ترتیب غذا	156
28	قلب و عضلات کے سکڑنے سے پیدا ہونے والی امراض کا غذا اگی علاج	158

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
158	قلب و عضلات کے پھیلنے سے پیدا ہونے والی امراض کا غذائی علاج	29
160	قلب و عضلات کے پھولنے سے پیدا ہونے والی امراض کا غذائی علاج	30
161	علاج بالدوا	31
161	علم ادویہ	32
163	کلیات الادویہ	33
165	ادویات کے افعال	34
166	انسان کی زبردست قوتیں	35
166	احساس و ادراک اور قیاس	36
167	احساس و ادراک اور قیاس کا فرق	37
169	علمی دنیا میں ایک نیاراز	38
170	احساس کی حقیقت	39
171	ادراک کی حقیقت	40
172	قیاس کی حقیقت	41

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
174	احساس و ادراگ اور قیاس کی با فعل تشرع	42
177	نفس انسانی	43
187	تجربات کے آسان طریقے	44
198	علم کی حقیقت	45
200	حکمت کی تعریف	46
206	تجربات کے متعلق ایک غلط فہمی	47
209	عقل کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں	48
213	علم طب کی ابتداء اور علم خواص الایشیاء	49
219	قیاس میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہے	50
228	قیاس کے مبادیات اور ان کی تشرع	51
254	اصل رنگ تین ہیں	52
268	قلب و عضلات پر زائقوں کے اثرات	53
268	خواص اشیاء میں مفردات	54
269	خشکی پیدا کرنے والے مفردات	55
270	گرمی پیدا کرنے والے مفردات	56

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
271	تری پیدا کرنے والے مفردات	57
273	علاج بالدوا	58
273	علاج بالدوا کی اہمیت	59
274	دو اتجویز کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا	60
275	اسلامی مجربات	61
276	مجربات کا علمی معیار	62
278	مجربات اور امراض میں مطابقت کی اہمیت	63
280	دوا کی تعریف	64
282	ادویات کی درجہ بندی	65
284	مجربات کی حقیقت	67
287	تشریح اصطلاحات	68
289	حاء مجربات	69
295	یا بس مجربات	70
299	رطب مجربات	71
304	دوا کی تاثیر تیز کرنے کا طریقہ	72

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
308	علانج بالدعا	73
309	دست شفا کرنے حاصل کا طریقہ	74
311	قلب کے سکرنے سے پیدا ہونے	75
	والی امراض کی علاج دعا	
312	قلب کے پھیلنے سے پیدا ہونے	76
	والی امراض کی علاج دعا	
313	قلب کے چھوٹنے سے پیدا ہونے	77
	والی امراض کی علاج دعا	
314	تسبیح خدا تعالیٰ کے عمریت	78
-317	معاذ کے یہ ضروری براحت	79

پیش لفظ

یہ حقیقت مسلسلہ ہے کہ خداوند حکیم نے یہ زندگی اور کائنات اپنی مرضی سے تخلیق کی ہے اور اس کا روای دواں ہونا بھی اسی کی مرضی پر منحصر ہے اس میں انسان اور فرشتوں کے دخل کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ ذرہ کے برابر بھی اپنی مرضی سے کمی بیشی کر سکیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عادل بھی ہے اور یہ صفت رحمان اور رحیم کے بعد سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے یعنی جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے یہ اُسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر مخلوق کو بھی کچھ اختیار دیئے جائیں۔ ظاہر میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق مجبور ہے مگر عقل کا تقاضا ہے کہ جزا اور سزا کا نتیجہ عدل ہے جو کسی فعل کے بغیر صادر نہیں ہو سکتے لیکن اگر غور و فکر سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ زندگی اور کائنات جو خداوند حکیم کی مرضی سے تخلیق ہوئی ہے اس میں زبردست حکمت پائی جاتی ہے یعنی جو کچھ بھی تخلیق ہوا ہے وہ سب کا سب کسی قانون کے مطابق ہے اس قانون کا نام قانون فطرت ہے جو حقیقت و سچائی ہے اور اسی کا نام رضاۓ الہی ہے قانون فطرت اور مشائے

الہی ہے جس پر زندگی اور کائنات رواں دواں ہے یہی رضاۓ خداوندی ہے اس منشا الہی اور رضاۓ خداوندی کو تسلیم کرنا، ہی اس کی اطاعت اور سلامتی ہے یہی حق پرستی اور حقیقت پسندی ہے جب حق و صداقت اور حقیقت و سلامتی کی پرواہ نہیں کی جاتی تو یہ نہ صرف رضاۓ خداوندی اور منشاۓ الہی کی بغاوت ہوتی ہے جو گناہ کا درجہ رکھتی ہے بلکہ قانون فطرت کی خلاف ورزی ہے جس کا نتیجہ اس کا رد عمل ہے یہ رد عمل زندگی میں بھی ہوتا ہے اور کائنات میں بھی ہوتا ہے جس سے زندگی اور کائنات میں خلل واقع ہو جاتا ہے زندگی کے معمولات اور اس کے اعضاء کے افعال میں خلل واقع ہو تو اس کو مرض کہتے ہیں اور اگر کائنات کے معمولات اور اس کے ستارگان کے افعال میں خلل واقع ہو جائے تو اس کو آفت کہتے ہیں یہ سب قانون فطرت کی خلاف ورزیاں ہیں اکثر لوگ زندگی کے خلل اور مرض کو تو سمجھتے ہیں مگر کائنات کے خلل اور آفت کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں جاننا چاہیے کہ اس کائنات کے ہر ذرہ کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے جیسے انسانی یا حیوانی یا نباتاتی جسم کے ہر ذرے کا آپس میں گہرا تعلق ہے بلکہ یہ تعلق اس قدر گہرا ہے کہ جسم کے ایک ذرے سے دوسرے ذرے تک خون دورہ کرتا ہے جس میں خون کی ~~حالت~~ در طوبت اور ارواح وغیرہ اور دیگر کیمیا وی اجزاء بھی

دورہ کرتے ہیں

اسی طرح کائنات کے ہر ذرے میں بھی اس کی فضا اپنا دورہ کرتی ہے جس کے ساتھ اس کی حرارت و رطوبت اور روح وغیرہ اور دیگر کیمیا وی اجزاء بھی دورہ کرتے ہیں جیسے جسم کے کسی حصے میں کائنات چھجھ جائے تو وہاں پر درد کے ساتھ ہی سوزش پیدا ہو جاتی ہے جس کے ساتھ ہی خون وہاں پر اکٹھا ہو کر وہ حصہ ورم کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور جسم میں ایک غیر معمولی تغیر پیدا ہو جاتا ہے جس کا نام ہم مرض رکھتے ہیں یہی صورت امراض کی بھی ہے کہ وہ بذات خود کوئی صورت نہیں رکھتے اصل میں زندگی کے نظام اور جسم کے اعضاء اور ان کے افعال کا درست ہونا ہے جس کا نام صحت ہے جب اعضاء اور ان کے افعال کی صورت درست نہیں رہتی تو اس کا نام مرض رکھ دیا جاتا ہے یاد رکھیں کہ مرض کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے جب تک جسم کے طبعی اور صحت مند افعال و حالات کو ذہن نہ لشین نہ کیا جائے اس وقت تک اس کے غیر طبعی افعال و حالات اور مرض پر عبور حاصل نہیں ہو سکتا اس مقصد کے لیے علم تشریح ابدان و علم افعال الاعضاء کو سب سے پہلے ذہن لشین کرنا ضروری ہے حقیقت یہ ہے کہ علاج میں کامیابی کا راست صحیح تشخیص ہے جو ماہیت مرض جاننے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور مرض کو سمجھے بغیر علاج کرنا نہ صرف

گمراہی ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے جب کوئی مرضیں معانج کے پاس آتا ہے تو پہلی بات جو اس کے ذہن میں ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مرض کیا ہے بلکہ نفیاً طور پر مرض کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو کیا مرض ہے اس لیے طب کے طالب علم کو سب سے پہلے جس بات کا علم ہونا چاہیے وہ مرض کی ماہیت ہے اسی لیے علم طب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلی صورت میں علم طب کے بارے جانا ہے کہ یہ زندگی اور کائنات کن امور پر قائم ہے اور ماہیت امراض جانے کے لیے حالات بدن اور اسباب امراض و علم علامات حاصل کرنا ضروری ہے اور جسم میں غیر طبعی حالات اور اعضا کی ہیئت و ترکیب اور افعال میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور اس سے قلب و عضلات پر غیر طبعی افعال کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں پھر مرض کی صورتیں کیوں اور کس طرح پیدا ہو جاتی ہیں جس کو جسم پورے طور پر ظاہر کر دیتا ہے

جاننا چاہیے کہ ماہیت امراض میں مرض کی ابتدائی صورت خون کے مزاج (کیفیات) یا خون کے کیمیاوی مادوں (اخلاط) سے قلب و عضلات میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے جس سے جسم کے کسی بھی حصہ میں سوزش کی صورت قائم ہو جاتی ہے جس طرف خون کی تیزی بڑھ جاتی ہے اگر خون کے

دباو سے وہاں پر سوزش رفع نہ ہو تو وہاں پر ورم کی صورت نمودار ہو جاتی ہے گویا مرض کی ابتدائی صورت سوزش ہی ہے جس میں درد خارش گرمی سرخی بھی شامل ہیں اس لیے ہم نے علم طب میں امراض کو سمجھانے کے لیے قانون فطرت کے اصولوں پر خون اور جسم کے اندر کیمیا وی تبدیلیوں کو اور تغیرات قلب کو مکمل طور پر بیان کیا گیا ہے تا کہ ہر معانج مابہیت الامراض سے پورے طور پر آگاہ ہو کر دسترس حاصل کرے اور یہاں سے معانج کی کامیابی اور کمال شروع ہوتا ہے ہر ذہین اپنے اندر کمال نہیں رکھتا اس مقصد کے لیے اس کتاب نے ایک مشکل دور کردی گئی ہے کہ جسم کے تمام امراض کو قانون فطرت یعنی قلب و عضلات کے تحت تقسیم کر دیا گیا ہے جس سے تشخیص میں بے حد آسانیاں اور علاج میں انتہائی سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں جس کا مقابلہ فرنگی طب اور دیگر طریقہ علاج نہیں کر سکتے اس کا اندازہ صاحبِ فن اور اہل علم ہی کر سکتے ہیں

حصہ دوم میں طب عملی ہے جس میں حفاظان صحت کے اصول بیان کیے گئے ہیں اور علاج کے مختلف طریقے درج کیے گئے ہیں ان سب سے پہلے علاج بالغذ او علاج بالدوا اور علاج بالدعا کو تفصیل سے درج کر دیئے گئے ہیں تا کہ فی زمانہ امراض نے جس قدر انسانوں کو پریشان کر رکھا ہے ان سے چٹھکارا

حاصل ہو سکے اور اس میں یہ کوشش کی گئی ہے علاج حلال اشیاء سے کیا جائے
 اسلامی و فطری قانون کو مد نظر رکھا گیا ہے امید ہے کہ ہمارے اس طریقہ
 علاج سے طبی دنیا میں ایک خاموش انقلاب آئے گا ان شا اللہ

محقق طب حکیم صمارت خان نوشہری
 جمادی الثانی 1424 ہجری

علم طب

علم طب اس علم کا نام ہے جس کے ذریعے بدن انسانی کے حالات صحت اور حالات مرض کا پتہ چلتا ہے اور اگر صحت ہے تو اس کی نگہداشت کی جائے تاکہ مرض پیدا نہ ہو جائے یعنی صحت کو برقرار رکھا جائے اگر حالت مرض ہو تو حتی الامکان اس کا ازالہ کیا جائے یا کوشش کی جائے کہ مرض کو صحت کی طرف لوٹایا جائے

علم طب کی تقسیم

علم طب دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے طب علمی اور طب عملی
طب علمی پر اسلامک طب حصہ اول میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے اسلامک طب حصہ دوم میں طب عملی پر بحث کی جائے گی

طب عملی کی تقسیم

طب عملی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے (1) علم حفاظان صحت (2) علم العلان علم حفاظان صحت

علم حفاظان صحت ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے ہم اپنی صحت کو قائم رکھ

سکتے ہیں جاننا چاہئے کہ علم کی تین صورتیں ہیں (1) جبلی (2) اکتسابی
 (3) وہبی

جبلي علم

جبلي علم وہ علم ہے جو حکیم مطلق ہر جاندار کو جبلی طور عطا فرماتے ہیں جیسے چوہا
 بلی کی آواز سنتا ہے تو وہ ڈر کر بھاگ جاتا ہے اسی طرح بلی کتنے کو دیکھتے ہی
 راہ فرار اختیار کر لیتی ہے کیونکہ جبلی طور پر چوہا اور بلی ان کو اپنا دشمن خیال
 کرتے ہیں اسی طرح سبزی خور جانور پیدا ہونے کے بعد اپنی غذا کے لیے
 سبزی کھانی شروع کر دیتے ہیں اور گوشت خور جانور گوشت کھاتے ہیں وہ
 بزار بھوکے ہوں مگر سبزی نہیں کھائیں گے قدرت نے انسان میں بھی اسی قسم
 کا ایک جبلی شعور پیدا کر دیا ہے کہ بچے پیدا ہونے کے بعد فوراً ماں کی
 چھاتیوں کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کو ماں کی گود میں سکون حاصل ہوتا
 ہے تمام عمر اس کو جبلی علم یہ علم دیتا رہتا ہے کہ فلاں چیز میرے لئے مفید ہے
 اور فلاں چیز مضر ہے

اکتسابی

اکتسابی علم وہ علم ہے جو انسان کو خالق دو جہاں نے تجربات اور مشاہدات اور

عقل کی روشنی سے عطا فرمایا ہے یعنی جب وہ کسی چیز کو اپنے تجربات اور مشاہدات کے بعد مفید یا مضر پاتا ہے تو اس کو اختیار یا اس سے اجتناب برنا ہے اسی طرح جب اس کی عقل ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جن کی اس نے مفید یا مضر چیزیں تجربہ و مشاہدہ کی ہوں تو ان کو بھی وہ اپنے استعمال میں ضرورت کے مطابق لاتا یا پرہیز کرتا ہے

وہی

وہی وہ علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ انسان کے قلب میں اور اک کے ذریعے پیدا کر دیتے ہیں کہ فلاں چیز تھمارے لئے مفید ہے یا مضر۔ اس علم کو وجود انی بھی کہتے ہیں کیونکہ قوت و اہمیہ اس میں خاص طور پر کام کرتی ہے یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ قوت وجود انی قوت و اہمیہ کی انتہائی ترقی یافتہ صورت کا نام ہے یہ وہی علم کہیں تو ضرورت کے مطابق عام انسانوں کو حاصل ہوتا رہتا ہے لیکن اہل علم اور حکماء پر اس کا القاؤ انسکشاف اور فیضانِ خصوصی طور پر ہوتا رہتا ہے اور وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو علم اور عقل کی روشنی میں پر کھتے رہتے ہیں اور جب وہ تجربہ و مشاہدہ میں اور عقلائی صحیح ثابت ہوتا ہے تو اس کو عوام کی خدمت کے لئے پیش کر دیتے ہیں حکما سے بھی بہت زیادہ اس علم کا القاؤ انسکشاف اور فیضانِ نبوت و رسالت پر ہوتا ہے وہ اس سے اس زندگی اور

کائنات کی ہر چیز کے خواص و فوائد قدرت سے حاصل کرتے ہیں اور دنیا کو
مطلع کرتے ہیں تاکہ ان سے مستفیض ہو

جاننا چاہیے کہ یہاں پر ہم جس علم سے بحث کریں گے وہ اکتسابی ہی ہو جاتا
ہے لیکن ہم اکتسابی اس علم کو کہیں گے جو ہمارے تجربات و مشاہدات اور عقل
کی روشنی میں صحیح ثابت ہو صحیح ہونے کا معیار یہ ہے کہ ہم جب کبھی بھی
تجربات و مشاہدات کے بعد نتیجہ دیکھیں تو وہی نکنا چاہیے یا جب کبھی اس
کے متعلق دلائل دیئے جائیں تو وہی نتیجہ برآمد ہوں اور اسی کو آج کل کی
زبان میں سامنہ کہتے ہیں

حرارت غریزی و رطوبت غریزی

علم حفاظان صحت کا جہاں تک انسان کے جسم سے تعلق ہے اس کے لیے یہ
نہایت ضروری ہے کہ انسان کے اعضاً جسم اور ان کے افعال کا پوری
طرح علم ہو یہ علم اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب انسان کا نظمہ قرار پاتا
ہے کیونکہ اگر اس دوران میں بھی اس نظمے کی نگرانی نہ کی جائے تو اس کے
ضائع ہونے کا احتمال ہے جس چیز کی انسان کے حفاظان صحت میں نگرانی کی
سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس کا مزاج طبیعت اور طاقت کا اعتدال
ہے اور یہی چیز قرار نظم سے انسان کی موت تک مدنظر رہتی ہے سوال پیدا

ہو جاتا ہے کہ یہ مزاج طبیعت اور طاقت کیا شے ہے اور ان کی نگرانی کیسے ہو سکتی ہے یہ ایک نہایت اہم سوال ہے اور صحت کے قیام کے لیے اس کا ذہن نشین کرنا سب سے پہلی بات ہے

جاننا چاہئے کہ نطفہ قرار پاتے وقت کرم منی۔ حرارت غریزی اور رطوبت غریزی کا مجموعہ ہوتا ہے یہ نطفہ ایک جسم ہے جس کی پرورش رطوبت غریزی اور حرارت غریزی سے عمل میں آتی ہے انہی دونوں چیزوں سے اس کو غذا ملتی ہے اور اس میں نشووار تقاء اور تصفیہ کا عمل جاری رہتا ہے یہ دونوں چیزوں میں اگر اعتدال سے اپنا عمل جاری رکھیں تو نطفہ صحت کے ساتھ نشووار تقاء کے مراحل طے کر لیتا ہے اور اگر ان کا توازن قائم نہ رہے تو نطفہ کے ضائع ہونے میں کوئی شبہ نہیں جس کی صورت یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھ جائے تو دوسری کو فنا کر دے گی جس سے نطفہ کی غذائیت یا تصفیہ و پرورش میں خلل واقع ہو جائے گا اور نطفہ ضائع ہو جائے گا مثلاً اگر حرارت بڑھ جائے تو رطوبت کو جلا دے گی اور رطوبت کی زیادتی حرارت وختم کر دے گی اسی توازن سے جسم انسان زندہ رہتا ہے اور اگر اس میں نمایاں فرق واقع ہو جائے تو انسان کی صحت نہ صرف خراب بلکہ بعض اوقات تباہ ہو جاتی ہے

بدل ماتیخلل

نطفے کی حرارت و رطوبت اس قدر قلیل ہو جاتی ہیں کہ انہی سے انسان کے جسم کا کم و بیش سانچھ ستر سال تک زندہ رہنا محال ہے اس لئے قدرت نے ان دونوں کے قیام - تقویت اور امداد کے لیے بیرونی طور پر بھی رطوبت و حرارت کا انتظام کر دیا ہے جو اس حرارت غریزی کا معاون ہوتا ہے اور پھر تھوڑی بہت حرارت و رطوبت غریزی کو جو نطفہ قرار پانے کے بعد خرچ ہونا شروع ہو جاتی ہے پورا کرتا رہتا ہے اور انسان کی ضرورت کو پورا کرتا رہتا ہے اس رطوبت اور حرارت کو انسان کی ضروریات کو پورا کرتی رہتی ہے بدل ماتیخلل کہتے ہیں

سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدل ماتیخلل حرارت غریزی اور رطوبت غریزی کی کمی کو پورا کرتا ہے یا خود پر خرچ ہو کر ان دونوں کا قائم مقام بن جاتا ہے

اعتراض

یہاں پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر بدل ماتیخلل خود حرارت غریزی اور رطوبت غریزی کی کمی کو پورا کرتا رہتا ہے یعنی خود حرارت و رطوبت غریزی بن جاتا ہے تو پھر حرارت غریزی اور رطوبت غریزی جن کو حرارت اصلی اور

رطوبت اصلیہ بھی کہتے ہیں اور جن سے اعضاً اصلیہ تیار ہوتے ہیں ان کی کوئی ہستی نہ رہی کیونکہ ہم ان کو مصنوعی طور پر تیار کر سکتے ہیں اور اگر وہ حرارت اور رطوبت جوان کا بدل ماتحکمل بنتی ہے وہی کام انجام دے سکتی ہے جو حرارت غریزی اور رطوبت غریزی انجام دینی ہے تو پھر بڑھا پا کیوں آتا ہے اور موت کیوں واقع ہوتی ہے

جواب

اس کا جواب یہ ہے کہ حرارت غریزی اور یہ رطوبت غریزی کا بدل ماتحکمل نہیں بن سکتا جو رطوبت اور حرارت بدل ماتحکمل کے طور پر خرچ ہوتی ہے وہ صرف ایک ضرورت ہے جو پوری کی جاتی ہے اور اس سے رطوبت و حرارت غریزی کی مدد کی جاتی ہے تاکہ وہ جلدی تحلیل ہو کر ختم نہ ہو جائے اس کی مثال ایک چراغ کی ہے جس کی روشنی - بتی اور تیل تینوں بیک وقت کام کرتی ہیں چراغ کی روشنی حرارت غریزی میں رطوبت غریزی اور تیل بدل ماتحکمل ہے یہ بدل ماتحکمل جہاں ایک طرف چراغ کی روشنی کو قائم رکھنا وہاں دوسری طرف اس کی بتی کو جلنے نہیں دیتا

صحت کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ حرارت غریزی چراغ کی روشنی کی طرح اعتدال سے جلتی رہے اور اس کی رطوبت غریزی بھی ایک دم فانہ

ہو جائے یہ وہ اعتدال ہے جو دونوں میں قائم رکھا جاتا ہو اگر رطوبت بڑھ جائیں تو حرارت کا ختم ہونا اغلب ہے اور حرارت کی زیادتی سے رطوبت کا جل جانا لازمی ہے

خون

نطفہ جب تک علقہ نہیں بنتا اس وقت تک وہ اپنی غذا پنے اندر کی رطوبت سے حاصل کرتا ہے اور جب علقہ بن جاتا ہے اس کا تعلق رحم سے پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی غذا میں کے رس سے حاصل کرتا ہے پیدائش کے بعد اسکو اول یہ غذا میں کے دودھ سے اور پھر دنیاوی اغذیہ اور اشرب سے حاصل ہوتی رہتی ہے جس سے اس کا بدل ماتحکمل پورا ہوتا رہتا ہے

ان امور سے ثابت ہوا کہ طبیب انسانی صحت کی حفاظت تو کر سکتا ہے لیکن اس پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ وہ انسان کا شباب برقرار رکھے یا اس کو ایک طویل عمر تک زندگی دے سکے موت کا روک دینا تو اس کے بس کا بالکل روگ نہیں کیونکہ نطفہ کے قرار پانے کے بعد حرارت غریزی اور رطوبت غریزی کچھ نہ کچھ ضرور خرچ ہوتی رہتی ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ ان میں ایک خاص قسم کی کمی واقع ہوتی رہتی ہے جس طرح چراغ کے جلنے میں اس بیتی کے تھوڑا تھوڑا جلنے کے ساتھ ساتھ وہ کم ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتی ہے

یہی صورت انسانی زندگی کی بھی ہے کہ وہ آخر میں حرارت غریزی اور رطوبت غریزی کے ختم ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اس لئے ہمیشہ کے لیے شباب اور زندگی ناممکنات میں ہے

اطباء کے فرائض صرف حفظان صحت کے اصولوں کا ذہن نشین کرانا ہے تاکہ صحت قائم رہے البتہ جب مرض پیدا ہو جائے تو اس کو صحت کی طرف لوٹانا اس کا کام ہے صحت کے قیام کے لیے اہم چیز حرارت غریزی اور رطوبت غریزی کی پوری نگرانی اور ان کے بدل ماتstell کو صحیح طریقوں پر پورا کرنا ہے اور یہ کوشش بھی جاری رہے کہ رطوبات اصلیہ میں کوئی فساد یا تعفن پیدا نہ ہونے دے اگر وہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب رہا تو انسان اپنی طبعی عمر کو پہنچے گا اور اس کی قوت اور صحت ایک صحیح حالت قائم رہے گی

موت

موت دو قسم کی ہوتی ہے (1) طبعی (2) غیر طبعی۔ طبعی وہ موت ہے جو حرارت و رطوبت غریزی کے پورے طور پر خرچ ہونے کے بعد واقع ہو جس کے متعلق اطباء کا خیال ہے کہ وہ سوا سو سال سے ڈیڑھ سو سال تک ہونی چاہیے کیونکہ ان کا اندازہ ہے اکہ انسان پچیس تیس سال تک اپنی جوانی کو پہنچتا ہے اور اس کو اس کے بعد پانچ گناہ عرصے تک زندہ رہنا چاہیے اور اگر

اس کے دوران میں وہ کسی مرض کا شکار ہو جاتا ہے یا ذوب جاتا ہے یا چانسی لگ جاتا ہے یا گر کر مر جاتا ہے وغیرہ تو یہ اس کی غیر طبعی موت ہو گی

حفظان صحت کے اہم عناصر

حفظان صحت کے اہم عناصر حسب ذیل تین ہیں

1- صحت کے قیام کے لیے بدل ماتھل کی جو ضرورت ہے وہ ایک مسلمہ امر ہے اور بدل ماتھل ہمیشہ اغذیہ واشربہ سے حاصل کیا جاتا ہے اس لئے حفظان صحت میں سب سے اول چیز اغذیہ واشربہ ہیں کہ ان کو اپنی ضرورت کے مطابق صحیح اصولوں پر استعمال کرے اور ان سے بدل ماتھل حاصل کرے

2- غذا کے بعد دوسری اہم چیز یہ ہے کہ انسان کے جسم میں غذا کھانے کے بعد جو فضلات اکٹھے ہوتے ہیں ان کو باقاعدگی کے ساتھ اخراج کرنے کی کوشش کرتا رہے اس کی صورت جسم کو اعتدال کے ساتھ حرکت دینے اور کام میں لگانے سے عمل میں آتی ہے جس میں ورزش بھی شریک ہے کیونکہ سکون بھض جسم میں فضلات کو روک دیتا ہے

3- انسان اپنی قوتوں کو ضرورت سے زیادہ خرچ ہونے سے بچاتا رہے ضرورت سے زیادہ جسمانی اور دماغی محنت اور حرکت سے یہ قوتیں ضائع

ہونے لگتی ہیں

یہ تینوں باتیں اگر اعتدال پر قائم ہیں تو صحت انسانی کی حفاظت اچھے طریق پر ہو سکتی ہے اس مقصد کے لیے اسباب ستہ ضروری یہ جن کا ذکر ماماک طب حصہ اول میں کیا گیا ہے بہت حد تک کافی ہیں بعض اہم باتوں کا ذکر ممندرجہ بالا تین اصولوں کے متعلق کیا جاتا ہے جو صحت کے لیے بہترین ضروری ہیں

اغذیہ واشربہ

غذا کی مقدار میں اعتدال کو قائم رکھنا اور غذا کے استعمال کے بعد پتھر سکون کرنا ضروری ہے

یادداشت

غذا کھانے سے قبل یہ ضروری ہے کہ بھوک شدت سے لگی ہوئی ہو بغیر بھوک کے کبھی غذا کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے بھوک میں بھی اس امر کو ملحوظ رکھا جائے کہ بھوک دو قسم کی ہوتی ہے صادق - کاذب اشتهاۓ صادق کی علامات یہ ہیں کہ جسم میں فرحت ہو گی اور وہ ہلاکا ہو گا اور گرم معلوم ہو گا غذا کھاتے وقت لذت محسوس ہو گی اشتهاۓ کاذب میں یہ باتیں نہیں ہوں گی

بلکہ کمزوری محسوس ہوگی دل میں گھٹنے کی حالت پائی جائے گی اور کھانے میں بے دلی سی قائم رہے گی کھانے کے بعد جسم بے حد سست اور بوجھل رہے گا بلکہ بعض اوقات حرکت کرنے کو دل نہیں چاہتا ہر غذا پہلی غذا کے ہضم ہونے کے بعد کھانی چاہئے اگر چہ بھوک بھی کیوں نہ لگی ہو اور اشتها صادق نہ حاصل ہو جائیں کیونکہ ہر غذا جو ہم کھاتے ہیں اس کے ہضم ہونے میں کم سے کم چھ سات گھنٹے خرچ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ غذا معدے اور چھوٹی آنٹوں سے اتر کر بڑی آنٹوں میں چلی جاتی ہے اگر چھ سات گھنٹے سے قبل کھالیا جائے تو طبیعت پہلی غذا کی طرف مصروف ہوتی ہے اور اگر اس کو ہضم کئے بغیر چھوڑ دے اور دوسری کی طرف مصروف ہو جائے تو پہلی غذا میں تعفن اور فساد پیدا ہو جائے گا اور اگر دوسری کی طرف توجہ نہ دے تو اس میں بھی تعفن و فساد پیدا ہونا ضروری ہے ایک وقت میں مختلف نذاؤں کا اکٹھا استعمال کرنا درست نہیں۔

یادداشت

مختلف انڈیے میں بعض لطیف اور بعض ثقیل ہوتی ہیں اور طبیعت لطیف انڈیے کو جلدی ہضم کر لیتی ہے اور ثقیل انڈیے دیر تک اندر پڑی رہتی ہیں نیز بعض انڈے ہی ایک دوسرے کی مخالف ہوتی ہیں مثلاً مچھلی اور دودھ۔ ترشی اور

دودھ۔ ستو اور دودھ انگور اور سری کا گوشت، انار اور چاول اور سرکہ۔ ان

ایک ساتھ اکٹھا کھانے سے پرہیز کرنا چاہئے
 اگر غذا چربی والی ہو تو اس کے ساتھ نمکین یا چرپی چیزیں کھائی جائیں اور
 اسی طرح اس کے برعکس بہتر یہ ہے کہ ہمیشہ ایک ہی غذانہ کھائی جائے بلکہ
 تبدیلی کے ساتھ کھائی جائے بھوک کو روکنا مناسب نہیں کیونکہ ایسا کرنے
 سے معدے کی طرف خراب مواد گرتے ہیں غذا دن کے معتدل وقت میں
 کھانی چاہئے موسم سرما میں دوپہر کے وقت اور موسم گرم میں صبح و شام کھانا
 مناسب ہے کھانے سے مراد یہاں پیٹ بھر کے کھانا اور پورا کھانا مراد ہے
 ایک ہی قسم کے کھانے بار بار کھانے سے اور ایک ہی ذائقہ بار بار استعمال
 کرنے سے جسم میں نقصان پیدا ہوتا ہے مثلاً ترش غذاوں کے بکثرت اور
 متواتر استعمال سے بڑھا پا جلد آ جاتا ہے نزلہ زکام اکثر رہتا ہے اعضا میں
 نشکل پیدا ہو جاتی ہے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اسی طرح نمکین چیزیں
 بدن کو لاغر اور دل میں ضعف پیدا کرتی ہیں میٹھی چیزیں و بھوک کو ضعف اور
 بدن کو گرم کرتی ہیں ان کی مضرت کو ترش غذا سے اور ترش غذا کی مضرت کو
 میٹھی غذا سے دفع کرنا چاہئے پھیکا اکثر کھانے سے بھوک جاتی رہتی ہے اور
 بدن میں سستی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے اس کی مضرت کو نمکین اور چرپی

چیزوں کے استعمال سے دور کرنا چاہئے

مشروبات

مشروبات میں تین چیزیں خاص طور پر شریک ہیں (1) پانی (2) دودھ
(3) شراب (مشروب)

پانی

پانی اکثر پیاس کے وقت پیا جاتا ہے اور پیاس کھانے کے دوران میں بھی لگتی ہے اور بعد بھی اور بغیر کھانے کے بھی۔ پانی پینے کا وقت پیاس ہے خواہ غذا کے ساتھ یا اس کے بعد وغیرہ

یادداشت

جاننا چاہئے کہ پیاس دو قسم کی ہوتی ہے صادق۔ کاذب صادق پیاس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ معدے میں پڑی ہوئی غذا کو ریقق بنائے اور اس کو باریک شریانوں سے گزارنے کے لیے ذریعہ بنے غذا کے دوران میں بھی جب پیاس لگتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں اول معدے میں تیز اور سوزش پیدا کرنے والی انذیہ کی بے چینی اور دوسری معدے میں انتہائی خشکی جو غذا کھانے کے ساتھ اکثر بڑ جاتی ہے اور طبیعت اس کو ریقق کرنے کے لیے پانی

طلب کرتی ہے پیاس کا ذب کی پہچان یہ ہے کہ اگر پیٹ بھر کر تسلی کے ساتھ بھی پانی پی لیا جائے اور پھر بھی پیاس نہ بجھے اس کی وجہ عالم طور پر شور بلغم یا لیسدار مواد کی معدے میں زیادتی ہوتی ہے جس کو طبیعت رفع کرنا چاہتی ہے لیکن ٹھنڈا پانی پینے سے بلغم اور بھی جم جاتی اور مادہ شور میں زیادتی واقع ہو جاتی ہے اسی طرح تختہ اور ہیضہ میں بھی پیاس کی شدت ہوتی ہے جس کی وجہ غذا کا کچا ہونا اور معدے میں سوزش اور متعفن مواد کی موجودگی ہوتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ پانی کے لیے کچھ دیر توقف کیا جائے اور اگر توقف ممکن نہ ہو تو گرم پانی تھوڑا تھوڑا دیا جائے یا بغیر دودھ کے چائے دی جائے مرض میں شدت ہو تو مناسب علاج کیا جائے بعض دفعہ دماغی اور اعصابی سوزش میں بھی شدید پیاس لگتی ہے اس کا بھی مناسب علاج کیا جائے بعض اوقات تر میووں کے استعمال سخت ورزش اور مختن - حمام اور جماع کے بعد جب پیاس لگے تو پانی سے روکنا چاہئے جہاں تک ممکن ہو نہار منہ پانی نہیں پینا چاہئے

دو دھن

دودھ غذا میں شامل ہے اور اس کو غذا کے طور پر یا غذا کے ہمراہ استعمال کرنا چاہئے یہ ہرگز نہ کیا جائے کہ یہ پانی کے قائم مقام نہیں ہے بغیر غذا کے

استعمال کیا جائے دودھ استعمال کرنے کا بہترین وقت کا ناشتہ ہے ناشتے کے ہمراہ اس کو استعمال کرنے سے صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے دودھ ہمیشہ نیم گرم ہوا اور اس کو ہلکا شیریں بھی کر لینا چاہئے اسی طرح بعض لوگ دودھ میں پانی ملا کر اس کی لسی بھی پیاس کے وقت پیتے ہیں اس کے متعلق یہ جانا ضروری ہے کہ اس کے اثرات اپنے اندر بالکل دودھ کی طرح غذائیت کے ہیں البتہ اس میں برودت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اکثر استعمال سے معدہ ٹھنڈا اور سوئے مزاج بارد کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں اول تو اس کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہئے لیکن جب استعمال کی جائے تو غذا اور اس کے درمیان کافی وقفہ ہونا چاہئے

دہی کی لسی

دہی کی لسی بھی غذا میں شریک ہے اور اس کو بھی ہمیشہ غذا کے مقام یا اس کے ہمراہ استعمال کرنا چاہئے اس کے بکثرت استعمال سے حرارت غریزی کم ہو جاتی ہے اور نفع شکم کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے اس کا استعمال دوپہر کو غذا کے ہمراہ کرنا چاہئے

شراب (مشروب)

شربت کا استعمال بغیر طبیب کی مرضی کے کبھی نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اسکی
نقصان بہت زیادہ اور فوائد بہت ہی کم ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ
ہے کہ ترش مشرد بات کے استعمال سے خواہشات نفسانی بھڑک اٹھتی ہیں جو
کسی صورت نہیں بھجتیں جس سے طبیعت انتہائی منقاض ہو کر دل کے لیے بے
حد نقصان کا باعث ہوتی ہے جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے اس کو اکثر
اعتدال سے قلیل مقدار میں ضرورت کے مطابق طبیب حاذق کے مشورے
سے استعمال کیا جائے تو یہ تمام جسم کے اعضا میں انشوار ارتقا اور قوت کی
صلاحیت پیدا کرتی ہے اور ساتھ ہی گندے فضلات کو پچانٹ دیتی ہے اور
جسم میں صالح مواد کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے لیکن ان فوائد
کے ساتھ ساتھ جب اس کے اثرات بڑھتے جاتے ہیں تو انہی چیزوں کے
لیے نہت نقصان کا باعث ہوتی ہے اس کے اثر بہت بڑھنے کا سبب یہ ہوتا
ہے کہ اس ایک انفعہ شروع کرنے کے بعد خواہ وہ دواء ہی کیوں نہ کیا جائے
چھپوڑنا مشکل ہو جاتا ہے گویا یہ تھوڑے ہی ۶ حصے میں ایسی عادت بن جاتی
ہے کس کا چھپوڑنا تقریباً ناممکن ہے اس کو چھونا بھی جائے فوائد کے باعث

نقصان ہے

حرکت عمل

حرکت و عمل میں تین چیزیں اہم ہیں (1) ورزش (2) ماش (3) حمام

یادداشت

جاننا چاہئے کہ تین چیزیں اس لیے اہم ہیں کہ جسم انسان پر ان کے اثرات سے فضلات اندر نہیں رکتے اور اخراج پا جاتے ہیں ان کی ضرورت اس لیے اور بھی زیادہ ہے کہ دنیا میں کوئی غذا بھی ایسی نہیں جس کا فضلہ نہ بنے اور اسی طرح کوئی دوا بھی ایسی نہیں جو ان فضلات کو پوری طرح جسم سے خارج کر دے اور اس کا نقصان طبیعت کو نہ پہنچے اس لیے اس مقصد کے حصول کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ جسم کو حرکت و عمل کی عادت ڈالی جائے اس میں ورزش ایک ایسی چیز ہے جس میں بغیر کسی اور تدبیر اور خرچ کے انسان اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے مگر ماش اور حمام میں ایک خاص اہتمام کی ضرورت ہے بہر حال ضرورت کے مطابق ان کا استعمال لازمی اور مفید ہے کیونکہ اگر یہ فضلات جسم کے اندر چھوڑ دیئے جائیں تو اکٹھے ہو کر تین قسم کا نقصان پیدا کرتے ہیں

1- ان میں تعفن پیدا ہو کر جسم کی رطوبات بر باد ہونا شروع ہو جاتی ہیں

2- رطوبات کی زیادتی حرارت غریزی کو ضائع کر دیتی ہے

3- مادے کی رکاوٹ رگوں یا آنٹوں میں سدے پیدا کرنے کا باعث ہوتی

ہے ان فضلات کا اخراج جس احسن طریقہ پر ورزش۔ مالش اور حمام سے ہو سکتا ہے وہ کسی اور دو اوتھیرے ممکن نہیں اس کے علاوہ ورزش۔ مالش اور حمام کے بعد جسم اکثر ہلکا اور خوشی محسوس کرتا ہے بھوک بڑھ جاتی ہے جسم مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے اور روز بروز زیادہ طاقت کا احساس ہونے لگتا

ہے

ورزش

ورزش ایک ایسی حرکت ارادیہ ہے جس میں بڑے بڑے سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے ورزش مادی امراض کو رفع کرتی ہے حرارت غریزی کو برا لیکھتے کرتی ہے جوڑوں کو سخت بناتی۔ فضلات کو تخلیل کرتی اور مسامات کو کھولتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں

(1) وہ جو تمام جسم کے لیے عام ہو یعنی اس کا اثر تمام بدن پر پڑے مثلًا دوڑنا سیر کرنا۔ گھوڑا دوڑانا۔ کشتی لڑنا وغیرہ

(2) وہ جو صرف بعض اعضاء کے ساتھ مخصوص ہیں مثلًا اوپھی آواز سے پڑھنا سرو سینہ اور آلات تنفس سے فضلات پاک اور غذا کو قبول کرنے کے لیے مستعد ہوتے ہیں بھاری پھرائٹھا ناسخت کمان کا کھینچنا۔ گیند بلا کھیلنا۔ ان سے دونوں ہاتھوں۔ گردان۔ سینہ دونوں شانوں اور پشت کا تنقیہ ہوتا ہے تیز چلننا

بھی خاص ورزش ہے اس سے دونوں رانوں اور دونوں پنڈلیوں کا تنقیہ ہوتا ہے

یادداشت

ورزش کا اچھا وقت وہ ہوتا ہے جب بدن غلط فضلات اور براز سے پاک ہو اور غذا ہضم ہو جکی ہواں کے لیے بہتر وقت صحیح یا تیسرا پھر ہے ورزش عام طور پر معتدل ہونی چاہئے زیادہ شدید قسم کی ورزش بعض اوقات نقصان کا باعث ہوتی ہے معتدل ورزش میں تھکن کم ہوتی ہے دوران خون جلد کی طرف آ کر اس کو سرخ کر دیتا اور پھیلا دیتا ہے اور ہلکا ہلکا پینہ آتا ہے جب پینے میں شدت اور جسم میں تھکن کی زیادتی محسوس ہو تو فوراً ورزش چھوڑ دینی چاہئے بعض ورزشیں جسمانی اثر کے ساتھ روحانی اثرات بھی رکھتی ہیں مثلاً مقابلے کی دوڑ گھوڑ دوڑ گیند بلا وغیرہ جن میں ورزش کے ساتھ جتنے ہارنے کی سرت اور افسوس بھی شامل ہوتا ہے جس سے نفس میں حرکت پیدا ہوتی ہے

بعض ورزشوں کے فوائد

کشتی کی سیر اخلاط میں تحریک و یہجان پیدا کرتی ہے اور اس سے جذام استدقا اور سکتنا کو بھی اکثر فائدہ ہو جاتا ہے رات کے وقت کشتی کی سیر مقوی

قلب ہے لیکن اس میں چاند کی تیز روشی لازمی ہے تیرنے سے معدہ بہت زیادہ مقوی ہو جاتا ہے تیز تیز چلنا گردوں کو صاف کرتا اور ضعف جگر میں بہت مفید ہے باغات کی سیر باعث فرحت قلب اور دماغ میں سرو لاتی ہے شدید قسم کی ورزشیں جیسے کشتی کھیلنا۔ پھر انہانا جسم سے بلغم کو خارج کرتا ہے

ماش

ماش سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے جسم کو تیل یا بغیر تیل کے ملے اس کی کئی قسمیں ہیں مثلاً صلب جو اعضاء کو مضبوط بناتی ہے لیکن جو ڈھیلہ کرتی ہے کثیر جو متواتر کی جائے یہ اعضاء کو دبلا کرتی ہے معتدل یہ موٹا کرتی ہے کھجولی (جو کھدرے کپڑے یا ہاتھ سے کی جائے) یہ خون کو ظاہر بدن کی طرف جذب کرتی ہے اور نرم ماش جو نرم ہتھیلی یا نرم کپڑے سے کی جائے تو ساموں کو بند کرتی ہے یعنی اس عضو کی طرف کھینچ کر وہاں جمع کر دیتی ہے

یادداشت

ماش کا طریقہ یہ ہے کہ ابتداء میں قوت کے ساتھ شروع کی جائے اور پھر آہستہ آہستہ نرم کر دی جائے اگر تیل لگانا ہو تو شروع میں ہی لگالیا جائے

حمام

حمام سے مراد بند کمرے میں گرم پانی یا گرم بخارات سے غسل کرنا ہے یا اس میں اس وقت تک ٹھہرنا ہے کہ جس سے جسم کے فضلات پسینہ کے ذریعہ اخراج پائیں حمام کے اندر سرد پانی سے غسل کرنے کو حمام نہیں کہتے بلکہ حمام میں گرم پانی یا گرم بخارات کا استعمال لازمی ہے

حمام کے قین کمرے ہونے چاٹ میں پہلا کمرہ معتدل دوسرا گرم تر اور تیسرا گرم خشک اور ہر کمرے میں اس کے مطابق ہی ہوا استعمال کی جائے گرم کمرے میں معتدل پانی یا معتدل کمرے میں بہت تیز گرم پانی نہ استعمال کیا جائے کیونکہ یہ گرمی پیدا کرتا ہے اچھا حمام وہ ہے جو عرصہ دراز کا بنا ہوا ہوا اس کے کمروں کی فضا کشادہ اور ہوا پاپک صاف ہو پانی شیریں ہو اور اس میں اس قسم کا ایندھن نہ جلایا جائے جس میں کسی خاص قسم کی بو وغیرہ پائی جائے حمام کو بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہئے کیونکہ وہ زیادہ تخلیل کا باعث ہوتا ہے اور اعضا کو ڈھیلا بنا دیتا ہے اور نہ ہی پانی ٹھنڈا ہونا چاہئے کیونکہ وہ پسینہ نہیں لاتا اور حمام کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ جسم پر پسینہ آجائے اور ہلکی سی حرارت حاصل کر لے

حمام کا طریقہ و فوائد

نہار منہ حمام کرنا بدن کو خشک کرتا ہے اور پیٹ بھرا ہونے کی حالت میں موٹا بناتا ہے اور غذا کو ظاہر بدن کی طرف جذب کرتا ہے لیکن ایسا حمام سدے پیدا کرتا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ حمام نہ تو نہار منہ کیا جائے اور نہ سیر شکم ہونے کی حالت میں۔ حمام میں کسی چیز کے کھانے پینے سے پر ہیز کرنا چاہئے کیونکہ ایسا کرنے سے وہ ہضم ہونے سے قبل ہی راستوں کے کشادہ ہونے کی وجہ سے دور کے اعضا تک پہنچ جاتی ہے حمام میں زیادہ دریتک بیٹھنے سے ضعف اعضا کی طرف فضلات گرنے لگتے ہیں جسم سُست پڑ جاتا ہے اعصاب کو ضرر پہنچتا ہے حرارت سے تخلیل ہو جاتی ہے اور غذا کی خواہش اور قوت باہ ساقط ہو جاتی ہے یہ باقیں اور مضر تین صرف حمام میں زیادہ عرصہ بیٹھنے پر ہی موقوف نہیں بلکہ خود حمام بھی ان تمام مضرتوں کو پیدا کرتا ہے

یادداشت

جب تک جسم اعتدال پر نہ آ جائے اس وقت تک حمام کے پہلے کمرہ میں رہنا چاہیے اور جب باہر نکلنے کا ارادہ ہو تو بدن کو خوب ڈھانپ لینا چاہیے تاکہ ہوانہ لگ جائے جن لوگوں میں صفراء کی زیادتی ہوان کو گرم حمام نہیں کرنا چاہیے

عام طور پر خالی شکم حمام کرنے سے لاغری پیدا ہوتی ہے جو لوگ ریاضت کم کرتے ہیں ان کو اکثر ایسا حمام کرنا چاہیے جس سے پینہ آجائے آب سرد سے غسل کرنا بدن قوی کرتا ہے مگر سردی کے وقت سرد پانی سے غسل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے بچوں بوزوں اور مریضوں کو سرد پانی کے غسل سے روکنا چاہیے

جسم و قوت کی کثرت تخلیل اور شدید محنت

اس کے ذیل میں تین صورتیں ہیں (1) جسمانی اور دماغی محنت (2) جذبات کی زیادتی (3) مباشرت

جسمانی اور دماغی محنت

جسمانی اور دماغی محنت کی کثرت جسم میں بہت زیادہ تخلیل پیدا پیدا کرتی ہے جس کو بدل ماتھل پورا نہیں کر سکتا اور ضعف واقع ہو جاتا ہے عام طور پر جسمانی محنت زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں چار گھنٹے اور پھر ایک گھنٹہ وقفہ کے بعد دو گھنٹے سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے جسمانی محنت کرنے والوں کے لئے لازمی ہے کہ غذی پیش بھجوڑ کھائیں اور اس میں گوشت کی مقدار کافی ہوئی چاہیے دماغی محنت کرنے والوں کے لئے زیادہ سے زیادہ ایک وقت

میں تین گھنٹے اور پھر ایک گھنٹہ وقفہ کر کے بعد ڈیر ۵ گھنٹے سے زیادہ دماغی کام نہیں کرنا چاہیے اس سے زیادہ دماغی محنت اعصاب میں تخلیل اور اعضاء رئیسہ میں ضعف پیدا کرتی ہے دماغی محنت کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ اپنی غذا میں غلہ کم اور دودھ اور گھنی پھل اور میوجات کا زیادہ استعمال کریں گوشت کا استعمال ان کے دل کے چاہنے کے مطابق کرنا چاہیے اور نہ ہی تو چاہے تو بھی کریں البتہ مچھلی کا استعمال ان کے لئے مفید ہے جسمانی اور دماغی محنت کرنے والوں کے لئے لازمی کہ بھی کبھارا اپنے کام سے چھپی کریں اور وہ وقت تفریح میں خرچ کریں

جدبات کی زیادتی

جدبات کی شدت نہ صرف جسم میں امراض پیدا کرتی ہے بلکہ جسم کو کثرت تخلیل کرتی ہے زیادہ غصہ اور غم سے دل میں تخلیل پیدا ہوتی ہے غصے کی حالت میں ٹھنڈا پانی پینا چاہیے غم کی حالت میں سرت کے ایام اور خدائے رحیم کی رحمت کا تصور ذہن میں تازہ کرنا چاہیے خوف کی حالت میں اعصاب تخلیل ہوتے ہیں اور بعض اوقات بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے ایسے وقت میں خوف زدہ آدمی میں غصہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ خوف رفع ہو جائے سرت اور لذت کے جذبات کی کثرت سے ضعف جگہ پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات

جگری اس قدر تحلیل ہو جاتا ہے کہ صحت خطرے میں پڑ جاتی ہے اعتدال سے زیادہ لذت اور سرت میں گرفتار نہیں رہنا چاہیے اور زیادہ قہقہے بھی نہیں مارنے چاہیے اس سے بھی اکثر جسم میں تحلیل کی صورت پیدا ہو جاتی ہے

مباشرت

مباشرت کی صورت میں ذیل کی باتوں پر شدت سے عمل کریں

(1) بالکل خالی پیٹ مباشرت نہ کی جائے اور کھانے کے فوراً بعد بھی یہ عمل

نقسان رساں ہے

(2) یماری کی حالت میں مباشرت سے قطعاً پرہیز کیا جائے

(3) جسم میں اگر کسی کیفیت کی زیادتی (گرمی تری خشکی) کا شدید احساس ہو تو اس وقت بھی مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیے

(4) غم اور خوف و غصہ کی حالت میں بھی اس سے دور رہنا چاہیے

(5) حیض اور نفاس کے ایام میں مباشرت سے بہت دور رہنا چاہیے

(6) کم سن لڑکیوں سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے عضو مخصوص میں تحلیل پیدا ہوتی ہے

(7) اغلام بازی کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے اس سے اعضاء مخصوصہ میں بے حد ضعف اور خرابی واقع ہوتی ہے

(8) کثرت جماع سے پرہیز کیا جائے اس سے اعصاب کو سخت نقصان پہنچتا ہے اور عام طور ہر اس سے فانج، رعشہ اور تشنخ کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور قلب و بینائی میں ضعف واقع ہو جاتا ہے ذیل کی صورتوں میں مباشرت مفید ہوتی ہے اور صحت کو تقویت حاصل ہوتی ہے

(1) جب اس کی شدید خواہش پیدا ہو لیعنی بغیر کسی یرومنی تحریک کے شہوت کا غلبہ ہو

(2) مکمل تہائی ہو کیونکہ دوسرا کا خوف ضعف قلب پیدا کرتا ہے

(3) جب جسم میں فرحت و انبساط اور خاص قسم کا سرور پایا جائے

نوٹ۔ مباشرت نیک صالح اولاد کے حصول کے لئے کرنی چاہیے اگر یہ مقصد نہیں ہے تو نفسانی خواہش کے فعل کونہ اپنایا جائے کیونکہ قانون فطرت میں خواہش اور ضرورت میں امتیاز کرنا چاہیے خواہشات کی تکمیل کرنے والا صفت انسانی سے دور ہو جاتا ہے بلکہ مقام حیوانی سے بھی نیچے گر جاتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہو گا کہ کبھی کوئی حیوان بلا ضرورت جفت نہیں ہوتے انسانوں کو بھی ان سے سبق سیکھنا چاہیے

مباشرت سے پرہیز کرنے گرانی بدن، تاریکی چشم، درم خصیہ، درم کنج ران جیسے

تکلیف دہ امراض پیدا ہوتے ہیں عورتوں میں اختناق الرحم ضعف قلب اور
اکثر غشی کے دورے شروع ہو جاتے ہیں

یادداشت

مباشرت کے روز نہ انداھونا خوبیوں کا نامدہ کپڑے پہننا ضروری ہے متعفن اور
گندے مقام سے دور رہنا چاہیے مباشرت کی تمام شکلوں میں سے بدترین
صورت یہ کہ عورت مرد کے اوپر آئے اس طرح مرد کے اعضاء مخصوصہ
میں نقصان واقع ہو جاتا ہے صحیح صورت یہ ہے مرد عورت کے اوپر ہو مباشرت
سے پہلے آپس میں خوشی اور سرست کی باتیں کریں اور جسم کے مخصوص حصوں
پر مساس کرنا چاہیے جب تک جسم میں جوش اور لذت کی شدت نہ پیدا ہو
جائے اس وقت تک مباشرت نہ کی جائے اس سے میاں یوں دونوں کے
انزال میں سہولت ہوتی ہے اور دونوں کا انزال ضروری ہے اگر یہ صورت نہ
ہو تو اعضائے رئیسہ میں نقصان واقع ہو جاتا ہے اور پرذ کر دہ خراب امراض
پیدا ہو جاتے ہیں

مباشرت اگر ضرورت کے مطابق کی جائے تو اس سے جسم ہلکا چھلا کا محسوس ہو تو
ہے تھکن دور ہو جاتی ہے اس کے بعد بہت اچھی تسلی بخش نینداتی ہے بھوک
بڑ جاتی ہے اس جسمانی و دماغی محنت کرنے کو جی چاہتا ہے اور اگر اس کے بعد

تحکن سستی اور کمزوری واقع ہو تو یہ جان لیں کہ مواصلت ضرورت کے مطابق نہیں کی جاہی بلکہ لذت و شوق کے تحت لائی گئی ہے یہ صورت نقصان رسال ہے اور اس سے ضعف اعضا نے رئیسہ پیدا ہوگا اور بڑھا پا جلد آتا ہے

مباشرت کے بعد تھوڑی دیر سونا لازمی ہے بعض لوگ اس کے بعد دودھ پی لیتے ہیں یا حلوا اور کوئی مقوی چیز یا مقوی دوا استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں تاکہ مواصلت کا بدل ماتstell ہو جائے لیکن یہ عادت بجائے فائدہ کے نقصان دہ ہے کیونکہ اس وقت دوران خون میں تیزی ہوتی ہے اور خون دور دور سے اپنے فضلات کا اخراج کر رہا ہوتا ہے اور ایسے وقت پر کھانا کھانے سے کا ایک طرف اخراج رک جاتا ہے اور دوسرا طرف طبیعت نئی کھائی ہوئی ندما کی طرف پوری توجہ نہیں دیتی اور اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے کم از کم گھنٹہ ڈیر ہ گھنٹہ کے بعد جب بدن اعتدال پر آ جائے تو غسل کرئے اور بعد میں کچھ لھایا جائے اور اگر ایسی عادت پڑ گئی ہو تو ایسے موقع پر جو چیز مفید ہے وہ خوشبودار پان ہے

عورتوں کو ایام حمل اور زمانہ رضاعت میں جب تک بچہ دودھ نہ چھوڑ دے مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بچے کی صحت پر اثر پڑتا ہے

اور اس سے بچ کو اکثر اسہال، پچھش اور بخار کی شکایت رہتی ہے اور اوقات دق اطفال اور امراض ایمان جیسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں جس سے بچہ سوکھ کر کاٹنا ہو جاتا ہے بچہ کو دوسال دو دھن پلانا ضروری ہے تند رست آدمی کو حض شوق کی خاطر مقوی باہ یا مسک ادویات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کن اعضاء کے لیے مفید ہے اور اکثر اوقات کسی عضو کو زیادہ تیز کرنے سے بھی اس میں ضعف واقع ہو جاتا ہے اسی طرح طلا وغیرہ کا استعمال بھی بجائے فائدہ کے نقصان وہ ہے یہ سب چیزیں مریضوں کے لئے ہیں

بعض لوگ حمل کی روک تھام کیلئے ایسی صورتیں عمل میں لاتے ہیں جس سے حمل قرار میں رکاوٹ ہو مثلاً ازال کے وقت عضو مخصوص کو باہر نکال لینا عضو مخصوص پر ربرٹ کی تھیلی چڑھا لینا یا عورتوں کے جسم میں موافقت کے بعد ایسی ادویات کا رکھنا جن سے نطفہ ضائع ہو جائے یہ ساری صورتیں مرد اور عورت دونوں کے لئے مضرت رسائیں ہیں ان سے دل و دماغ دونوں پر بُرا اثر پڑتا ہے اور منی کے صحیح طور پر خارج نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات مردوں کو جنون، مالینو لیا اور دردسر کی شکایت ہو جاتی اور عورتوں میں اختناق الرحم اور سیلان وغیرہ کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں اسقاط حمل بھی عورتوں کی

صحت پر بہت بُرا اثر ڈالتا ہے ایک اسقاط دس بچوں کی پیدائش سے برابر اثرات رکھتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے عورت کی صحت پر بُرا اثر نہیں پڑتا بلکہ اس کے لئے توانائی کا اثر رکھتا ہے

ہر بچہ جو پیٹ میں پرورش و نشوونما پاتا ہے اور اس میں زندگی کے نئے آثار پیدا ہوتے ہیں تو اس کی اس نموداری کا اثر ماں پر بھی پڑتا ہے اور اس میں نئی زندگی اور حرارت پیدا کر دیتا ہے

تمدابیر موسم

موسم بھی انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں اس لئے ان کے غیر معمولی اثرات سے بچنے کی تمدابیر کرنی چاہیے خصوصاً ان لوگوں کو جن کے مزاج کے لئے تکلیف وہ ہوں علاج کے دوران میں بھی موسم کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ بعض امراض بعض موسموں میں مشکل العلاج ہوتے ہیں اور بعض موسموں میں تیز اور تندا دو یہ استعمال نہیں کی جاسکتی چند ضروری باتیں درجہ ذیل ہیں

(1) موسم بہار کے اوائل میں جلدی فصد اور اسہال کرایا جائے اور تمام گرم

ترچیزوں سے پرہیز کیا جائے

(2) موسم گرم میں غذا اور ورزش میں کمی کر دی جائے سایہ میں بینہنا جسم کو

دھوپ سے بچانا آرام و آسائش سے رہنا گرمی بچانے والی اشیا کا استعمال

اس موسم میں لازمی ہے عادی لوگوں کو قے کرانے میں تاخیر و تسلیم نہ کریں
 (3) خزان میں خشکی پیدا کرنے والی اشیاء اور سرد پانی کا استعمال، سرد مکان
 میں سونا درست نہیں ہوتا نیز اس کے اوائل میں استفراغ کیا جائے تمام ایسی
 چیزیں کھاتی جائیں جو قدر تر گرم ہوں

(1) موسم سرما میں فصل اور قے سے پر ہیز لازمی ہے مگر بقدر ضرورت
 اسہال کی اجازت ہے اس موسم میں غذا کا بکثرت مگر بقدر ہضم استعمال
 کریں کیونکہ اس موسم میں ہضم اچھا ہو جاتا ہے

یادداشت

حاملہ عورت کو فصل سنگیاں اسہال اور قے سے پر ہیز کرنا چاہیے البتہ اشد
 ضرورت کے وقت اجازت ہے اسی طرح حمل کے دوران میں شدید خوف،
 غصہ، ہولناک آوازوں نیز تیز خوشبووں سے پر ہیز کرنا چاہیے

علم العلاج

علاج معالجہ کرنے کا طریقہ جانا

علاج کرنے کے طریقوں کو جانا علاج چار طریقوں سے کیا جاتا ہے
 (1) علاج بالغذا (2) علاج بالدوا (3) علاج بالید (اپریشن یا فصل کے

ذریعہ) (4) علاج بالدعا یہاں ہم صرف تین طریقہ ہائے علاج تفصیل بیان کریں گے

علاج بالغذا

علاج بالغذا کی اہمیت اور وسعت

خداوند کریم نے بھوک پیدا کی ہے تاکہ انسان کو اپنی ضرورت غذا کا احساس ہو لیکن بھوک میں جو خوبیاں ہیں انسان نے ان کو نظر انداز کر کے اپنی غذائی ضرورت کا دار و مدار اپنی خواہشات پر مقرر کر دیا ہے یعنی جس چیز کو دل چاہا جب بھی چاہا کھالیا اس طرح رفتہ رفتہ بھوک کا تصور ہی ختم کر دیا اس طرح ضرورت غذا اور خواہش غذا کا فرق ہی ختم ہو گیا لیکن قدرت کے فطری قوانین ایسے ہیں جو لوگ ان کی پیروی نہیں کرتے یا ان کو سمجھے بغیر زندگی میں من مانی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ امراض کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے

تاریخی اہمیت

جمہور حکماء اور اطباء متقدین و متاخرین بلکہ ہر دین کے علماء کا بھی اس حقیقت پر اتفاق ہے کہ بھوک ایک مرض ہے اور اس کا علاج حسب ضرورت اور مناسب غذا کا کھانا ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے

جس نے غذا کی اہمیت و ضرورت اور استعمال پر کچھ نہ کچھ نہ لکھا ہو اور اسلام میں تو اس قدر لکھا گیا ہے کہ اس پر ایک طویل کتاب بن سکتی ہے اسلام نے اس کو اس قدر وسعت اس لیے دی ہے کہ غذا سے مندرجہ ذیل صورتیں پیدا ہوتی ہیں

1- غذا سے انسانی کردار پیدا ہوتا ہے

2- غذا زندگی کی ضرورت ہے

3- رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے جن لوگوں کی ان حقائق پر نظر ہے وہ شخصیت اور قوم کی تغیر کے لیے بڑا کام کرتے ہیں

آیورویدک

ایک انتہائی قدیم طریقہ علاج ہے اس کی قدامت اس قدر قدیم ہے کہ اس کا تعین کرنا مشکل ہے البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ چین کی تہذیب و تمدن ہند سے قدیم ہے اس لیے اس کا علم و فن قدیم کہا جاسکتا ہے بہر حال جہاں تک دونوں کے علم و فن طب کا تعلق ہے دونوں کی بنیاد کیفیات و مزاج اور اخلاق پر ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں ہند اور چین ایک ہی ملک تھے اور ان کی تہذیب و تمدن بھی ایک تھا اس لیے ممکن ہے کہ آیورویدک ہی نے چینی طب کی شکل اختیار کر لی ہو بہر حال آیورویدک اپنی بنیاد پت و پر کرتی اور

دوشوں کے مطابق ہر غذا اور آب و ہوا کے استعمال میں ارکان و مزاج اور اخلاط کو مد نظر رکھے بغیر علاج نہیں کر سکتی اس طریق علاج میں سب سے اہم تاکید یہ ہے کہ علاج کے دوران میں پت و پر کرتی اور دوشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اول غذا سے علاج کیا جائے اگر مرض میں شدت ہو تو پھر مجرب مفرد ادویات سے علاج کیا جائے پھر بھی اگر مرض باقی ہو تو مجرب مرکبات سے مرض کو دور کیا جائے اور ادویات کے علاج کے دوران میں بھی غذا کو پت و پر کرتی اور دوشوں کے تحت ہی استعمال کیا جائے اور یہی صحیح آیورودیک علاج ہے

طب یونانی میں غذا کی اہمیت

طب یونانی کی قدامت بھی تقریباً آیورودیک کے برابر قدیم ہے کیونکہ ابتداء جب یونان میں اس کی ترتیب و تدبیح ہوئی اور اس نے کتابی صورت اختیار کی تو اس کا نام طب یونانی رکھا گیا لیکن یہ حقیقت ہے کہ طب ہزاروں سال یونانی دور سے قدیم ہے جس طرح مختلف تہذیبوں اور تمدنوں میں عروج و زوال پیدا ہوتا گیا طب میں بھی نشو و رقا پیدا ہوتا گیا چین و ہند کے بعد تہذیب و تمدن بابل و نینیا میں نظر آتی ہے جس کو آج کل عراق و عرب اور مملائیں کہتے ہیں اس کے بعد تہذیب و تمدن کا کمال مصر میں نظر آتا ہے

ابوالہول، اہرام مصر، (پیراماٹ) آج بھی اس پر گواہ ہیں جہاں پر بے شمار فرعون گزرے ہیں اس کے بعد یہی تہذیب و تدین اور ثقافت روما سے گزرتی ہزاروں سالوں میں یونان پہنچی۔ اگرچہ مصر میں کاغذ کی ابتداء ہوئی تھی علم و فن کی تحریرات مقبروں سے ملی ہیں لیکن یونان خصوصاً بقراط کے زمانے میں علم و فن طب کی کتابی صورت میں ترتیب و تدریس ہوئی جس پر اسلامی دور تہذیب و تدین میں چار چاند لگ گئے لفظ ”طب“ بذات خود عربی نام ہے لیکن احتراماً یونانی لفظ ساتھ قائم رہا ہے یہ علم و فن ایمانداری کی دلیل ہے طب یونانی میں علاج تین صورتوں میں کیا جاتا ہے (1) علاج بالتدبیر (2) علاج بالدوا (3) علاج بالید (سرجری)

علاج بالتدبیر

علاج بالتدبیر میں تین باتیں شامل ہیں اول اسباب ضروریہ جو مندرجہ ذیل ہیں (1) ہوا و روشنی (2) مأکولات و مشروبات (3) حرکت و سکون بدنسی (4) حرکت و سکون نفسیاتی (5) نیند و بیداری (6) استفراغ و احتباس (دوم) کیفیات و مزاج اور اخلاق اور تغیر و تبدل (سوم) احوال اور حالات میں نظم یعنی مریض جس تکلیف وہ ماحول میں گھرا ہوا ہے اور مشکل حالت میں اس میں بہتر تبدیلی پیدا کرنا

چونکہ ان تینوں باتوں کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر غذا سے ہے اس لیے یہ سب کچھ علاج بالغذہ میں شریک ہیں ان کے علاوہ جہاں تک کا تعلق ہے اس میں طب کا قانون درجہ ذیل ہے

ماکولات و مشروبات

ماکول و مشروب (کھانا پینا) میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جو منہ کے ذریعے جسم میں پہنچائی جاتی ہیں ان کی چھ صورتیں ہیں (1) غذائے مطلق (2) دوائے مطلق (3) سم مطلق (4) غذائی دوائی (5) دوائے غذائی (6) دوائے سمی، جن کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے

غذائے مطلق: خالص غذا کو کہتے ہیں جب وہ بدن میں داخل ہوتی ہے تو بدن سے متاثر ہو کر تغیر ہو جاتی ہے لیکن بدن میں کوئی تغیر پیدا نہیں کرتی بلکہ خود جزو بدن بن کر بدن کے مشابہ ہو جاتی ہے یعنی خون میں تبدیل ہو جاتی ہے مثلاً دودھ، گوشت اور روٹی وغیرہ

دوائے مطلق: خالص دوا جب وہ بدن میں داخل ہوتی ہے تو بدن سے متاثر ہو کر بدن میں تغیر پیدا کر دیتی ہے اور آخ رکار جزو بدن ہوئے بغیر بدن سے خارج ہو جاتی ہے جیسے زنجیل، بادیان اور ملٹھی وغیرہ

سم مطلق: خالص زہر۔ جب وہ جسم میں داخل ہو تو وہ خود تو بدن سے متاثر نہ ہو لیکن بدن کو متغیر کر کے اس میں فساد پیدا کر دے مثلاً سنگھیا، کچلہ افیون وغیرہ

غذائے دوائی: غذا میں کچھ دوائی اثرات شامل ہوں جب بدن میں داخل ہوتی ہے تو بدن سے متاثر ہو کر متغیر ہو جاتی ہے اور خود بھی بدن کو متاثر کرتی ہے اس کا زیادہ حصہ جزو بدن بنے اور کچھ حصہ جزو بدن بنے بغیر جسم سے خارج ہو جائے مثلاً مچھلی و میوہ جات

دوائے غذائی: دوا میں کچھ غذائی اثرات شامل ہوں جب بدن میں داخل ہوتی ہیں تو بدن سے متاثر ہو کر متغیر ہو جاتی ہے اور خود بھی خون کو متاثر و متغیر کرتی ہے اس کا تھوڑا حصہ جزو بدن بتتا ہے اور زیادہ حصہ جزو بدن بنے بغیر جسم سے خارج ہو جاتا ہے میوہ جات و گھنی اور نمک و مٹھاس وغیرہ

دوائے سُمی: دوا جس میں کچھ زہر یا اثرات شامل ہوں جب بدن میں داخل ہوتی ہے تو بدن سے بہت کم متاثر ہوتی ہے اور بدن کو بہت زیادہ متاثر و متغیر کرتی ہے اور نقصان پہنچاتی ہے جیسے نیلا تھوڑا اور پارہ وغیرہ

ماکول و مشروب کے صورتیں

ماکول و مشروب (کھانے پینے) کے اثرات کی صورتیں یہ ہیں کہ اگر فقط مادہ سے اثر انداز ہو تو اسے غذا کہتے ہیں اگر صرف کیفیات کا اثر زیادہ ہے تو دوا ہے اگر اس کا اثر مادہ و کیفیت دونوں سے ہو تو اگر مادہ زیادہ ہے تو غذائے دوائی اور اگر کیفیت زیادہ ہے تو دوائی غذائی کہتے ہیں اگر صرف اپنی نوعیہ سے اثر کرے تو اسے دوائیاً حصہ کہتے ہیں جس کی دو صورتیں ہیں اول دوائیاً حصہ موافقہ تریاق اور دوسرے دوائیاً مخالفہ جیسے زہر۔ اگر مادے اور صورت نوعیہ سے اثر انداز ہو تو غذائے دوائیاً حصہ اور اگر کیفیت اور صورت نوعیہ سے اثر کرے تو اس کو دواز و دوائیاً حصہ کہتے ہیں

اس مختصر تفصیل سے اندازہ ہو گا کہ غذا کے اثرات اور وسعت کس قدر طویل ہے یعنی ادویات میں بھی غذائی اثرات شامل ہیں اس لیے علاج بالغذاء میں ایسی تمام ادویات شامل ہیں اور ہماری روزانہ زندگی میں ان کا کثرت سے استعمال بھی ہوتا ہے جیسے نمک اور مٹھاں وغیرہ اور ایسی خالص ادویات بھی شامل ہیں جو روزانہ زندگی کا جزو ہیں زنجیل و مرچ سیاہ اور گرم مصالحہ وغیرہ

غذا کی اقسام

غذا کی دو اقسام ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں (1) غذائے لطیف (2) غذائے

کثیف

غذائے لطیف: ہمکی پھلکی قسم کی ایسی غذا جس سے رقیق خون پیدا ہو جیسے

آب انار وغیرہ

غذائے کثیف: بھاری یا بھدی قسم کی ایسی غذا جس سے غلظت (گاز) ہو جائے

خون پیدا ہو مثلاً گائے کا گوشت وغیرہ

پھر ہر ایک کی دو صورتیں ہیں (1) صالح الکیوس یا فاسد الکیوس (2) کثیر

الغذاء قلیل الغذاء

صالح الکیوس: ایسی غذا جس سے جسم کے لیے بہترین خلط پیدا ہو جیسے

بکرے کا گوشت اور ابلاء ہوا انڈہ وغیرہ

فاسد الکیوس: وہ غذا جس سے ایسی خلط پیدا ہو جو بدن کے لیے مفید نہ ہو

جیسے مولی یا نمکین سوکھی مچھلی وغیرہ کیموس کے معنی خلط کے ہیں

کثیر الغذاء: کثیر الغذاء وہ غذا ہے جسی کا اکثر حصہ خون بن جائے جیسے

برشت انڈے کی زردی وغیرہ

قليل الغذا: قليل الغذا وہ غذا ہے جس کا تھوڑا سا حصہ خون بنے جیسے
پاک کا ساگ

غذائے لطیف۔ کثیر الغذا اور صالح الکیوس کی مثال زدی بیضہ نیم
برشت انڈہ اور ماء اللحم (یعنی) ہے

غذائے کثیف۔ قلیل الغذا اور فاسد الکیوس کی مثال خشک، گوشت، بیگن،
مسور اور باقلاء ہیں

پانی

پانی چونکہ ایک ایسا بسیط رکن ہے اس لئے بدن کی غذا نہیں بنتا بلکہ غذا کا بدر رکن
بنتا ہے یعنی غذا کو پلاکر کے باریک تنگ راستوں میں پہنچانے کا کام کرتا
ہے

بہترین پانی

چشموں کا پانی سب سے بہتر ہوتا ہے اور چشموں میں سے بہتریں چشمہ وہ
ہے جس کی زمین خاکی ہو اور اس کی صفت یہ ہو کہ اس کا پانی شیریں ہو اور
اس کا پانی مشرق کی طرف بہتا ہواں کا سر چشمہ دور ہو بلندی سے پستی کی

طرف آئے اور اس پر آفتاب کی روشنی پوری طرح پڑتی رہے
یہ یاد رہے کہ موجود پانی جو ہمارے گرد و پیش میں ہے وہ بسیط پانی نہیں ہے
جیسا کہ ارکان کے بیان میں لکھا جا چکا ہے بلکہ یہ مرکب پانی ہے اور کئی
چیزوں سے مرکب ہے یہ پہیٹ میں جا کر پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے
خاص (رکن) پانی جسم میں اپنے وہ فرائض انعام دیتا ہے جن کا ذکر اوپر کیا
گیا ہے

دوسرے درجہ کا پانی

چشموں کے پانی کے بعد بارش کے پانی کا درجہ ہے لیکن اس میں بھی بہترین
پانی وہ ہے جو پھر یہ گڑھے میں جمع ہو گیا ہو اور اس پر خوب دھوپ پڑتی ہو
اور اس کے ساتھ شمال اور مشرق کی ہواں کے تھیڑے لگتے ہوں ان پانیوں
کے علاوہ دوسرے سب تیسرے درجے کے ہیں جیسے دریاؤں نہروں اور ندی
نالوں وغیرہ کا پانی۔

آج کل شہروں کے اندر پمپنگ اور ڈسٹنگ کا انتظام ہے یعنی پانی کو مشین
کے ذریعے کھینچ کر اس کی تقطیر کی جاتی ہے جو انسان ضرورت کے لیے ایک
اچھی قسم کا پانی بن جاتا ہے لیکن یہ پانی بھی چشموں اور بارش کے پانی کا جو
اپنی صفات میں پورے ہوں مقابلہ نہیں کر سکتا

ایلوپیٹھی میں علاج بالغذاء کو اہمیت

ایلوپیٹھی میں بھی علاج الامراض میں دوائے کے ساتھ غذا کا تعلق ضرور رہا ہے لیکن غذا کو علاج میں کوئی اہمیت نہیں دی گئی اگرچہ خواص الاغذیہ اور علاج بالغذاء پر بے شمار کتب لکھی گئی ہیں لیکن علاج بالغذاء کو فن کی حیثیت سے کبھی نہیں اپنایا گیا

گزشتہ تیس سالوں سے خصوصاً دوسرا جنگ عظیم میں علاج بالغذاء پر بہت کچھ لکھ گیا ہے لیکن مقام حیرت ہے کہ اس کونہ تو عوام میں اور نہ ہی معاجمین میں وہ مقبولیت حاصل ہوئی جس کا وہ واقعی مستحق تھا حالانکہ غذا کے متعلق یورپ و امریکہ نے جو تھیوریاں اور نظریات پیش کیے ہیں اگر ان کو جمع کیا جائے تو کئی مقبول کتب بنی ہیں لیکن اکثر غلط اور بے معنی تھیوریوں اور نظریات نے نہ صرف عوام اور معاجمین کا نقصان کیا بلکہ عوام کو ان کی ان تحقیقات سے نفرت سی ہو گئی جوئی تحقیقات کے بعد گزشتہ تھیوریوں اور نظریات کو غلط قرار دے دیتی ہیں یہ تھیوریاں اور نظریات اکثر انہی کمپنیوں کی طرف سے شائع ہوتی رہیں جو غذائی قسم کی تجارت کرتی ہیں لیکن ان کے بر عکس جو کمپنیاں دوائیوں کا کاروبار کرتی ہیں انہوں نے اس کو کبھی برداشت نہیں کیا اور عوام کے ذہن میں فوری شفا اور آرام بخش ادویات کی لذت اور شوق پیدا کر دیا لیکن یہ نہیں

سوچنے دیا کہ کہ فوری شفا اور آرام بخش ادویات صرف مسکنات و مخدرات اور نشہ آور ہی ہو سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ایلووچنی میں کوئین اور اس کے اقسام مارفیر اور اس کی بنی ہوئی ادویات کے ساتھ ساتھ اپیون و بھنگ اور دھتو را کا اس کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے کہ شاید ہی کوئی دوا اس کے بغیر استعمال ہوتی ہو

امریکہ کے ایک ڈاکٹرویلے نے جو ماہر علاج بالغذا سمجھے جاتے تھے ایک بار کہا تھا کہ بہت جلد ایسا دور آنے والا ہے کہ ڈاکٹر مراپنوں کو نہیں دیں گے وہ ادویات نہیں بلکہ انذیر ہوں گے اس امر میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ ڈاکٹر موصوف نے کہا تھا وہ درست ہے کیونکہ موجودہ سائنسی دور میں جو کچھ غذا ایسات پر تحقیقات ہوئی ہے اگر اس کو سلیقہ سے ترتیب دے دیا جائے تو علاج بالغذا پر ایک بہت بڑا خزانہ سامنے آ جاتا ہے جس کی مختصر حقیقت درج ذیل ہے

غذائی تجزیہ

غذا میں پانچ اجزاء کا ہونا ضروری ہے (1) پروٹین۔ اجزاء یعنی (2) فیش اجزاء یعنی (3) کاربوہائیڈز ریٹن۔ شکری اور نشاستہ دار غذا (4) سائل نمکیات (5) واٹر پانی۔ جس غذا میں ان سے کسی ایک جزو کی کمی نہیں رہے

گی تو یقیناً امراض پیدا ہوں گے اور ایسا ہوتا ہے

وٹامن کی ضرورت

مندرجہ بالا غذائی اجزاء کے ساتھ ان میں ایک قسم کا جو ہر بھی ہوتا ہے جس کو وٹامن (حیاتین) کہا جاتا ہے جس غذا میں یہ وٹامن نہ ہوں یا ضائق ہو جاتے ہیں یہ تجربات کیے گئے اور درست ثابت ہوئے ہیں ان کو علاج بالغذا کے طور پر استعمال کیا گیا لیکن ایلوپیتھی کو کامیابی نہ ہوئی کیونکہ ان کو ادویات کی صورت دے دی گئی یا ادویات میں شامل کر لیا گیا اور مقصد علاج بالغذا ختم ہو کر رہ گیا

جب ایلوپیتھی کی یہ تحقیق سامنے آئی کہ انسان کی بناوٹ میں چودہ پندرہ قسم کے نمکیات پائے جاتے ہیں جیسے کیشیم و فیرم اور سلفرو پوتاشیم وغیرہ اور ان کی کمی بیشی اور خرابی سے امراض پیدا ہوتے ہیں اگرچہ یہ اجزاء ادویات میں شمار ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف یہی اجزاء ہماری اغذیہ کے اجزاء بھی ہیں گویا جن امراض میں ان اجزاء کی کمی ہوا ہی قسم کی غذا استعمال کر دینا ان امراض کے لیے شفا ہے یہ نظریہ بھی صحیح ہے مگر ادویات کے تاجریوں نے اس کو بھی فروغ نہیں دیا اور بے موت مر گیا آئندہ زمانے میں شاید ہی ایلوپیتھی غذائی نظریات اور علاج بالغذا میں کامیاب ہو سکے اسی نظریہ پر ڈاکٹر شسلر نے

بایوکیمک کی بنیاد رکھی تھی جس کا نظریہ یہی تھا کہ غذائی ادویات میں جو بھی نمک خون میں کم یا خراب ہو گیا ہوا سے پورا کر دیا جائے بہت حد تک صحیح تھا مگر ڈاکٹر موصوف نے ہومیوپیٹھی کی تقلیل ادویات کی اندھی تقلید کر کے اس قیمتی نظریہ کو برداشت دیا اس نے یہ نہ سمجھا کہ ہومیوپیٹھی کی تقلیل تو بالمثل کی وجہ سے ہے اور بایوکیمک میں کثرت درکار ہے لیکن یاروں کے ہاتھ ایک مشغله آگیا اور علاج بالغذا پر سب سے کاری ضرب جراثیم تھیوری نے لگائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جراثیم تھیوری علاج بالغذا کو معا الجین اور عوام سے ہمیشہ دور رکھنے کی وجہ سے اس کو ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے

جراثیم تھیوری

ایلوپیٹھی کے اسباب و تحقیق اور علامات کا رخ اس وقت سے بدل گیا ہے جب سے ڈاکٹر کاخ صاحب نے تقریباً ہر مرض کا سبب کوئی نہ کوئی جرثومہ تحقیق کیا ہے علامات میں بھی اسی کو پیش کیا ہے نظریہ جراثیم کے پیش کرنے کے بعد ایلوپیٹھی سب سے بڑی خرابی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہر مرض کی تشخیص میں مادی و غذائی اور کیفیاتی و نفسیاتی وغیرہ اسباب کو نظر انداز کر کے صرف جراثیم کی تلاش شروع کر دی ہے اگر جراثیم نظر آ جائیں تو ان کے مارنے کے لیے انجکشن اور نشتر سنجهال لیے جاتے ہیں لیکن اس مرض میں نہ تو مادی و

غذائی اور کیفیاتی اثرات کو مدنظر رکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے مشینی تغیرات اور کیمیا دی تبدیلیوں کو سامنے رکھا جاتا ہے جس کا اکثر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مریض مر جاتا ہے اور اگر نجح جاتا ہے تو دائم المریض بن جاتا ہے ہمیں جراشیم کی ہستی سے انکار نہیں ہے لیکن ان کو امراض و صحت اور زندگی میں جس طرح سموایا گیا ہے وہ مفید ہونے کی بجائے نقصان کا باعث بن کر رہ گیا ہے

ہومیوپیٹھی میں غذا کا تصور ہی نہیں ہے

چونکہ ہومیوپیٹھی ایک خاص قسم کا طریق خواص الادویہ ہے اس میں غذا کے متعلق کوئی تصور بھی نہیں پایا جاتا کہ مختلف اقسام کے مریضوں کو کون کون سی اغذیہ کا استعمال کرنا چاہئے ان کے بھی خواص و بالمثل اور نہ بالضد کسی قانون پر نہیں پائے جاتے بلکہ لطف کی بات یہ ہے کہ جب کسی ہومیوپیٹھی ڈاکٹر سے پوچھا جاتا ہے کہ غذا میں کیا پرہیز رکھنا چاہئے اول تو وہ یہ کہے گا کہ کوئی پرہیز نہیں صرف حقہ اور سگریٹ فورانہیں پینا چاہئے اور اگر پرہیز کرے گا تو وہی علاج بالضد یعنی تیل، ترشی اور لال مرچ و ثقل اغذیہ وغیرہ سے پرہیز رکھا جائے تجارتی قسم کے لوگوں نے اس کو ایک جدا مکمل علاج سمجھ لیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی طریق علاج نہیں ہے صرف بالمثل خواص الادویہ حاصل

کرنے کا ایک طریقہ ہے جیسے بائیوکیمک میں ایک طریق پر بعض غذائی ادویات (آرگینک اٹھینٹ) کے خواص بیان کیے گئے ہیں اسی طرح کروموپیتھی، ہائیڈروپیتھی، الیکٹرولوپیتھی، فزوپیتھی، علاج روحانی، علاج موسيقی علاج بالفاقہ، علاج بالغذا، تعویز و گند اور جھاڑ پھونک وغیرہ وغیرہ کو تجارتی اور سرمایہ پرست لوگوں نے ایک جدا طور پر بنایا کر رکھ دیا ہے ایسا خیال کرنا نہ صرف زبردست فریب ہے بلکہ بالکل غلط ہے

علاج بالغذا میں غلط فہمی

عام طور پر علاج بالغذا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ان امراض کے ساتھ ہے جو اعضائے اندنیہ سے پیدا ہوتے ہیں جن میں منہ کے غدد و درمی معدہ و امعاء جگہ و طحال اور لبلبہ شریک ہیں زیادہ سے زیادہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ (1) وہ امراض جو اعضائے ہضم کی خرابی سے ظاہر ہوں (2) وہ امراض جو غذا کی کمی بیشی یا اجزاء نے غذائیہ کی کمی بیشی سے پیدا ہوتے ہیں بعض مخصوص اندنیہ جو بعض امراض میں مفید ہیں لیکن ایسا خیال کرنا غلط ہے بلکہ علمی پر منحصر ہے

حقیقت علاج بالغذا

علانج بالغذا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اعضاے غذائیہ خصوصاً منہ سے لے کر مقعد تک کوئی ایک ہی قسم کا عضو نہیں ہیں اور نہ ہی ایک ہی قسم کی نسیخ (ٹشو) سے بنے ہیں بلکہ انہی انواع سے بنے ہیں جن سے اعضاے رینسہ بنا ہے ہر مفرد عضو (نسیخ) کا تعلق ان کے ساری ہے اس لیے جب بھی اعضاے غذائیہ میں کسی حصہ میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہ عضوریتیں میں جب بھی اعضاے غذائیہ میں کسی حصہ میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہ عضوریتیں میں بتلائے مرض ہو جاتا ہے اس لیے متعلقہ عضو درست ہونے پر صحت کامل حاصل ہو جاتی ہے چونکہ خون جسم کی غذا بنتا ہے اور غذا سے خون پیدا ہوتا ہے اس لیے غدائی اجزاء ہی صحیح معنوں میں صحت و طاقت قائم رکھتے ہیں

زندگی اور ضرورت غذا

زندگی کے لازمی اسباب

ہر زندگی کے لیے وہ انسانی ہو یا حیوانی اس میں اسباب زندگی لازمی ہیں جن میں (1) ہوا اور روشنی (2) کھانا پینا (3) حرکت و سکون جسمانی (4) حرکت و سکون نفسانی (5) نیند اور بیداری (6) استفرا غ و احتبا س ضروری امور ہیں یہ ایسے قوانین اور صورتیں ہیں جن سے زندگی کا تعلق کائنات سے

بھی پیدا ہو گیا ہے انہی کو اس اسباب زندگی کہا جاتا ہے طبی اصطلاح میں ان کو اسباب ستر ضروریہ کہتے ہیں ان میں جب کمی بیشی واقع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بدن انسانی میں جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو مرض کا نام دیا جاتا ہے یہ چھ اسباب ضروریہ دراصل عمل حیثیت میں تین صورتیں اختیار کر لیتے ہیں (اول) جسم کو غذا ایت مہیا کرنا جیسے ہوا اور روشی اور ماکولات و مشروبات ہیں (دوسرے) جسم میں غذا ایت کو ہضم کر کے جزو بدن بناتے ہیں جیسے نیند اور بیداری، حرکت و سکون جسمانی اور حرکت و سکون نفسانی (تیسرا) جسم کے اندر غذا ایت ایک مقرر وقت تک قائم رکھتے ہیں تاکہ جزو بدن بن جائے اور جب ان کی ضرورت نہ ہو تو اس کو خارج کر دے ان کو احتباس اور استفراغ کہتے ہیں

غذا ایت اور زندگی

غذا ایت میں ہوا اور روشی کے ساتھ ہر قسم کی وہ اشیاء شامل ہیں جو کھانے پینے میں استعمال ہو سکتی ہیں جن میں تیز ابادت اور زہر بھی شامل ہیں ان کے متعلق یہ امور ذہن نشین کر لیں کہ وہ سب جسم میں صرف غذا ایت مہیا نہیں کرتی ہیں بلکہ جسم بھی بناتی ہیں اور جسم کو متاثر بھی کرتی ہیں اس کے ساتھ بدل مانگھل کی تکمیل بھی ہوتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حرارت غریزی اور

رطوبت غریزی کی مدد کرتی ہے ان حقائق سے ثابت ہوا کہ غذا سیت کی ضرورت ذیل کی صورتوں میں لازم ہے

1- غذا سیت سے اخلاق خصوصاً خون پیدا ہوتا ہے

2- غذا سیت سے کیفیات بنتی ہیں

3- غذا سیت سے جسم کی تغیر ہوتی ہے

5- غذا سیت سے حرارت غریزی کو مدد ملتی ہے

6- غذا سیت سے رطوبت غریزی قائم رہتی ہے

غذا کی ضرورت کی ایک دلیل یہ ہے کہ جس طرح تیل چراغ کی بقی میں خرچ ہوتا ہے اور جلتا ہے اسی طرح انسان اور حیوان کے بدن کی حرارت اور رطوبت بھی خرچ ہوتی ہے بالکل چراغ کے اور بقی کی طرح جب وہ دونوں خرچ ہو جائیں تو وہ بجھ کر رہ جاتا ہے اسی طرح حرارت اور رطوبت انسانی جوانہتائی ضروری اور لاابدی اشیاء ہیں ان کا بدل اور معاوضہ ہونا لازمی امر ہے تاکہ حرارت غریزی اور رطوبت غریزی فوراً جل کر فنا نہ ہو جائیں اس لیے غذا سیت ایک انتہائی ضروری طور لاابدی شے ہے اس کے کیے اس کی طلب اور تقاضا ایک اضطراری اور غیر شعوری حالت ہے انسان کے

جسم کی حرارت غریزی اور رطوبت غریزی کی مثالیں چراغ کی بقیٰ اور تیل کی سی ہیں جو چراغ کے جلنے کو قائم رکھتے ہیں کبھی بقیٰ جل جانے سے چراغ بجھ جاتا ہے اور کبھی تیل خرچ ہو جانے سے چراغ گل ہو جاتا ہے یہی صورت انسانی جسم میں پائی جاتی ہے اور حرارت غریزی اور رطوبت غریزی ختم ہو کر انسانی زندگی کو فنا کرتی رہتی ہیں اس لیے اگر انسان حرارت غریزی کی حفاظت کرتا رہے تو نہ صرف طبعی عمر کو پہنچتا ہے بلکہ امراض سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اس کے قویٰ اور طاقتیں قائم رہتی ہیں

اس حقیقت سے اکثر انسان ناواقف ہیں کہ حرارت کیسے پیدا ہوتی ہے اور رطوبت کیسے قائم رہتی ہے عام طور پر یہی ذہن نشین کر لیا گیا ہے کہ جو غذا وقت بے وقت کھالی جائے وہ ضرور خون اور طاقت بن جاتی ہے زیادہ سے زیادہ گرم یا مرغن انڈیہ کھالینا کافی ہیں لیکن ایسی باتیں حقیقت سے بہت دور ہیں اگر اتنا سمجھ لینا کافی ہوتا تو ہر امیر آدمی انتہائی صحت مند ہوتا اور ان میں کوئی مریض نظر نہ آتا بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو امیروں میں مریض زیادہ ہوتے ہیں اور بھوک فقیروں اور غریبوں میں تو مریض خصوصاً پیچیدہ امراض کے مریض تو مشکل سے نظر آتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ صرف غذا کا کھالینا ہی صحت و طاقت کے لیے کافی نہیں بلکہ اس کے لیے کچھ اصول

بھی ہیں تاکہ وہ غذا جسم میں جا کر مناسب طور پر حرارت اور رطوبت کی شکل و صورت اختیار کرے اور خرچ ہو ایسا نہ ہو کہ بجائے مفید و معاون اثرات کے مضر اور غیر معاون ثابت ہو کر مرض یا فنا کا باعث بن جائے یہی صحیح غذا کے استعمال اور غذا ائیت سے مفید اثرات حاصل کرنے کا راز ہے

طاقت غذا میں ہے

جاننا چاہئے کہ انسانی جسم طاقت خصوصاً قوت مردانہ کے کمال کا پیدا کرنا صرف مقوی اور اکسیر ادویات پر ہی منحصر نہیں ہے کیونکہ ادویات تو ہمارے جسم کے اعضاء کے افعال میں صرف تحریک و تقویت و تیزی پیدا کر سکتی ہیں لیکن وہ جسم میں بذات خود خون اور گوشت و چربی نہیں بن سکتیں کیونکہ یہ کام انڈیہ کا ہے

پس جب تک صحیح انڈیہ کے استعمال کو اصولی طور پر مدنظر نہ رکھا جائے تو اکسیر سے اکسیر مقوی ادویہ بھی اکثر بے سود ثابت ہوتی ہیں اگر ان کے لیے مفید اثرات ظاہر بھی ہوں تو بھی غلط انڈیہ سے بہت جلد ان کے اثرات ضائع ہو

جاتے ہیں

حصول قوت میں انڈیہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حکماء اور اطباء نے تقویت کے لیے جو ادویات تجویز کی ہیں ان میں عام طور پر انڈیہ کو زیادہ

سے زیادہ شامل کیا ہے مثلاً حلوہ جات و حریرہ جات اور مریبہ جات و خمیرہ جات وغیرہ شامل ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ تیز قسم کی اغذیہ کو ادویات میں تبدیل کرنے کی صورت میں ماء اللہم دوا آتشہ و سہ آتشہ اور قسم قسم کی شرابیں شامل کر لی ہیں اور کسی جگہ بھی غذائی اثرات کو نظر انداز نہیں کیا گیا یہی فن طب قدیم کا کمال ہے

ہم روزانہ زندگی میں جو پلاو زردہ اور تنجن وغیرہ چاولوں کی شکل میں استعمال کرتے ہیں یہ سب کچھ اغذیہ کو ادویات سے ترتیب دے کر ان میں تقویت پیدا کی گئی ہے اسی طرح سو جی کی بنی ہوئی سویاں، ڈبل، روٹی، حلوہ وحریرہ اور پراٹھے یہ سب کچھ طاقت کو مد نظر رکھ کر اطباء اور حکماء نے ترتیب دیے ہیں البتہ ان کے صحیح مقام استعمال کو جانے اور مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے ایلوپیتھی میں یہ خزانے اور کمال کہاں ہیں وہاں طاقت کی ادویہ میں اغذیہ کا تصور تک نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک ہمارے ملک میں اس وقت بھی ایلوپیتھی ادویات کی طرف رجوع ہی نہیں کیا گیا بلکہ ان ادویات کو خشک سمجھ کر نقصان رسان سمجھا جاتا ہے کیونکہ ایلوپیتھی کی اکثر ادویات تیز ابادت اور زہر ہوتی ہیں ان سے انسانی اعضا نے رینسہ کو غذا بنت کی وجہ نقصان پہنچتا ہے اور اکثر ضعف و نقاہت اور کمی خون کے امراض پیدا

ہو جاتے ہیں اور انسان ہمیشہ کے لیے مریض بن کر رہ جاتا ہے غذا صرف کھا لینے ہی سے طاقت پیدا نہیں ہوتی بلکہ حقیقی طاقت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب غذا کھا لینے کے بعد صالح اور مقوی خون بن جاتا ہے صالح اور مقوی خون میں حرارت اور رطوبت ہوتی ہیں ہے جو حرارت غریزی اور رطوبت کی مدد کرتی ہیں حرارت غریزی اور رطوبت غریزی کا صحیح طور و پیدائش افعال و اثرات اور خواص و فوائد کچھ ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنھوں نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر ربوبیت اور رحمت کی حقیقت و اہمیت، افعال و اثرات اور خواص و فوائد کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو یہ شوق و جذبہ پیدا ہوا ہے کہ وہ زمانے میں ایک ربانی شخصیت بن جائے بہر حال یا اگر ہر ایک کے لیے سہل کام نہیں ہے تو کم از کم اس قدر ہی سمجھ لے کہ صحبت و طاقت کا دار و مدار صالح اور مقوی خون پر ہے اور اس خون سے بدن انسان کو ہر قسم کی غذا ایتیت اور قوت مل سکتی ہے اور ہماری غذا میں وہ تمام اجزاء شامل ہوتے ہیں جن سے صحبت مند اور صالح خون پیدا ہو سکتا ہے جو انسان میں غیر معمولی طاقت پیدا کر دے بلکہ وہ طاقت اس کوشیر کے مقابلے میں کھڑا کر سکتی ہے اس کے ثبوت میں ہم پہلوان کو دیکھ سکتے ہیں کبھی کوئی دوائیں کھا کر پہلوان نہیں بنتے بلکہ غذا کھا کر پہلوان بنتے ہیں البتہ ان کو اس

بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ کیسی غذا کھائیں اور اس کو س طرح ہضم کریں

غذا اور طاقت

یہ حقیقت ذہن نشین کر لیں کہ دنیا میں کوئی غذا بلکہ کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو انسان کو بلا وجہ اور بلا ضرورت طاقت بخشنے مثلاً دودھ ایک مسلمہ طور پر مقوی غذا سمجھی جاتی ہے لیکن جس کے جسم میں ریشہ اور بلغم اور رطوبت کی زیادتی ہو اس کے لیے سخت مضر ہے گویا جن لوگوں کے اعصاب میں تحریک اور تیزی و سوزش ہو وہ اگر دودھ کو طاقت کے لیے استعمال کریں تو ان کا مرض روز بروز بڑھتا جائے گا اور وہ طاقت بڑنے کی بجائے کمزور ہوتے جائیں گے اسی طرح مقوی اور مشہور غذا گوشت ہے ہر مزاج کے لوگ اس سے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک فاضل حکیم جانتا ہے کہ گوشت کا ایک خاص مزاج ہے جس کسی کا وہ مزاج نہ ہو اس کے لیے مفید ہونے کی بجائے مضر ہے مثلاً لوگوں کے جسم میں جوش خون یا خون کا دباؤ (ہائی بلڈ پریشر) بڑھا ہوا ہوان کو اگر گوشت خصوصاً بھنا ہوا گوشت کھلایا جائے تو ان کو اٹا کر مارے گا گویا جن لوگوں کے گردوں میں سوزش ہو اس میں گوشت کا استعمال کی بجائے طاقت دینے کے سخت نقصان وہ ثابت ہوتا ہے تیری مقوی اور مشہور غذا اگھی ہے جو اس قدر ضروری ہے کہ تقریباً ہر قسم کی غذا

تیار کرنے میں استعمال ہوتی ہے لیکن جن لوگوں کو ضعف جگر ہو وہ اگر کھی کا استعمال کریں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں بلکہ تمام جسم پھول جائے گا سانس کی شنگی پیدا ہو جائے گی اور ایسا انسان بہت جلد مر جاتا ہے

یہی صورتیں ادویات میں پائی جاتی ہیں دنیا میں کوئی ایسی دوا مفرد یا مرکب نہیں ہے جس کو بلا وجہ اور بلا ضرورت استعمال کریں اور وہ طاقت پیدا کرے یہی وجہ ہے کہ آج جبکہ فن علاج کو دنیا میں پیدا ہوئے ہزاروں سال گزار^۱ چکے ہیں کوئی حاذق اور فاضل حکیم بلا وجہ اور بغیر ضرورت کسی ایک دوا یا غذا کو عام طور پر مقوی (جزل ٹانک) قرار نہیں دے سکتا، لیکن ایلوپیٹھی اور ان کے دیکھا دیکھی اطباء بھی عام مقوی (جزل ٹانک) یا خاص مقوی (پیش ٹانک) کے نام سے فروخت کر رہے ہیں یہ ہزاروں یورپ کی پیئنٹ مقوی ادویات نہ صرف ہمارے ملک کے کروڑوں روپوں کو بر باد کر رہی ہیں بلکہ انہی سے خطرناک امراض پیدا کر رہی ہیں جن کا استعمال فوراً بند کر دینا چاہئے ہمارے ملک میں ٹی بی (تپ دق و سل) ڈاپٹیز (ذیابیٹس) اور جوش خون (ہائی بلد پریشر) وغیرہ امراض اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق لاکھوں افراد ہر سال ان میں گرفتار ہو جاتے ہیں لیکن کوئی ایلوپیٹھی حکومت کو ان مقوی پیئنٹ ادویات سے روکنے کا مشورہ نہیں دیتا اس

طرح دولت کا ساتھ قوم اور ملک کا نقصان ہو رہا ہے

غذا کھانے کا صحیح طریقہ

میں نے سالہا سال کے طبی مطالعہ اور تجربات میں کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی جو صحیح اور عوامی طریق پر انسان کو غذا کھانے کے اصول بتائے اس میں طب یونانی کے ساتھ وید ک کتب اور ایلو پیتھی کے ساتھ ماڈرن میڈیکل سائنس کی وثائقی تھیوری تک شریک نہیں لیکن قرآن حکیم ہی ایک ایسی کتاب ہے جو صحیح اور عوامی طریق پر غذا کھانے کا انسان کو صحیح طریقہ بتاتی ہے میں یہ بات اپنے مذہب، ایمان اور عقیدہ کی بنا پر نہیں کہتا بلکہ علم و فن اور سائنس کو مدنظر رکھ کر کہتا ہوں جس کو میری اس بات میں مبالغہ معلوم ہوا س کو چیلنج ہے کہ قرآن حکیم کے سیدھے سادے اور یقینی طریق غذا کے استعمال کو دنیا کی کسی طبی یا سائنسی کتاب سے نکال کر دکھادے میں اس شخص کی عظمت کو تسلیم کرلوں گا ایک اور بات میں یہاں بیان کردوں گا کہ میں نے گزشتہ تیس سالوں میں کسی اسلامی قانون کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا گیا جب تک اس کی حکمت و سائنس اور نفیات کے قانون کو پڑھنہیں لیا البتہ بعض مقامات پر دنیا کی حکمت و سائنس اور نفیات کے اصول غلط ہو جاتے ہیں لیکن قرآن حکیم کے قوانین اور سنت الہیہ میں فرق نہیں آتا۔ حقیقت میں یہی قانون

فطرت ہے

قرآن حکیم فرماتا ہے ”کھاؤ پیو مگر بغیر ضرورت کے صرف نہ کرو“، کتنی سادگی سے تم باتیں کہہ دی اور اس میں کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جس قدر جس کا دل چاہے کھائے پئے کوئی کمی بیشی کی مقدار مقرر نہیں کی گئی زیادہ کھانے والے بھی ہوتے ہیں کم کھانے والے بھی۔ ہر ایک کو کھلی اجازت ہے مگر تاکید ہے کہ بغیر ضرورت کے کھانا پینا منع ہے اس ضرورت کا اندازہ لگائے اس کے لیے پیٹ کی طلب ہمارے سامنے ہے یعنی وہ جو کچھ مانگ رہا ہے وہ اس کی ضرورت ہے اس کو بھوک ہے یا جو کچھ کھایا پیا جا رہا ہے وہ صرف ایک خواہش کے تحت کھایا جا رہا ہے اگر بھوک پیاس کے بغیر صرف خواہش اور لذت کے لیے کھایا پیا جا رہا ہے تو پھر یہ اصراف ہے اس و قرآن منع کرتا ہے بھوک اور پیاس کا اندازہ کون لگائے اس کا آسانی سے اندازہ روزوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے اور اس وقت کتنا کھایا جا سکتا ہے گویا صحیح بھوک اور پیاس کے انداز کے مطابق بھوک ہے اور کھایا پیا جا سکتا ہے تو کھاؤ درجہ اس سے کم بھوک اور مقدار میں کھاؤ پیو گے تو یہ خواہش اور لذت ہو گی ضرورت نہیں

مقدار غذا کا اندازہ

مقدار غذا جو ایک وقت کھانی چاہئے اور شدید بھوک پر بھوک کا اندازہ چاہے وہ تیس رے روز ہی کیوں نہ لگے پیٹ بھرنے سے کر سکتا ہے مثلاً شدید بھوک میں انسان اپنے علاقہ و مقام اور معمول کے مطابق تین عدد روٹیاں یا چپاتیاں یا تین تھالیاں بھر کر غذا کھا سکتا ہے تو پھر انسان کو لازم ہے کہ جب تک اس قدر کھانے کی ضرورت نہ ہو غذا کو ہاتھ نہ لگائے جو لوگ کم غذا کھاتے ہیں ان کے پیٹ میں پہلے ہی غذا پڑی خمیر بن رہے ہوتی ہے اس لیے وہ تھوڑی غذا کھاتے ہیں اور وہ بھی پیٹ میں اس غذا سے مل کر خمیر بن جاتی ہے اس طرح خمیر کے ساتھ تبخیر کا سلسلہ جاری رہتا ہے جو بڑھ کر زہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس کا نتیجہ مرض اور ضعف کی صورت میں میں ظاہر ہوتا ہے

بلا ضرورت غذا ضعف پیدا کرتی ہے

عام طور پر اس قول و فعل اور بات و عمل پر سو فیصد یقین پایا جاتا ہے کہ ضرورت و بلا ضرورت غذا کھالی جائے تو وہ جسم انسان کے اندر جا کر یقیناً طاقت پیدا کرے گی اور خون بنائے گی اسی یقین کے ساتھ کمزوری اور مرض کی حالت میں بھی یہی کوشش کی جاتی ہے اور ملیخ کو مقوی غذادی جاتی ہے لیکن یہ نظریہ اور یقین حقیقت میں غلط ہے کیونکہ بلا ضرورت غذا ہمیشہ ضعف اور

مرض پیدا کرتی ہے جو لوگ اور طاقت کے متلاشی ہیں ان کو بلا ضرورت کھانا تو رہا ایک طرف اس کو ہاتھ لگانے اور چکنے سے بھی دور رہنا چاہئے کیونکہ ہر غذا کے چھوٹے اور دیکھنے سے بھی جسم میں لطف ولذت پیدا ہو جاتی ہے اس کا بھی جسم پر اثر ہوتا ہے جیسے ترشی کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے

ہضم غذا

جو غذا ہم کھاتے ہیں اس کا ہضم منہ سے شروع ہو جاتا ہے لعاب دہن اور منہ اور دانتوں کی حرکات و دباؤ اس کی شکل و کیفیت کو بدل کر اس کو ہضم کرنے کی ابتدا شروع کر دیتے ہیں جب غذا معدہ میں اتر جاتی ہے تو اس میں ضرورت کے مطابق رطوبت معدی اپنا اثر کر کے اس کو ایک خاص قسم کا کیمیاوی محلول بنادیتی ہے اور اس کا اکثر حصہ ہضم ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے اور باقی غذا چھوٹی آنتوں میں اتر جاتی ہے معدہ کے فعل و عمل میں تقریباً تین گھنٹے خرچ ہوتے ہیں چھوٹی آنتوں میں پھر اس کی رطوبات اور لبلبہ کی رطوبات اور جگر کا صفر ابารی باری اور وقتاً فوقتاً شریک ہو کر اس میں ہضم ہونے کی قوت پیدا کرتے ہیں اس عمل و فعل میں تقریباً چار گھنٹے صرف ہوتے ہیں پھر یہ غذا بڑی آنتوں میں اتر جاتی ہے جہاں اس کے ہضم میں تقریباً چار پانچ گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں پھر کہیں جا کر غذا پورے طور پر جگر کے ذریعے پختہ

ہو کر خون میں شریک ہوتی ہے اور خون بنتی ہے لیکن حقیقی معنوں میں غذا پورے طور پر ہضم نہیں ہوتی

ظاہر میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غذا ہضم ہوئی کیونکہ وہ خون بن جاتی ہے لیکن طب قدیم میں صحیح معنوں میں غذا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتی جب تک وہ خون سے جدا ہو کر جسم پر متراجح ہو اور پھر طبیعت اس کو جذب کر کے جزو بدن بنادے غذا کو خون بننے تک اگر کیا رہ گھنٹے صرف ہوتے ہیں تو جزو بدن ہونے تک تین چار گھنٹے اور خرچ ہو جاتے ہیں

غذا کا درمیانی وقفہ

ظاہرہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ایک وقت کی کھائی ہوئی غذا خون بن کر جزو بدن نہ ہواں وقت تک دوسری غذا نہیں کھانی چاہئے کیونکہ جو غذا ہضم ہو رہی ہے اس کی طرف پورے جسم و روح اور خون و رطوبت کی توجہ ہے جب بھی اس ہضم کے دوران میں غذا کھائی جائے گی تو جو توجہ اول غذا کی طرف ہے وہ یقیناً نئی غذا کی طرف لگ جائے گی اس طرح اول غذا پوری طرح ہضم ہونے سے رہ جائے گی اور جہاں پر رہ گئی ہے وہاں پڑی رہنے سے متعفن ہو جائے اور یہ تعفن باعث امراض ہو گا اور یقیناً طاقت دینے کی بجائے ضعف پیدا کرے گی اگر طبیعت دوسری غذا کی طرف متوجہ نہیں ہو گی تو یقیناً وہ

بغیر ہضم ہوئے پڑی رہے گی اور متعفن ہو جائے گی اوساً اور فطرت پندرہ سولہ گھنٹے اس پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہے اس لیے اطباء اور حکماء نے اس وقت کو زیادہ اہمیت دی ہے جس وقت ہضم میں تیزی اور طبیعت کی توجہ زیادہ ہو یہ صورت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک غذا چھوٹی آن توں سے بڑی میں اتر جائے اس عرصہ میں تقریباً پانچ سات گھنٹے لگ جاتے ہیں دوسرے معنوں میں اس طرح سمجھ لیں کہ جب تک غذا کے ہضم میں خون کی مختلف رطوبات شامل ہوتی رہتی ہیں اس وقت تک دوسری غذا نہیں کھانی چاہئے کیونکہ اس طرح وہ رطوبات کو ہضم غذا شامل ہوتی ہیں رک جاتی ہیں اور اس طرح وہ خراب اور نامکمل رہ جاتی ہے گویا چھ سات گھنٹے وقفہ ہر غذا کے درمیان لازمی اور یقینی امر سے ورنہ صحت کا قائم رہانا ممکن ہے

روزہ اور وقفہ غذا

اسلام میں روزہ فرض ہے ہر سال پورے ایک ماہ کے روزے ہر بالغ اور صحیح الدماغ انسان پر فرض ہیں ہر روزہ کی ابتداء صحیح سورج نکلنے سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ پہلے شروع ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اس حساب سے روزے کا وقفہ تیرہ چورہ گھنٹے سے پندرہ سولہ گھنٹے بن جاتا ہے اس وقفہ پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے ہر سال میں ایک ماہ کے روزے

رکھنا ہضم غذا کے مکمل نظام کو چلانا اور قائم کرنا ہے اس طرح سارے جسم کی مکمل صفائی ہو جاتی ہے اور خون کیمیا وی طور مکمل ہو جاتا ہے اور تمام اعضاء کے افعال اور نسبہ درست ہو جاتے ہیں

روزہ اور کنٹرول غذا

روزے میں سب سے اہمیت یہ ہے کہ وقت مقرر کے بعد نہ روزہ رکھا جاسکتا ہے اور نہ وقت مقرر سے پہلے کھولا جاسکتا ہے گویا روزہ رکھ لینے کے بعد ہر قسم کا کھانا پینا بالکل بند بلکہ کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھنا بھی اچھا خیال نہیں کیا جاسکتا جاتا اس لیے دوسروں کوتا کید ہے کہ روزہ دار کے سامنے کھانا اور پینا نہیں چاہئے گویا ماہ رمضان میں غذا پر پورے طور پر کنٹرول ہو جاتا ہے البتہ مسافر اور مریض کو غذا کی اجازت ہے اور ان کوتا کید ہے کہ وہ اپنے روزوں کی گنتی سکون اور صحت کے زمانے میں پوری کر سکتے ہیں

اگر اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے کہ قرآن حکیم کا نزول ماہ رمضان میں ہوا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسلام کی ابتداء کنٹرول غذا سے ہوتی ہے اور جو لوگ کنٹرول غذا کرتے ہیں ان کو متقی اور پرہیزگار کہتے ہیں جیسے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”روزے تم پر فرض ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ“

جو لوگ جائز اور اپنی حلال کی کمائی اللہ تعالیٰ کی مرضی (کنسروں) کے بغیر نہیں کھاتے وہ دوسروں کی دولت کی طرف کیسے آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں بس یہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے

اس تقویٰ اور پرہیزگاری اور اطاعت و رضا الہی کو مد نظر رکھیں اور اس طرف غور کریں کہ ”بے شک اللہ تعالیٰ بلا ضرورت خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا“، اللہ تعالیٰ جو تمام طاقتوں کا خالق ہے جس سے ان کی محبت نہ رہے گی تو پھر اس کو طاقت کیسے حاصل ہو سکتی ہے اس لیے غذا میں ضرورت کا احساس اور تصور انتہائی ضروری بات ہے اور عین حقیقت و فطرت ہے باقی رہا غذا کا توازن یعنی کس قسم کی غذا کھانی چاہئے اس کے لیے مزاج و ماحول اور قوت کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے یہ سب کچھ بالاعضا، ہی تسلی بخش طریق پر عمل میں عمل آ سکتا ہے جس کی تحقیقات علم الغذا میں بیان کی جا سکتی ہیں البتہ اس حقیقت کو ضرور مد نظر رکھیں کہ کسی قسم کی غذا ہو اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ حلال اور طیب ہو جیسے قرآن حکیم میں لکھا ہے کلو حلال طیب حلال سے مراد ہے جس شے پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق حاصل کی گئی ہو طیب سے مراد ہے کہ اس شے میں نہ صرف خوشبو ہو بلکہ اس میں تازگی کی بھی خوشبو ہو

یہاں پر یہ مقام قابل غور ہے کہ طیب شے کو حلال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے
یعنی اگر وہ شے طیب نہیں ہے تو یقیناً نجس ہے جس کا درجہ حرام کے بالکل
قریب ہے

ہضم غذا

زندگی کے لازمی اسباب کو اسبابِ ضروریہ کہا جاتا ہے ان کی عملی حیثیت
تین ہیں جیسا کہ لکھا گیا ہے اس کی اول صورت جسم کے لیے غذا حاصل کرنا
ہے جیسے ہوا روشی اور ماکولات و مشروبات وغیرہ ان کا بیان ہو چکا ہے ان کی
دوسری عملی صورت جسم میں غذا کو ہضم کر کے جزو بدن بنانے کے لوازم زندگی
ہیں یہ اسباب ضروری ہضم غذا میں اس لازمی ہیں کہ اگر حرکت و سکون
جسمانی حرکت و سکون نفسانی اور نیند و بیداری اعتدال پر نہ رہیں تو نہ صرف
ہضم غذا میں فرق پڑتا جاتا ہے بلکہ صحت میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے

حرکت و سکون جسمانی اور ہضم غذا

حرکت ایک ایسی صفت کا نام ہے جس سے کوئی جسم یا شے کسی خاص وضع
(قیام یا سکون) سے فعل میں آئے درحقیقت اس دنیا میں سکون مطلق کا وجود
نہیں ہے البتہ جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد حرکت و سکون نسبتی

ہوتا ہے یعنی جب کوئی جسم بخلاف دوسرے جسم کے کسی خاص وضع یا حالت میں فعل میں آ جاتا ہے تو اس کو حرکت کہتے ہیں بہر حال یہ نسبتی حرکت و سکون اپنے اندر خواص و اثرات رکھتے ہیں جب کوئی جسم حرکت میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جسم کا خون بھی حرکت میں آتا ہے اور جسم کے جس حصے کی طرف سے حرکت کی ابتداء ہوتی ہے اس طرف روزانہ ہوتا ہے پھر طبیعت اس کو تمام جسم میں پھیلا دیتی ہے اس طرح خون کی تیزی اور شدت بدن کو گرم کر دیتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ حرکت جسم میں گرمی پیدا کرتی ہے اور اس کی زیادتی جسم کو تخلیل کر دیتی ہے اس کے مقابلے میں سکون سردی پیدا کرتا ہے اس سے خون کی حرکت میں سستی اور رطوبات میں زیادتی ہو جاتی گویا نسبتاً ہر حرکت، ہر سکون کے مقابلہ میں گرمی و خشکی اور تیزی کا باعث ہوا کرتی ہے اس کے ساتھ ہی خون جسم کے جس حصہ میں پہنچتا ہے وہاں پر اپنی حرارت سے وہاں کے اعضاء میں تیزی اور گرمی پیدا کر کے وہاں کی غذا کو ہضم کرتا ہے اور مواد کو تخلیل کر کے خارج کرتا ہے اور اپنی تیزی سے وہاں کی رطوبات خشک کر دیتا ہے

حرکت کا تعلق عضلات سے ہے

اس امر کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ جسم انسان میں ہر قسم کے احساسات

اعصاب کے ذمہ ہیں جن کا مرکز دماغ ہے اور ہر قسم کی حرکات جو جسم میں پیدا ہوتی ہیں ان کا تعلق عضلات سے ہے جن کا مرکز قلب ہے اسی طرح جسم کو جو نہاد ملتی ہے اس کا تعلق غدد سے ہے جن کا مرکز جگہ ہے جب جسم میں یا اس کے کسی عضو میں حرکت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی قلب کے فعل میں تیزی آ جاتی ہے اس کے فعل میں تیزی کے ساتھ ہی خون کو جسم میں تیزی کے ساتھ روزانہ کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے ساتھ ہی جسم میں حرکت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے جس کے نتیجہ میں ریاح کا اخراج شروع ہو جاتا ہے اور جہاں جہاں پر غیر ضروری رطوبات اور مواد جمع ہوتے ہیں طبیعت ان کو تخلیل کرنا شروع کر دیتی ہے اس کے ساتھ ہی دوران خون کی تیزی کے ساتھ اس کا دباؤ غدد کی طرف بڑھ جاتا ہے اور وہ جسم کو زیادہ غذا حرارت کی صورت میں دینا شروع کر دیتے ہیں جو اس میں شریک ہوتی ہے ساتھ ہی بھوک بڑھ جاتی ہے اور غذا زیادہ سے زیادہ ہضم ہوتی ہے جس کا لازمی نتیجہ خون کی زیادتی و صفائی اور طاقت میں ظاہر ہوتا ہے ان حلقے سے ثابت ہوا کہ حرکت جسم میں حرارت و خون اور قوت و صفائی پیدا کرتی ہے اس کے برعکس سکون سے جسم میں سردی اور کمی خون اور کمی قوت اور زیادتی مواد کا پیدا ہونا لازمی امر ہے بس یہی دونوں صورتوں کا بین فرق ہے

حرکت اور حرارت غریزی

جاننا چاہئے کہ بدن انسان کا یہ کام ہے کہ جو چیز بدن انسان میں از قسم اندیشہ اشربہ وغیرہ رطوبت و مواد اور اخلاط وغیرہ داخل بدن سے کسی بے محل جگہ یا غیر طبیعی حالت سے کسی عضو بدن میں وارد ہوں اس میں حرارت غریزی اپنا فعل کرتی رہتی ہے چونکہ اس دوام فعل اور محنت سے حرارت غریزی میں ضعف پیدا ہو جانا یقینی امر ہے اور ضعف و تخلیل وغیرہ افعال کے لاحق ہونے سے اس کے فضلات کی تخلیل سے عاجزو مجبور ہوتی ہے اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا مواد اور فضلہ جمع ہو کر کافی مقدار میں حرارت غریزی کو مغلوب کر دیتا ہے اس لیے حرکات کی طلب ضروری ہو جاتی ہے تاکہ اس سے ایک دوسری گرمی پیدا ہو اور اس کی مدد سے طبیعت مواد اور فضلات کو تخلیل کر دے اگرچہ مواد اور فضلات نے واسیں اور پسینہ کے ذریعہ سے بھی خارج ہو سکتے ہیں مگر ان طریقوں سے ان کا اخراج ضعف جسم کا باعث ہوتا ہے دوسری طرف متعلقہ اعضاء میں قوت اخراج کو فطری طور پر کمزور کر دیتا ہے اور یہ مسلسل عمل ہمیشہ کے لیے انسان کو ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے اس لیے اس کا علاج حرکات جام کو متوازن کرنا لازمی امر ہے یہی حرکات کا احتیاج ہے گویا حرکت جسم حرارت غریزی کے لیے بہترین مددگار ہے محافظت صحت و قوت ہے

تحریک قدرت کا فطری قانون ہے

خداوند حکیم کی حکمت میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ضرورت بدن انسان کے لیے ایک تحریک پیدا کی گئی ہے مثلاً غذا کے لیے بھوک، پانی کے لیے پیاس، نیند کے لیے اونگھے چونکہ انسانی طبیعت کا اعتدال پر قائم رہنا مشکل ہے اس لیے ان تحریکات میں اکثر کمی ہوتی رہتی ہے اس سے ماکولات و مشروبات اور آرام میں بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے بس انہی ضروریات کو قائم رکھنے کے لیے یہ تحریکات پیدا کی گئی ہیں پس یہ حرکات فطری طور پر قدرت کی طرف سے پیدا نہ کئے جاتے تو لازمی امر تھا کہ انسان اپنی مطابوہ ضروریات مذکورہ سے غافل ہو جاتا جس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ ہوتا کہ بدن انسان میں خلل واقع ہو جاتا۔ اس سے ہلاکت تک کی نوبت پہنچ سکتی تھی اس لیے جب انسان کی ان تحریکات میں خلل واقع ہو جائے تو اس کو صحت کی خرابی سمجھنا چاہئے اور ان تحریکات کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنی چاہئے جس سے نہ صرف صحت قائم رہتی ہے بلکہ طاقت بھی پیدا ہوتی ہے

حرکات کی فطری صورت

ضروریات زندگی خصوصاً ماکولات و مشروبات کے لیے انسان میں جواحتیاں

پیدا کی گئی ہے اس کے لیے انسان کو لازمی طور پر بھاگ دوڑ اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے بس یہی کوشش اس میں فطری طور پر اس کی تحریکات کو بیدار رکھتی ہے لیکن افراد کو اپنی ضروریات زندگی کے لیے یہ جدوجہد اور کوشش نہیں کرنا پڑی بہر حال ان تحریکات کو تیز کرنے کے لیے حرکات کا لازمی امر ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہماء نے ریاضت اور ورزش کی مختلف صورتیں پیدا کی ہیں تاکہ انسان اپنی تحریکات اور صحبت کو قائم رکھ سکیں جو زندگی کے لیے لازمی ہیں

ریاضت کی حقیقت

ریاضت انسان کے لیے ایک اختیاری حرکت کا نام ہے جیسے ورزش و دوڑ کھیل کو، سیر و گھوڑ سواری، کشتی لڑنا اور کشتی چلانا۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں کے مختلف پر درپر حرکات سے ریاضت کی صورتیں پیدا کی جاتی ہیں اگرچہ عوام و خواص بلکہ ورزش ماشر بھی اس علم سے واقف نہیں ہیں کہ مختلف اقسام کی ورزش اور ریاضت سے کس قسم کے اعضا متاثر ہوتے ہیں کس عضو کی تقویت کے لیے کس قسم کی ورزش اور ریاضت ضروری ہے کیونکہ لوگ افعال الاعضا اور تشريع انسانی سے واقف نہیں ہوتے بہر حال عمومی طور پر ریاضت اور ورزش بے حد مفید عمل ہے اگر ورزش یا ریاضت کے متعلق یہ پتہ چل

جائے کہ کس قسم کے کھیل ہمارے جسم پر خاص طور پر اعصاب و دماغ، طحال عضلات و قلب اور جگر و گردوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو ایسی ریاضت اور ورزش بہت مفید ہوتی ہے

حرکت و سکون نفسانی

نفس کی ایسی حرکت جو ضرورت کے وقت کبھی جسم کے اندر اور کبھی جسم کے باہر ظاہر ہو جس کے ساتھ حرارت جسم بھی کبھی اندر کی طرف چلی جاتی ہے اور کبھی باہر کی طرف ظاہر ہوتی ہے اس کو حرکت و سکون نفسانی کہتے ہیں نفس سے مراد نفس انسان ہے جس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں جس کا تعلق اور ربط انسان کے قلب سے ہے جو اپنے معانی جزئیہ اور مفہومات کو بذریعہ مختلف قوتوں کے ادراک کرتا ہے پھر اس کی تین صورتیں ہیں امارہ (غیر شعور) لوامدہ (نیم شعور) اور مطمئنة (شعور) ان کی تفصیل طویل ہے صرف اشارات درج کئے جاتے ہیں

حرکت و سکون نفسانی کی ضرورت

یہ محال عقلی ہے کہ کوئی نفس انسانی اس عالم میں فکر زندگی اور آخرت یا ضرورت معاش و معاشرت یا محبت اولاد یا وصل حبیب یا لطف ولذت سے

رغبت یا موزی مرض کا خوف دکھ یادشمن سے خطرہ نفرت وغیرہ کیفیات و عوارض کے رد عمل اور افعالات سے متاثر نہ ہو چنانچہ یہی تقاضے نفس انسانی کی ضروریات کے حصول ودفع کی غرض سے باعث حرکت بدن ہوتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ اگر عوارض مذکورہ کا عارض ہونا ضروری ہے تو ان کے رد عمل سے متاثر ہونا بھی یقینی امر ہے اس سے روح قلب کو تحریک کرے اور قلب کی تحریک کے ساتھ خون میں گردش شروع ہو جائے گی جس سے وہ خون شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنا شوق اور دفع پورا کرے گا پس جو عوارض یا کیفیات اس کے لیے نافع اور بہتر ہوں گے ان کا وہ طالب ہو گا اور ان کا وہ شوق کرے گا اور جو اس کے لیے مضر اور تکلیف کا باعث ہوں اس سے وہ بھاگے گا اور ان کو دفع کرتا رہے گا بس انسان کی ان طلب و فرار اور شوق و دفع حرکات ہی سے ہو سکتی ہے بس انہی کیفیات و عوارض کے رد عمل کا نام حرکت و سکون نفسانی ہے

نفس بذات خود متحرک نہیں ہے

کہا جاتا ہے کہ ”حرکت و سکون نفسانی“، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نفس بذات خود متحرک نہیں ہے بلکہ حرکت قویٰ کوہی لاحق ہوتی ہے جو بذریعہ ارواح محركہ ظہور میں آتے ہیں اس لیے قویٰ متحرک ہیں اور ارواح محرك ہیں ان

اعمال سے جن جذبات کا اظہار ہوتا ہے انہی کو ہی حرکت و سکون نفسانی کہتے ہیں مگر یہ امر بھی یہاں ذہن نشین کر لیں کہ ارواح سے ہماری مرا دروح طبی ہے جس کا حامل خون ہے حرکت بھی بذات خود نہیں ہوتی بلکہ حسب ضرورت اور ارادہ نفس ناقطہ سے ہوتی ہے جس طرح کوئی مشین خود بخود متحرک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو حرکت دینے والا کوئی نہ ہو اس لیے یہاں حرکت و سکون کا الفاظ مجاز آئی استعمال کیا جاتا ہے

نفس میں حرکت و سکون کی صورتیں

نفس ضرورت کے وقت کبھی جسم کے اندر کبھی جسم کے باہر حرکت کرتا ہے جس کے ساتھ خون اور اس کی حرارت، بھی کبھی اندر کی طرف چلی جاتی ہے اور کبھی باہر کی طرف نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے پھر اس کی تین صورتیں ہیں

1- حرکت کا دفعتاً اور یک لخت اندر یا باہر کی طرف جانا

2- آہستہ آہستہ اندر یا باہر کی طرف جانا

3- نفس کا بیک وقت کبھی اندر اور کبھی باہر حرکت کرنا

یہ بات یاد رکھیں کہ نفس جس طرف حرکت کرتا ہے وہاں پر دورانِ خون تیز ہو کر حرارت پیدا کرتا ہے جہاں سے حرکت کر کے جاتا ہے وہاں پر دورانِ خون کی بُوکر سردی پیدا ہو جاتی ہے

یہ امر ذہن نہیں کر لیں کہ حرکت و سکون نفسانی دراصل نفس کی حرکت و سکون نہیں کیونکہ نفس اپنا مفاد نہیں بدلتا۔ ایسا صرف مجازاً کہا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ نفس کے تاثرات اور انفعالات (عمل) روح طبعی اور خون میں حرکت پیدا کر دیتے ہیں بالفاظ دیگر یہ تاثرات اور انفعالات صالح اور فطرت کے مطابق ہوں تو حامل قوت و صحت اور باعث نشووار تقائے جسم ہوتے ہیں انہی کو اسلام لفظ دین سے تعبیر کرتا ہے

یہ حرکت سکون نفسانی بدن کے لیے ویسی ہی ضروری ہے جیسی حرکت سکون بدن کیونکہ بدnelی حرکات کا دار و مدار خواہشات و جذبات نفسانیہ پر ہے جیسے شوق کے وقت طلب کی حرکت، نفرت کے وقت بیزاری کی صورت غصے کے وقت چہرے کا سرخ ہو جانا۔ یہ سب کچھ روح اور خون کے زیر اثر ہتے ہیں اور اس کے عکس نفسانی سکون کی ضرورت اس لئے ہے کہ روح اور خون کو نسبتاً آرام حاصل ہو کہ ان میں کمی واقع نہ ہو اور جسم کو تخلیل ہونے سے بچایا

جائے

جاننا چاہئے کہ نفس جب کسی مناسب یا مخالف شے کا ادراک حاصل کرتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ مناسب کو حاصل کرنا اور مخالف سے بچنا چاہتا ہے اس وقت وہ اپنی نفسانی قوتوں کو حرکت میں لاتا ہے اگر اس حرکت و سکون

میں تسلسل قائم رہے تو باعث مرض و ضعف اور رفتہ رفتہ باعث موت ہے اور بعض اوقات ان کی یکبارگی شدت دفعٹاً زندگی ختم کر دیتی ہے جیسے غم مرگ اور شادی مرگ کی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں انسان کے انہی تاثرات اور انفعالات اور خواہشات و جذبات کا مطالعہ اور نتائج سے جو صورتیں پیدا ہوتی ہیں اس علم کو نفیات کہتے ہیں

نفیاتی اثرات

جسم انسانی پر نفیاتی اثرات اور انفعالات کی تین مقابل صورتوں کے کل چھ جذبات ہیں (1) مسرت (2) غم (3) لذت (4) خوف (5) غصہ (6) شرمندگی۔ یہ چھ بنیادی جذبات ہیں ان کے تحت ہی باقی دیگر جذبات پائے جاتے ہیں ان کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے

- 1- مسرت میں نفس بغرض حصول شے مرغوب قلب سے خارج بدن کی طرف رفتہ رفتہ متحرک ہوتی ہے بشرطیکہ بے انتہا خوشی کی کیفیت نہ ہو ورنہ یکدم متحرک ہو گئی خوشی کی حالت میں چہرہ سرخ ہو جائے گا
- 2- غم میں نفس موذی پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے رفتہ رفتہ داخل بدن یعنی دل کی طرف حرکت کرتی ہے اور چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے
- 3- لذت کی حالت میں بغرض قیام مرغوب شے اور لطیف نفس رفتہ رفتہ کبھی

اندر اور کسی بہر کی طرف حرکت کرتا ہے

4۔ خوف نفس موزی کے مقابلے میں نامید ہو کر یکبارگی داخل جسم رجوع کرتا ہے کی خوف میں یہ عمل رفتہ رفتہ ہوتا ہے اور چہرہ سفید ہو جاتا ہے

احتباس و استفراغ

اسباب ستر ضروریہ کی تین صورتیں ہیں یعنی (اول) جسم کے لیے غذا نیت مہیا کرنا جیسے ہوا اور روشنی اور ماکولات و مشروبات۔ (دوسرا) جسم میں غذا نیت کو ہضم کر کے جزو بدن بنانا ہے جیسے نیند و بیداری اور حرکت و سکون جسمانی و حرکت و سکون نفسانی۔ (تیسرا) جسم کے اندر غذا نیت ایک مقررہ وقت تک رکے رہنا ہے تاکہ غذا ہضم ہو کر جزو بدن بن جائے اور جب ان کی ضرورت نہ ہو تو فضلات کی صورت میں خارج کر دینا۔ ان کو احتباس و استفراغ کہتے ہیں پہلی دو صورتیں بیان کر دی گئی ہیں اب تیسرا صورت کی تفصیل دی جاتی ہے

استفراغ کے معنی ہیں مواد اور فضلات کا اخراج پانا اور طبی اصطلاح میں لفظ استفراغ سے ان چیزوں کا بدن سے خارج کرنا مراد ہے تاکہ اگر وہ چیزیں باقی رہ جائیں تو بدن میں طرح طرح کے فساد پیدا ہو کر افعال انسانی صحیح طور سے ادا نہ ہوں اس کے برعکس احتباس کے معنی ہیں غذائی اجزاء اور فضلات کا

جسم میں رکنا اور بوقت ضرورت اخراج نہ پانا دراصل یہ ایک دوسرے فعل کی ضد کا اظہار ہے ورنہ دونوں میں سے کسی ایک لفظ کا ہونا ہی کافی ہے کیونکہ حکیم مطلق نے طبیعت بدن حسب طاقت وہ مناسب راستوں سے فضلات مذکورہ کے دفع پر ہمیشہ سرگرم رہتی ہے لیکن بعض اوقات ایسی رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں کہ اس کے دباؤ سے فضلات اور مواد میں کمی بیشی واقع ہو جاتی ہے گویا استفراغ اور احتباس کا اعتدال صحت ہے اور ان میں کمی بیشی کا ہونا مرض میں داخل ہے

فضلات کی حقیقت

فضلات دراصل اضافی لفظ ہے حقیقت میں اس کائنات اور زندگی میں فضلات کوئی شے نہیں ہیں جن مواد کی کسی جسم کے لیے ضرورت نہیں ہوتی تو وہ اس کے لیے فضلات بن جاتے ہیں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جسم کے اندر غیر ضروری غذا کی اجزایا مفید مواد۔ جن کو طبیعت قبول نہیں کرتی یا طبیعت کو جن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ سب فضلات میں شامل ہیں فضلات سے مراد فاضل شے ہے یعنی جو چیز زائد یا فالتو ہو

جو غذا کھائی جاتی ہے تند رستی کی حالت میں جسم کا ایک خاص حصہ جذب کر کے جزو بدن بنادیتا ہے اور باقی کو فضلات کی شکل میں خارج کر دیتا ہے

لیکن اس کے معنی نہیں ہیں کہ فضلات میں جسم انسان کے لیے غذائیت باقی نہیں رہتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس قدر اچھی صحت ہوتی ہے اور اعضاء مضبوط ہوتے ہیں اسی قدر زیادہ غذائی اجزا جذب اور جزو بدن بنتے ہیں اور فضلات کم خارج ہوتے ہیں یا بعض اعضاء میں اس قدر تیزی ہوتی ہے کہ وہ غذا کو پورے طور پر ہضم کیے بغیر خارج کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جن مريضوں کے اعضاء میں افراط و تفریط اور ضعف ہوتا ہے وہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ غذا کھائیں ان کے اندر طاقت اور خون کی مقدار میں زیادتی نہیں ہوتی۔ سوال غذا کی کثرت اور اعلیٰ وادنی کا نہیں ہے بلکہ اعلیٰ درجہ کی صحت اور مضبوط اعضاء کا ہے جس سے خود بخود زیادہ غذا ہضم ہوتی ہے اور جزو بدن بنتی ہے جس کا نتیجہ خون کی کثرت اور طاقت کی زیادتی ہوتی ہے یہ حقیقت ہے کہ بدن کے وجود اور اس کی طاقت کا دار و مدار غذا پر ہے کیونکہ خون کی تعمیر اور تکمیل صرف غذا پر ہوتی ہے دوسرے نہیں ہوتی کیونکہ دوا جزو بدن نہیں ہوتی اور نہ ہی خون کا جزو ہے صرف اعضائے جسم میں تحریک اور شدت کے باعث ہوتی ہے جس سے اعضائے جسم اپنے مفید اجزاء خون میں شامل کر کے اس کی تعمیر اور تکمیل کرتے ہیں لیکن غذا کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو ساری کی ساری جزو بدن بن جائے اور اس کا فضلہ نہ بنے پھر اگر یہ فضلہ باقی

رہے اور اس کا اخراج نہ ہو تو بدن میں فاسد مادے اکٹھے ہو جاتے ہیں جن مواد کو فضلات کی صورت میں خارج ہونا چاہئے تاکہ اس کی جگہ نیا مواد بنے یا مواد سے اس را گزر (مجاری) کو غذا سیست اور تقویت حاصل ہو اس لیے استفراغ کی انتہائی ضرورت ہے اور احتباس کی ضرورت اس لیے ہے کہ غذا کچھ عرصہ جسم میں رہے تاکہ اس کا جو ہر طبیعت حاصل کر لے استفراغ اور احتباس کا اعتدال صحیح اور طاقت کے لیے نہایت ضروری اور مفید ہے استفراغ کی زیادتی بدن میں خشکی پیدا کرتی ہے احتباس کی زیادتی جسم میں فضلات کی زیادتی کی وجہ سے اس کو بوجھل بنادیتی ہے جس سے اکثر سدے اور تعفن پیدا ہوتا ہے

استفراغ کی صورتیں

جسم انسان سے استفراغ کی مندرجہ ذیل تین صورتیں ہیں (1) طبیعی فضلات (2) غیر طبیعی فضلات (3) مفید فضلات جن کی تفصیل درج ذیل ہے

طبیعی فضلات

طبیعی فضلات وہ ہیں جو ہمارے مجاري اور اعضاء سے طبیعی طور پر ضرورت کے

مطابق خارج ہوتے ہیں جیسے نزلہ، زکام، کان کا میل، آنکھ کے آنسو، لعاب دہن، بلغم، بول، براز، حیض اور منی وغیرہ۔ ان کے اخراج ایک طرف مجاری اور اعضاء جہاں سے وہ گزرتے ہیں ان کو نرم رکھتے ہیں دوسرے وہاں کی سوزش وغیرہ کو دور کرتے ہیں اگر ان کے اخراج میں کمی بیشی واقع ہو جائے تو ذیل کی صورتوں میں کوئی صورت اختیار کر جاتی ہے

مسہلات

بذریعہ دست آور ادویات ناقص اخلاط مواد اور متعدد فضلات کا انسان کے بدن سے خارج کرنا۔ اس کی دو اقسام ہیں اول بذریعہ ادویہ اشروبہ۔ یعنی کھانے پینے کی ادویہ دوسرے بذریعہ حقنة اور حمل اختناق (بذریعہ) پچکاری

مدارات

پیشاب آور ادویات اور آلات وغیرہ کے ذریعے مواد اور فضلات کا اخراج

تصریحات

بذریعہ پسینہ، حمام یا بھپارہ اور دیگر اعمال سے براہ مسامات بدن سے مردی اخلاط و مواد اور فضلات کا خارج کرنا

مقیمات

قے آور ادویات یاد گر اعمال کے ذریعے مواد اور فضلات کا خارج ہونا

جماعت

شگاف رگ، پچپنے اور نشر وغیرہ کے ذریعے۔ اخلاط وردی مواد اور فضلات
بدن کا انسان کے بدن سے خارج کرنا وغیرہ

انزال

جماع کے ذریعے غیر مفید اخلاط وردی مواد اور فضلات کا بدن سے خارج
کرنا وغیرہ

غیر طبعی فضلات

ایسے ناقص مواد ہیں جو خون سے پیدا ہو جاتے ہیں جن سے خون کا مزاج اور
اخلاط یا اس کے عناصر میں کمی بیشی واقع ہو جاتی ہے یا خون رگوں کے اندر یا
باہر متعدد ہو جاتا ہے جب ایسے غیر طبعی فضلات رک جاتے ہیں تو ان کے
اخراج کی صورت بھی مندرجہ بالا طریق پر کی جاتی ہے البتہ ضرورت کے
مطابق ادویات بھی استعمال کی جاسکتی ہیں

مفید فضلات

در اصل یہ فضلات نہیں ہوتے چونکہ جسم سے اخراج پاتے ہیں یا ان کو اخراج پانا چاہئے اس لیے ان فضلات کہہ دیا گیا ہے مثلاً جسم میں غیر معمولی کیفیاتی و نفیاتی اور مادی تحریکات ہو کر مفید رطوبات و خون اور منی کا اخراج پانا جس میں ندی اور ودی بھی شریک ہیں رطوبات کی صورت میں لعاب دہن، آنسو ندی اور ودی ہیں خون کی صورت میں نفت الدم، نکسیر، خونی ز حیر اور بواسیر وغیرہ ہیں منی کی صورت میں جریان و احتلام اور سرعت افزال ہیں کبھی مفید رطوبات و خون اور منی کے اخراج کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ طبیعت کا رجحان اس طرف زیادہ ہو۔ ان چیزوں کی پیدائش بڑھے اس مقصد کے لیے کیفیاتی و نفیاتی اور مادی تحریکات لطف ولذت اور صحیح و بصر نوازی کے ساتھ ساتھ جذبہ شوق و محبت کے بھرپور کانے سے بھی پیدائی جاتی ہیں یہاں تک کہ اطباء اور حکماء نے اس کی آخری حد جماع رکھی ہے اور یہی ضرورت عقد اور نکاح ہے استفراغ و احتباس میں یہ اہم مقام ہے اسی لیے ہم نے ستہ ضروریہ کا باب قائم کیا ہے جسی امراض میں عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ صرف مجربات و مرکبات کافی ہو سکتے ہیں کوئی شک نہیں کہ مجربات کا علاج بہت بڑا مقام رکھتا ہے لیکن جب تک اس باب ستہ ضروریہ سامنے نہ ہوں خصوصاً استفراغ و احتباس کی اہمیت کو مد نظر نہ رکھا جائے جسی

امراض کا علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے اگر صرف مجربات تک ہی ممکن ہوتا ہے تو ہر قسم کے مجربات کی کتب کی اس قدر کثرت ہے کہ مزید مجربات کی ضرورت نہیں ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ طبی دنیا میں جنسی مجربات کی آج پہلے سے بھی زیادہ طلب ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مرض کی تشخیص اور صحیح دوا کی تجویر کی آج بھی ضرورت باقی ہے اور وہ لوگ بہت بڑی غلطی پر ہیں جو بغیر تشخیص اور صحیح تجویز کے صرف جنسی مجربات طلب کرتے ہیں

خواص الاغذیہ پر قلب و عضلات

تمام امراض چونکہ قلب و عضلات کی خرابی (کی بیشی اور تحلیل) سے پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ گزشتہ تحقیقات میں ثابت کر چکے ہیں اس لیے ہر قسم کی اغذیہ بلکہ ادویہ اور زہروں وغیرہ کے اثرات خون میں عمل میں آتے ہیں اغذیہ تو ہضم ہو کر خون بن جاتی ہیں لیکن ادویہ اور زہر تو اپنے اثرات کے بعد خارج ہوتے یا اپنی شدت سے موت کا باعث بن جاتے ہیں انجہ (اعصاب غدد طحال) چونکہ قانون فطرت میں تین اقسام کے مفرد اعضاء ثابت ہو چکے ہیں اس لیے اغذیہ بلکہ ادویہ اور زہر بھی اپنے اندر صرف تین اقسام کے اثرات رکھتے ہیں یعنی کھاری ترش اور نمکین جو قلب و عضلات پر اثر انداز ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے غذا

دوا اور زہر جس پر اثر کر سکتے ہیں آیورویدک بھی تین دوش دات پت کف اور چوتھے رکت (خون) کو تسلیم کیا ہے اور طب یونانی نے چار اخلاط خون، بلغم، صفر اور سودا تسلیم کئے ہیں گویا آیورویدک اور طب یونانی بھی ہر غذا و دواء اور زہر کے ماذر ان سائنس کی طرح چار ہی قسم کے خواص اور اثرات تسلیم کرتی ہیں جن سے ان چار قسم کے النسجہ کی غذابیتی ہے

جیسا کہ ہم اسلامک طب حصہ اول میں النسجہ اور اخلاط کی تحقیق میں ثابت کر چکے ہیں اور ماذر ان سائنس نے خون کے اندر جو پندرہ سولہ اجزاء پیش کئے ہیں وہ بھی انہی تین النسجہ کی غذابیتی ہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو آیورویدک کے دوش اور اخلاط بھی انہی خون کے اثرات سے مرکب ہیں ان حقائق سے ثابت ہوا کہ آیورویدک اور طب یونانی کی تحقیقات ماذر میڈیکل سائنس اور ایلوپٹیکی سے کہیں زیادہ صحیح اور کامیاب ہے

اشیاء کے اثرات اور جسم انسانی

اغذیہ و اشیاء اور ادویہ و زہر کے اثرات صدیوں سے جسم انسان پر معلوم کئے جا رہے ہیں اور ہزاروں اشیاء کے اثرات اس وقت ہمیں معلوم ہو چکے ہیں جو روزانہ اغذیہ اور ادویات کی صورت میں استعمال ہو رہی ہیں اور بہت حد

تک یقین کے ساتھ ہو رہی ہیں اور یہ سب کچھ تجربہ و مشاہدہ اور تحقیقات کے کمالات ہیں لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ جب بھی ان اغذیہ اور اشیاء وادویہ اور زہروں پر تجربات و مشاہدات کئے جاتے ہیں ان میں نئے نئے اسرار و موزسامنے آتے ہیں

اشیاء کے اثرات کی حقیقت

آیورودیک اور طب یونانی کے عملی دور سے قبل امراض صرف علامات تک محدود تھے جب کسی کو تکلیف ہوتی تھی تو مذہبی پیشواؤ پنے تجربات و مشاہدات یا معلومات اور خوابوں کے ذریعے جو علم رکھتے تھے لوگوں کو ان کی تکالیف اور خراب علامات کو رفع کرنے کے لیے اغذیہ وادویہ یا کوئی شے یا کوئی عمل بتا دیا کرتے تھے صدیوں تک یہ سلسلہ جاری رہا اور اکثر ادویہ و اغذیہ اور اشیاء کے خواص تحریر میں آگئے تاکہ ضرورت کے وقت ان سے کام لیا جائے لیکن ایسے علاج صرف ادویات کے استعمال تک محدود تھے ان میں علاج کے اصول و نظریات اور قانون و فلسفہ کو دخل نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ ان کو جدا و ٹوٹا اور تعویز گندے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا آج کل بھی عطا یانہ علاج اسی قسم کے اکثر دیکھے جاتے ہیں

جب آیورودیک اور طب یونانی کے دور شروع ہوئے تو اغذیہ وادویہ اور

اشیاء کو تکلیف اور خراب علامات کے رفع کرنے کی بجائے بالواسطہ دشمنوں اور اخلاق و کیفیات کے تحت استعمال کرنا شروع کر دیا البتہ ان میں ادویات کے بالخاصہ اثرات کو کسی نہ کسی تکلیف اور خراب علامت کے لیے مخصوص کر دیا گیا اور اس طرح یہ سلسلہ بھی صدیوں چلتا رہا اسلامی دور میں تحقیقات خواص اغذیہ و ادویہ اور اشیاء و زہروں کو کیفیات و اخلاق اور ساتھ ساتھ اعضاء کے افعال و اثرات کو بھی مدنظر رکھا گیا البتہ بالخاصہ فوائد کو بھی ضرور مد نظر رکھا گیا کیونکہ ان کی نوعیتی صورت کے تحت یہ فوائد بھی ضروری سمجھے گئے یہ سلسلہ بھی کئی سو سال تک جاری رہا اس کے بعد اسلامی دور تحقیقات پر ہی ایلوپیٹھی کی بنیاد رکھی گئی کچھ عرصہ تو یہ سلسلہ جاری رہا لیکن جلد ہی اس کی تحقیقات کے موڈ بل گئے اور اغذیہ و اشیاء اور ادویہ و زہروں کے افعال و اثرات کو اعضاء کے ساتھ مخصوص کرنے کی بجائے جراثیم کی طرف بل دیا پھر ہر تکلیف اور علامت کے لیے جراثیم تلاش کئے گئے جس تکلیف و علامت کے جراثیم نہ معلوم ہو سکے ان کو مخصوص یا عاموی قسم کی کمزوری کہہ دیا گیا اگر ان کے اثرات و افعال بالا اعضاء کیے گئے تو ان کا تعلق مرکب اعضاء تک رہایا کسی نہ کسی تکلیف اور علامت کے ساتھ مخصوص کر دیے گے اس طرح ایلوپیٹھی سائنس کا رخ بالکل بدل دیا اور تحقیقات اسلامی دور میں کمال تک

پہنچی تھی وہ انگریزوں کے دور میں ختم ہو گئی جس کے ساتھ ایلو پیتھی کی نشووارقا کی گئی اور اب صرف پینٹ ادویات میں ڈوب کر فنا ہو گئی ہے جہاں سے اس کا نکلنا بہت مشکل ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ماڈرن میڈیکل سائنس نے تشریع الابداں (اناتامی) میں اس قدر تحقیقات کی ہے کہ اس کو النسجه و خلیات (شوز و سیلز) تک پہنچا دیا مگر ان غذیہ و اشیاء اور ادویہ اور زہروں کے اثرات و افعال کی بنیاد ان شوز النسجه (قلب و عضلات) پر نہ رکھی اور علم و فن طب اپنے کمال کونہ پہنچ سکا خداوند حکیم اور خالق قدرت و فطرت جس کو چاہیں عزت دیں انہوں نے یہ عزت و کامیابی ہمارے نام لکھ دی تھی اور امراض و علامات کی تحقیقات کا کام ہم سے پورا کرانا تھا یعنی امراض کے بنیادی اعضاء و قلب و عضلات اور النسجه پر ہم سے تحقیقات مکمل کرانی تھی ہم نے تحقیقات سے ثابت کر دیا ہے کہ امراض قلب و عضلات (النسجه) کی خرابی (کی بیشی اور تحلیل) کا نام ہے باقی ہر قسم کی تکالیف علامات ہیں علاج میں امراض کو مد نظر رکھنا چاہئے دیگر الفاظ میں قلب و عضلات (النسجه) کے افعال درست کرنا چاہئے کیونکہ ان غذیہ و اشیاء اور زہروں کا اثر اسی پر ہوتا ہے اور اسی کی درستی سے ہی حقیقی شفا حاصل ہوتی ہے

اشیاء کے تین اقسام

قدرت نے اپنی فطرت کی تکمیل کے لیے دنیا بھر کی اشیاء کو صرف تین اقسام میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ان کے افعال و اثرات کو سمجھنے میں سہولت رہے اول جمادات، دوم نباتات، سوم حیوانات جن کو موالید ثلاثہ کا نام دیا گیا ہے جمادات کائنات و زندگی کی ابتدائی صورت جس کی نشووارتقائے نباتات کی صورت پیدا کی ہے جمادات اور نباتات میں نمایاں فرق ہے جمادات میں مٹی۔ پتھر سے لے کر نمک اور گندھک اور ہر قسم کی دھاتیں اور پارہ تک پائے جاتے ہیں اگرچہ مٹی کا تیل اور پتھر کا ست (صلاحیت) بھی قدرت نے پیدا کئے ہیں لیکن نباتات میں جوف لا دو چونہ اور نمکیات و گندھک، تیل و شکر، پھلوں کے رس اور میوه جات کے روغن پیدا کر دیے ہیں وہ جمادات میں قطعاً نہیں پائے جاتے پھر اسی نباتات کو حیوانات کی غذا بنادیا لیکن حیوانات میں جو خوبیاں قدرت نے پیدا کی ہیں وہ فطرت کے نشووارتقاء میں درجہ کمال رکھتی ہیں حیوانات میں گوشت و چربی اور دودھ اور گھنی کے خزانے اور ندیاں بہادی ہیں یہ چیزیں نباتات میں ناپید ہیں اور ان کے ساتھ ہی حیوانی چونہ، حیوانی فولاد، گندھک، حیوانی نمکیات اور حیوانی رطوبات دودھ اور شہد کے اپنے نشووارتقاء کا درجہ انتہائی کمال پہلو ہے

موالید ثلاثة کا استعمال

جہاں تک موالید ثلاثة (جمادات و نباتات اور حیوانات) استعمال کرنے کا تعلق ہے ان میں سے جمادات میں صرف کھانے کا نمک بطور غذا استعمال ہوتا ہے اور باقی تمام جمادات ان میں پھر و جو ہرات ہوں یا لوبہا و سونا اور سمیات و پارہ تمام ادویات میں استعمال ہوتے ہیں نباتات میں اغذیہ بھی ہیں اور ادویہ بھی شامل ہیں اغذیہ میں انانج و سبزیاں، پھل، میوے، تیل و شکر سب ہمارے روزانہ کھانے پینے میں شامل ہیں ادویہ میں زہریلی اور غیر زہریلی جڑی بوٹیاں ان کے پھل و پھول اور ان کے پتے اور شاخیں سب شریک ہیں جو کے متعلق پوری تمیز اور پہچان لکھ دی گئی ہے اسی طرح حیوانات میں جن حیوانات کے جسم میں زہر اور تعفن نہیں ہے ان کا گوشت چربی اور دودھ و گھنی انسانی غذا میں استعمال ہوتا ہے جہاں تک ان اشیاء کے جزو بدن ہونے کا تعلق ہے جمادات تو جزو بدن ہوتے ہیں نباتات بہت کم جزو بدن ہوتے ہیں اور زیادہ مقدار میں جسم سے خارج ہو جاتے ہیں، لیکن حیوانات جو قابل غذا ہیں زیادہ تر جزو بدن ہوتے ہیں اور بہت کم ان کا فضلہ خارج ہوتا ہے جو لوگ گوشت و چربی کھاتے ہیں وہ پرندوں کے انڈے اور مچھلی بھی کھاتے ہیں اور یہ اشیاء بھی گوشت میں

شریک ہیں دنیا میں غذا کے طور پر جو شے سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں گوشت ہوتا ہے دوسرے درجہ پر دودھ ہے، تیسرا درجہ میں پھل اور میوه جات ہیں اور آخری درجہ میں انانج ہیں گوشت اور دودھ کے زیادہ استعمال سے ثابت ہوتا ہے کہ اجزاء لحمیہ جو دونوں میں پائے جاتے ہیں انسانی غذا کا نہ صرف بڑا جزو ہیں بلکہ ضروری جزا اور بے حد مفید ہیں بچہ کی پرورش دو سالوں تک دودھ پر ہوتی ہے اور پھر تمام عمر دودھ یا اس کے مختلف اجزاء مکھن و گھن، دہی و پنیر وغیرہ کسی نہ کسی رنگ میں روزانہ کھاتا پیتا رہتا ہے جب دونوں اشیاء میسر نہ ہوں تو غذا کا توازن بگز جاتا ہے اور انسانی صحت بگزنا اور گرنا شروع ہو جاتی ہے گوشت اور دودھ کے اجزاء کی ضرورت پھلوں اور اناجوں سے ہرگز پوری نہیں ہوتی اگرچہ ان میں اجزاء لحمیہ کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتے ہیں، لیکن نباتی اجزاء لحمیہ حیوانی اجزاء لحمیہ کا مقابلہ کسی صورت میں نہیں کر سکتے یہی فرق تیل و گھنی اور بنا سپتی گھنی اور اصل گھنی کا ہوتا ہے

ایلوپیٹھی کی غذا کے متعلق تحقیقات

ایلوپیٹھی نے اغذیہ کا تجزیہ کر کے ثابت کیا ہے کہ انسانی غذا میں کم از کم ان چار اجزاء کا ہونا ضروری ہے (1) پروٹین - اجزاء لحمیہ (2) فیش

اجزائے روغینیتہ (3) کا ربوہ ہائیڈر میں اجزاء کے شکریہ و نشاستہ (4) سالش نمکیات اور ان کے ساتھ پانچویں شے پانی شریک ہے اور اس نے ثابت کیا ہے کہ گوشت و انڈا اور دودھ میں کم و بیش یہ پانچویں اجزاء کے پائے جاتے ہیں اگرچہ یہ اجزاء انہوں سبزیوں، پھلوں اور میوه جات میں پائے جاتے ہیں لیکن ہر ایک میں تمام اجزاء شریک نہیں ہوتے۔ اس لئے اس جو مکمل غذا نہیں کہا جاتا اور جب تک غذا کے مکمل اجزاء جسم انسان میں داخل نہ ہوں اس وقت تک نہ ہی اور زندگی کے لیے غذا کا صحیح توازن بے حد ضروری ہے غذا کے تحریکی کے ساتھ ایلوپیٹھی نے وٹامن (حیاتین) کا بھی ذکر کیا ہے لیکن ہم اس کو ایلوپیٹھی کی تجارت کا زبردست چکر خیال کرتے ہیں اس تحقیقات سے یہ بھی ثابت ہے کہ گوشت اور دودھ (پروٹین - اجزاء لحمیہ) کو غذا میں اولین اہمیت حاصل ہے

اشیاء کے صرف تین اثرات

خداوند کریم نے دنیا میں جس قدر اشیاء پیدا کی ہیں ان کا شمارنا ممکن ہے لیکن حکماء نے ان کو موالید مثلاً شہزاداء و بنیات اوت حیوانات تین اقسام میں تقسیم کر دیا ہے ان کا نمایاں فرق حکماء اور عقليندوں کے سامنے ہے جس سے ان کے افعال و اثرات اور خواصیں و فوائد حاصل کرنے میں نہ صرف سہولتیں

ہوتی ہیں بلکہ ان کے استعمال میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں
 موالید شلاشہ کی تقسیم کی طرح ہم نے بھی دنیا کی بے شمار اشیاء کے فوائد و خواص
 کو جاننے کے لیے انہیں قلب و عضلات کے تحت صرف تین اثرات میں
 تقسیم کر دیا ہے تاکہ ان کے افعال و اثرات کو سمجھنے میں مشکلات پیدا نہ ہوں
 اور انہی تین اثرات و افعال کو ضرورت کے مطابق آئندہ پھیلایا جاسکتا ہے
 اس طرح علاج میں کسی قسم کی غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے اور عوام بھی بڑی
 سہولت سے ہر شے کو یقین سے استعمال کر کے مستفید ہو سکتے ہیں

جاننا چاہئے کہ دنیا بھر میں موالید شلاشہ کی شکل میں جس قدر اشیاء پائی جاتی
 ہیں وہ اپنے اندر صرف تین اثرات رکھتی ہیں خالق مطلق نے چو تھا اثر، ہی پیدا
 نہیں کیا البتہ انہی تین اثرات کو غلط ملط کرنے سے سینکڑوں اور ہزاروں
 رنگ بنائے جاسکتے ہیں وہ تین اثرات کھار، ترشی اور نمک ہیں حقیقت یہ ہے
 کہ نمک بھی کھار اور ترشی کا مرکب ہے

دنیا بھر کی کسی اشیاء کو استعمال کریں اس کے اثرات و افعال میں کھاری پن
 ہو گا یا ترشی کی کیفیت یا نمکین حالت پائی جائے گی جب ہم تینوں کو بار بار
 استعمال کرتے ہیں اور تجربہ و مشاہدہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ
 کھار کے استعمال سے جسم میں رطوبات اور نہنڈک بڑھ جاتی ہے اور ان کا

اخرج بھی زیادہ ہوتا ہے ترشی کے استعمال سے جسم میں خشکی اور جوش بڑھ جاتے ہیں اور ریاح کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں اسی طرح نمک کے استعمال سے جسم میں حرارت اور تیزی زیادہ ہو جاتی ہے اور جسم میں زمی پیدا ہو جاتی ہے

کھار ترشی اور نمک کے قلب و عضلات پر اثرات

1۔ کھاری اشیاء جو جسم میں رطوبات و تری اور بلغم پیدا کرتی ہیں ان کا اثر نسبتی اعتسابی پر ہوتا ہے جس کا مرکز دماغ ہے اس میں قارورہ مقدار میں زیادہ اور اس کا رنگ سفید یا مائل نیلا ہٹ ہوتا ہے کھار سے قلب و عضلات پھول جاتے ہیں

2۔ ترش اشیاء جو جسم میں خشکی اور جوش اور ریاح پیدا کرتی ہیں ان کا اثر غدد و جاذبہ پر ہوتا ہے جس کا مرکز طحال ہے اس میں قارورہ مقدار میں کم اور اس کا رنگ سرخ یا زردی مائل ہوتا ہے ترشی سے قلب و عضلات میں سکریڈ پیدا ہو جاتا ہے

3۔ نمکین اشیاء جو جسم میں حرارت و تیزی اور صفراء پیدا کرتی ہیں ان کا اثر نسبتی قشری پر ہوتا ہے جس کا مرکز جگر ہے اس میں قارورہ مقدار میں مناسب یا جلن کے ساتھ اور اس کا رنگ زرد یا زرد سفیدی مائل ہوتا ہے نمک کی زیادتی

قلب و عضلات میں پھیلاو پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ قانون فطرت ہے کہ نمک سے حرارت پیدا ہوگی حرارت ہر شے کو پھیلا دیتی ہے اسی لئے خون میں جب حرارت کا غلبہ قلب و عضلات میں تخلیل پیدا ہو جاتی ہے اعضاء رئیسہ صرف قلب ہے جو اعضاء بنا دی عضو میں شریک ہیں ان کو قوت اعضاء رئیسہ سے ملتی ہے

مفرد اعضا کے تحت ذاتی

ہر مفرد عضو (نجح) کے لیے دودو ذاتی ہیں اعصاب کے تحت ایک پھیکا اور دوسرا شیریں طحال کے تحت ایک ترش اور دوسرا تنخ۔ غدد کے تحت ایک چرپا اور دوسرا نمکین۔ گویا کل چھڑ ذاتی اور مزے ہیں ان کو آیور و یڈک میں رس اور انگریزی میں ٹیسٹ کہتے ہیں دنیا بھر کی کوئی غذا اور دوا اور زہر ایسا نہیں ہے جو ان چھڑ القوں اور مزوں سے باہر ہو۔ سب یہی تین اثرات و افعال اور چھڑ ذاتی اور مزے خواص و فوائد غذائی علاج کی طرف رہنمائی کرتے ہیں

ضرورت غذا

اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کی زندگی و قوت اور صحت کا دار و مدار صرف کھانے پینے اور ہوا پر ہے اور ان میں غذا کو بھی بڑی زبردست

اہمیت حاصل ہے کیونکہ انسان بغیر غذا کے ہوا اور پانی پر کچھ عرصہ تک زندہ رہ سکتا ہے لیکن بغیر غذا اس کی طاقت روز بروز گھٹتی جاتی ہے اور صحت بگزرنی شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ انتہائی کمزور ہو کر مر جاتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ زندگی کے ساتھ صحت اور طاقت کا راز غذا میں پوشیدہ ہے کیونکہ اس غذا سے جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ اس قوت کا بدل بنتی ہے جو روزانہ انسانی جسم اپنے احساسات و حرکات اور ہضم غذا پر خرچ کرتا ہے گویا غذا کا سب سے بڑا کام بدل ماتخلل کو پورا کرنا ہے بعض لوگوں میں کثرت محنت کی وجہ سے زیادہ قوت خرچ ہوتی اور ان میں زیادہ تخلیل واقع ہوتی ہے ان میں بھی بعض دماغی محنت کرتے ہیں جس سے ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں جن کا تعلق دماغ سے ہے اور بعض محنت تو کسی قسم کی نہیں کرتے مگر کثرت خوراک کے عادی ہوتے ہیں ان کے غد اور گردے کمزور ہو جاتے ہیں جن کا تعلق جگر سے ہوتا ہے کیونکہ کثرت خوراک سے ان کے جگر اور گردوں وغدوں کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے اس لیے جس قسم کی جسم انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اسی قسم کی کمزوری واقع ہوتی ہے اگر اس کمزوری کو رفع نہ کیا جائے تو صحت میں خرابی ہونی شروع ہو جاتی ہے آخ کار انسان مریض ہو جاتا ہے

اسی طرح ہر عمر میں مختلف قسم کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس عمر میں
ویسی غذا میسر نہ ہو تو کمزوری واقع ہو کر صحت بگزرنی شروع ہو جاتی ہے مثلاً
بچپن میں جب اس کے لیے نشووار تقاضہ کی ضرورت ہوتی ہے یہ زمانہ پیدائش
سے اکیس تا چھپیس سالوں تک ہوتا ہے بچوں کا مزاج بلغی ہوتا ہے اس میں
تری زیادہ ہوتی ہے جو اس کی گرمی پر غالب رہتی ہے یعنی تر گرم ہوتا ہے
جو انوں کا مزاج گرم ہوتا ہے اس میں گرمی اور تری برابر ہوتی ہے یعنی گرم تر
ہوتا ہے بوڑھوں کا مزاج سوداوی ہوتا ہے ان میں خشکی غالب رہتی ہے یعنی
خشک گرم ہوتا ہے جب بھی ان کے مزاجوں کے مطابق غذائیں ملتی تو
کمزوری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے جس سے اس کے اندر امراض پیدا ہو
جاتے ہیں جب غذا ضرورت کے مطابق میسر آ جاتی ہے مرض رفع ہو جاتا
ہے اسی طرح آب و ہوانیاتی و کیفیاتی اثرات کے تحت بھی غذا میں کمی
و نیشی ہو کر مرض پیدا ہو جاتا ہے

جاننا چاہئے کہ جب بھی کسی قسم کی محنت کی جاتی ہے تو اس کا اثر خون کے
ساتھ جسم انسانی کے قلب پر پڑتا ہے جن سے جسم انسانی مرکب ہے اسی محنت
سے ایک طرف جسم میں خون اور اس کی طاقت خرچ ہوتی ہے اور دوسری
طرف جسم کے خلیات (سیلز) میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہیں ہے جن سے قلب و

عضلات بنتے ہیں یہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ خون حرارت و رطوبت اور خشکی سے مرکب ہے ان کا پورا پورا امتزاج ہی اس کی صحیح معنوں میں طاقت ہے اسی طرح مفرد اعضاء بھی تین قسم کے ہیں تری و گرمی اور خشکی ان کی قوت ہیں یہ بھی ہم واضح کر چکے ہیں کہ اعصاب کا تعلق رطوبت اور بلغم سے ہے غدد کا تعلق حرارت اور صفراء سے ہے طحال کا تعلق ریاح اور سودا سے ہے اس لیے خون کی کمی اور کمزوری اور خلیات کی ٹوٹ پھوٹ کے لیے ہمیں متوازن غذا کی ضرورت ہے اگر کوئی مرض پیدا ہو جائے تو اس کے لیے مناسب غذا کی ضرورت ہے یہ ہم کئی بار واضح کر چکے ہیں کہ خون صرف غذا سے نہیں بنتا اسی طرح قلب و عضلات (النسجه) خون سے بنتا ہے دوسرے بنتے ہیں البتہ دوا اور زہران کے افعال میں کمی بیشی اور تخلیل ضرور کر سکتے ہیں اس لیے زندگی و قوت اور صحت کا دار و مدار صرف غذا پر ہے

جسم انسان کو کیسی غذا کی ضرورت ہے

انسان اشرف اخلوقات ہے فلسفہ ارتقاء کے تحت انسان کی غذا حیوانات پر ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ بچہ کی پہلی غذا مام کا دودھ ہے جو حیوانی غذا ہے جب انسان بڑا ہوتا ہے اس کی غذا حیوانی گوشت ہوتی ہے جس میں اٹھے ممحا ہھ ش کر رہ جاتا ہے اس کی غذا حیوانی گوشت اور صحت کو قائم

رکھنے کے لیے سب اجزاء شامل ہوئے ہیں لیکن جب انسان کو حیوانی غذا میسر نہ رہی یا وہ قلیل ہو گئی تو پیٹ بھرنے کے لیے انسان نے پھلوں اور میوه جات کا استعمال شروع کر دیا ان میں ایک طرف پیٹ کے کیے تسلیم تھی اور دوسری طرف ان میں غذا، ہضم کرنے کی بھی قوت تھی کیونکہ پھلوں اور میوه جات میں غذاوں کے کم و بیش اجزاء کے ساتھ نمکیات کی کثرت ہوتی ہے جو خون کے لیے ضروری ہیں

جب تہذیب دنیا میں پھیلی اور ہر طرف تمدن کا دور دورہ ہوا تو حیوانی غذاوں اور پھلوں و میوه جات پر قوت و دولت اور حسن کا قبضہ ہو گیا تو کمزور اور غریب عوام کے لیے غذا مشکل ہو گئی انہوں نے اصل غذا کی بجائے اناج اور سبزیوں سے زندگی اور قوت و صحت کے لیے پیٹ پری شروع کر دی وہ اس کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے لیکن گوشت و چربی اور دودھ و گھی میں جو غذائیت و قوت ہے وہ اناجوں، اور سبزیوں سے کیسے حاصل ہو سکتی ہے لیکن رفتہ رفتہ انہی اناجوں، دالوں، چاولوں اور سبزیوں کو ضرورت کے مطابق گوشت، انڈوں دودھ، چربی اور گھی سے ملا کر پکانے سے ان میں غذائیت و قوت اور لذت پیدا کر لی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غریب عوام کے ساتھ ساتھ صاحب قدر و مولیٰ ہوا اُک حسن، زبھم، الارجمند، کم کہ اناث و عکر، اجرس، کا

نتیجہ یہ ہوا کہ اصل غذا بیت کی اہمیت انسان کے دل سے نکل گئی اور اصل قوت جس سے وہ درندوں اور شیروں سے لڑا کرتا تھا وہ ختم ہو گئی اور وہ اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے دواوں اور زہروں کا استعمال کرتا ہے

گوشت کے اثرات

جسم انسان کے تمام عضلات جن کا مرکز دل ہے یہ سب گوشت ہیں اس کا مزاج گرم تر ہے اور جب پک جاتا ہے تو گرمی اور تری میں معتدل ہو جاتا ہے یہی انسان کا بہترین مزاج ہے گوشت کی بناؤٹ میں فولاد اور چونا بہت کثرت سے پایا جاتا ہے جگر اور تلی میں فولاد کی کثرت ہے اور معدہ و پھیپھڑوں میں چونے کا خزانہ ہے اسی طرح مختلف قسم کے اعضاے حیوانی مختلف اقسام کی رطوبات و حرارت اور نمکیات اور دیگر اجزاء خون بناتے ہیں ان میں سے اگر کسی کو بھی استعمال کیا جائے گا وہ جسم میں جا کر وہی اثرات و اجزاء پیدا کر دے گا یہ علاج بالغذاء کے لئے بہت بڑا خزانہ ہے

مختلف چرند اور پرند اور حیوانات کے گوشت میں قدرت نے بہت فرق رکھا ہے اگر ہم بکری کے گوشت کو مزاج کے لحاظ سے معتدل خیال کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں حرارت اور رطوبت ریاحی مادے تقریباً معتدل ہیں اگر اس کے مقابلے میں بھیڑ اور دنبہ و گائے اور بھینس کے گوشت کو استعمال

کریں تو ان میں بکری کی نسبت حرارت کم، رطوبت اور ریا جی مادے زیادہ ہیں اسی طرح اگر بکری کے مقابلے میں مرغی اور لبخ اور تیتر و بشیر وغیرہ پرندوں کے گوشت استعمال کئے جائیں تو ان میں حرارت و رطوبت زیادہ اور ریا جی وارضی مادے کم ہیں چونکہ انسانی زندگی کو قوت اور صحت کے لیے پروش کی زیادہ ضرورت ہے اس لیے بکری کے گوشت سے لے کر پرندوں کے گوشت تک کا استعمال زیادہ مفید ہے جسم میں سوزش، ورم اور درد و بخار کے لیے یہی گوشت مفید ہیں البتہ اگر جسم میں حرارت اور صفا کی زیادتی سے رطوبات اور ارضی مادوں کی کمی ہو جائے تو پھر گائے بھینس کے گوشت اسیرا کا کام کرتے ہیں

انسان چونکہ گوشت پاک کر کھاتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے مصالحہ جات ڈالتا ہے اس میں حرارت کی زیادتی کے ساتھ ساتھ ہضم کی زیادتی ہو جاتی ہے گوشت اچھی طرح گلا کر کھانا چائے تاکہ اس کا ایک ایک ریشہ ہضم ہو کر خون اور جزو بدن بن جائے کچا گوشت و حشمت پیدا کرتا ہے اور کچا پکا یعنی کم گلا ہوا گوشت پیٹ میں کیڑے اور متعفن مادے پیدا کرتا ہے بجائے قوت اور صحت کے تکلیف اور امراض پیدا کرتا ہے

انڈے اور مچھلی

ہر قسم کے انڈے اور مچھلیاں بھی گوشت میں شریک ہیں جن پرندوں کے
انڈے ہوتے ہیں وہی تاثیر رکھتے ہیں مچھلی کے گوشت میں حرارت سے
زیادہ رطوبت غالب ہے اس لیے بہت جلد گندی اور متغفن ہو جاتی ہے اس
تعفن سے اعصاب میں انتہائی تیزی پیدا ہو جاتی ہے جس سے جسم میں
چونے اور فولاد کی نہ صرف کمی واقع ہو جاتی ہے جبکہ جلد کارنگ خراب ہو کر
سفید داغ اور دھبے پڑ جاتے ہیں مچھلی کے ساتھ رطوبت والی انڈیہ مثلاً
دودھ اور دہی کھانے سے اس کو جلد متغفن کر دیتا ہے جب تک مچھلی جسم میں
جا کر متغفن نہ ہواں کا نقصان نہیں ہوتا۔ چاہئے اس کے ساتھ کچھ کھالیا
جائے مچھلی کھانے والوں کو اس امر کی تاکید ہونی چاہئے کہ مچھلی ہمیشہ تازہ
بلکہ زندہ لے کر پکائی جائے پھر اس سے کبھی نقصان نہیں ہوتا بلے جد مفید
ثابت ہوتی ہے اس میں جوانی کو قائم رکھنے کی بہت بڑی طاقت ہے

دودھ اور گھنی

دودھ کو آب حیات اور گھنی کو تریاق کہنا زیادہ مناسب ہے انسان کی زندگی
دودھ سے شروع ہوتی ہے اور باقی تمام زندگی اگر میسر آئے تو دودھ، گھنی اور
مکھن ود، ہی پر گزار دیتا ہے ان اشیاء کے استعمال سے انتہائی قوت صحت قائم
رہتی ہے اور انسان طویل عمر پاتا ہے دودھ کا مزانج ترجم ہے اور جس جانور کا

دودھ ہوتا ہے اپنی رطوبت کے ساتھ گرمی کے وہی اثرات اپنے اندر رکھتا ہے سفید اور سیاہ جانوروں کا دودھ زیادہ رطوبت اور سردی کی طرف مائل ہوتا ہے جیسے گدھی کا دودھ۔ گھی کامزاج گرم تر ہے جسم انسان کے اندر کسی قسم کی سوچش ورم اور درد و بخار ہواں کا شرطیہ تریاق ہے جس ملک میں خالص گھی ملتا ہو وہاں تپ دق اور سل نہیں ہو سکتا فانج اور زیاد یا بیٹس کے لیے بے حد مفید ہے اس کا جسم پر ایسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے پزوں پر تیل اثر کرتا ہے یہ حیوانی گندھک ہے دوسرے معنوں میں اس روغن گندھک کہہ دیں جس کے لیے کیمیا بنانے والے ترستے ہیں کہ ہر دھات کو سونا بنادیتا ہے اس طرح یہ گھی بھی جسم میں سونے کے خواص پیدا کر دیتا ہے ہماری رائے میں انسانی غذا صرف گھی ہے جو کبھی گوشت کبھی دودھ اور کبھی اناج کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور زندگی و قوت اور صحت بخشتا ہے بنا سپتی اس کے مقابلے میں زہر ہے یہ تیل سے تیار ہوتا ہے تیل جسم میں تیزاب پیدا کرتا ہے گندھک پیدا نہیں کرتا اور جب تیل میں تیز ادویات اور گیس شامل کر کے اس کو گھی بنایا جاتا ہے تو وہ زہر بن جاتا ہے دوسرے معنوں میں بنا سپتی اور صابن کا نسخہ ایک ہے صابن گاڑھا ہوتا ہے اور بنا سپتی رقیق ہوتا ہے اس، میں جس قدر وٹامن ملائیں اس کے زہر لیے ہونے اور نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہ ہو گی گویا قوت اور

صحت کے لیے نقصان عظیم ہے

شہد

حیوانی اندیزی میں شہد بھی شریک ہے جو شہد کی تکھیاں پھلوں اور پھولوں سے تیار کرتی ہیں اس میں قدرت کی طرف سے انہائی مٹھاس کے ساتھ انہائی حرارت کے اثرات پائے جاتے ہیں اس کے دو تین تجھے کھانے سے فوراً جسم گرم ہو جاتا ہے باوجود انہائی گرم ہونے کے جسم کے اندر کی ہر قسم کی سوزش اور روم کے لئے انہائی مفید ہے گھنی سے زیادہ گرم اور زیادہ ملین ہے نئی و پرانی پچیش اور ضعف جسم اور فانج کے لیے انہائی مفید ہے ان مقاصد کے لیے اس کا شربت یا چائے و قہوہ میں ڈال کر استعمال کرنا بہت مفید ہے شہد کا مزاج گرم تر ہے لیکن دیگر اندیزی اور پانی کے ساتھ ہر مرض میں استعمال کیا جاسکتا ہے کیونکہ یہ اپنی حرارت کی وجہ سے جگر اور اعصاب کے لیے بے حد مقوی اور محرک اثر کرتا ہے ایلو پیتھی میں جو گلوكوز استعمال ہو رہا ہے وہ نباتاتی مٹھاس ہے وہ کسی حیثیت سے بھی شہد کا مقابلہ نہیں کر سکتا شہد اور گلوكوز میں ایسا ہی فرق ہے جیسے گھنی اور بنا سپتی کا فرق ہے گلوكوز کا مزاج سرد تر ہے اس میں جتنے بھی وٹامن شامل کر لئے جائیں وہ شہد کی طرح گرم نہیں ہو سکتا شہد ہر مرض میں گلوكوز سے مفید ہے

نباتاتی انڈیہ میں مکمل غذا ایت نہیں ہے
 نباتات میں ہر قسم کے میوه جات، پھل، اناج، دالیں، سبزیاں اور جڑھیں
 سب شامل ہیں نباتاتی انڈیہ حیوانی انڈیہ کے مقابلے میں بالکل ایسی ہے
 جیسے بھوسہ، یعنی پیٹ بھرنا ورنہ جہاں تک غذا ایت کا تعلق ہے ان میں مکمل
 غذا ایت نہیں ہے ان میں افضلیت میوه جات اور پھلوں کو حاصل ہے کیونکہ
 ان میں اجزاء نجیمیہ، اجزاء روغنیتیہ، اجزاء شکریہ اور نمکیات کافی مقدار
 میں پائی جاتی ہیں جس طرح پھل اور میوه جات حیوانی انڈیہ کا مقابلہ نہیں کر
 سکتے اسی طرح اناج و دالیں اور سبزیاں و جڑھیں پھلوں اور میوه جات کا
 مقابلہ نہیں کر سکتے

میوه جات اور پھل

میوه جات میں بادام، پستہ، ناریل، اخروٹ، موگ پھلی، چلغوزہ، اور کھاجا وہ
 سب غذائے دوائی ہیں اپنے اندر کافی حرارت اور قوت رکھتے ہیں ان کا
 دوائی اثر بھی غیر معمولی شدت پیدا کر دیتا ہے، لیکن غذائی علاج میں ان سب
 کو اہم مقام حاصل ہے سردیوں میں ان کا استعمال بے حد مفید ہے
 پھلوں میں کھجور، انگور، آم، سیب، مالٹا، امرود، ماشپاتی، پیچی، کیلہ، جامن، فالسہ

انجیر، انار، میٹھا، آلو چہ، آلو بخارا اور آڑو وغیرہ ان میں بعض گرم ہیں جیسے کھجور
انگور، آم، انجیر۔ بعض اپنے اندر غذا سیت رکھتے ہیں جیسے سیب، امروڈ، کیلا،
جامن، خوبانی، خربوزہ، شہتوت، پیچی، آلو بخارا، میٹھا، انار، انناس، تربوز، رس
بھری، آلو چہ، سنگترہ، گنا وغیرہ

اناج و دالیں اور سبزیاں و جڑھیں

انا جوں میں گیہوں کو اولیت کا درجہ حاصل ہے اس کے بعد چاول کا مقام ہے
پھر پختے اور دیگر دالیں۔ مکنی، جوار، باجرہ اور جو وغیرہ ان میں درجہ بدرجہ نشاستہ
اور غذا سیت پائی جاتی ہے

سبز یوں میں میتھی، پالک، کریلے، آلو، ٹماٹر، گاجر، مٹر، گوبھی، کھیرا، کلڑی، شلغم،
کدو، کچنار، سیم، چقندر، بینگن، بھنڈی، اردوی، ٹینڈے، سرسوں کا ساگ، پیاز،
ادرک ان میں گرم تر و سرد دونوں اثر رکھنے والی سبزیاں ہیں یہ دراصل دوائے
غذائی ہیں ان میں غذا سیت بہت کم پائی جاتی ہے بہر حال پیٹ بھرنے کے
لیے استعمال کی جاتی ہیں البتہ ضرورت کے مطابق امراض کا علاج ہیں

بھوک

بعض حکماء نے لکھا ہے کہ بھوک بھی ایک مرض ہے اس کا علاج غذا ہے اس کا

مطلوب یہ ہے کہ جب تک مرض کی طرح تکلیف دہ نہ ہو غذا نہیں لینی چاہئے
ہم یہ کہتے ہے کہ جب غذا کھانے سے امراض پیدا ہوں تو غذا کھانا چھوڑ دینا
چاہئے کیونکہ سوائے چوت و گر پڑنے اور بیرونی حادثات کے کوئی مرض بغیر
ضرورت غذا اداشیاء اور دوا اور زہر کھانے پینے کے پیدا نہیں ہوتا انتہائی بھوکا
انسان کمزوری کا احساس تو ضرور کرے گا یہ نہیں کہے گا کہ وہ مریض ہے اس
حقیقت سے یہ ظاہر ہے کہ بھوک کی شدت ہی ضرورت غذا کا ظہار ہے اور
یہی ثقل اور زیادہ سے زیادہ غذا کو ہضم کر دیتی ہے بھوک دراصل ایک
زبردست قوت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بھوک کے یہ معنی نہیں ہیں کہ چند
لئے کھانے جائیں بلکہ ایسی بھوک ہو جو انسانی معدے کے خلا کو پورے طور
پر بھردے تاکہ طبیعت میں ہضم کا دباؤ (پریشر) پورے طور پر کام کرے مثلاً
ایک انسان کے پیٹ میں انداز آدر میانہ درجہ میں تین روٹیاں پڑتی ہیں تو یہی
اس کی بھوک ہے اگر تین روٹیوں سے پیٹ بھرنے والا ایک نصف روٹی
کھائے گا تو اس کی بھوک نہ ہوگی یونہی بغیر ضرورت صرف خواہش یا شوق
سے کھالیا ہے ایسی غذا میں ہضم کا دباؤ پورا نہیں بنے گا اور غذا پڑی رہے گی
اور متعفن ہوگی جائے جس کا نتیجہ امراض کا پیدا ہونا ہے

کم کھانا

غذا کم کھانے کے متعلق ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے لیکن اس کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے بعض لوگ اپنی کم خوراکی پر فخر کرتے ہیں کہ وہ صرف چند لقے کھاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیٹ میں بہت سی غذا غیر منہضم پڑی رہتی ہے جس میں ہر وقت خمیر اور تعفن پیدا ہوتا رہتا ہے جو ان کو زیادہ کھانے نہیں دیتا جب تک پورے معدے کی بھوک نہ ہو کھانا نہیں چاہئے کم کھانا صرف اس کو کہتے ہیں کہ بھوک تو تین چار روٹیوں کی ہو مگر نصف ایک روٹی کھائی جائے یہ صرف صوفیائے کرام کا کام ہے جو درحقیقت میں مشکل کام ہے اسی بھوک کی روشنی میں ہم نے چند اصول ترتیب دیے تا کہ ہر شخص فائدہ اٹھا سکے کیونکہ تجربہ نے بتایا ہے کہ ہر شخص بھوک کی حقیقت کو سمجھنے نہیں سکتا اور کھایتا ہے پھر تکلیف اٹھاتا ہے

1- ہر ایک غذا کے بعد دوسری غذا کم از کم چھ گھنٹے بعد لینی چاہئے کیونکہ پوری غذا بارہ گھنٹوں میں ہضم ہوتی ہے چھ گھنٹوں میں وہ معدہ اور چھوٹی آنتوں میں سے گزر کر بڑی آنتوں میں پہنچ جاتی ہے اس طرح دو ہضم سے کو غذا خراب ہو جاتی ہے اس سے بچ جاتا ہے

2- چھ گھنٹے کے بعد بھی یہ شرط ہے کہ بھوک شدید ہونی چاہئے ورنہ اور وقفہ بڑھادینا چاہئے البتہ اس وقفہ میں پانی پی سکتا ہے

3۔ غذا خوب پختہ گلی ہوئی اور ذائقہ کے مطابق ہونی چاہئے اگر طبیعت ن پسند نہ کی تو ہضم نہیں ہوگی

غذاء الطور دوا

غذا کی حقیقت و اہمیت اور ضرورت کو سمجھنے کے لیے یہاں پہلے یہ مقام آتا ہے کہ غذا کو بجائے خوارک کے طور پر استعمال کیا جائے یعنی جس غذا کی مرض میں ضرورت ہے اس کو استعمال کیا جائے اور جو غذا نقصان دہ ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے اس طرح مفید اغذیہ کے استعمال اور غیر مفید اغذیہ کو نکال دینے سے مرض رفع ہو جاتا ہے اس طرح خون میں ایک ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہر قسم کے مشکل اور پیچیدہ امراض بھی چند دنوں میں رفع ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ مکمل و مقوی اور مصنFi خون، ہی جسم و نفس اور روح کے کئے زندگی و قوت اور صحت ہے یہی علاج بالغذا اکاراز ہے

سائنس کا نظریہ غلط ہے

سائنس کا دعویٰ

ماڈرن سائنس اور ایلوپیٹھی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے غذا پر بے حد تحقیق کی ہے اس سلسلہ میں بال کی کھال اتاری ہے جن غذاوں کی ضرورت ہے ان

کے ایک ایک جز کا تجزیہ اور مشاہدہ کیا ہے اس کے علاوہ صحت کو قائم رکھنے کے لیے جن غذاوں کی ضرورت ہے ان کے ایک ایک جز کا تجزیہ اور مشاہدہ کیا ہے یہاں تک تحقیق کی گئی ہے کہ کن کن غذاوں کی کمی سے کون کون سے امراض پیدا ہوتے ہیں بلکہ یہاں تک مشاہدات اور تجربات کئے گئے ہیں کہ مختلف حیاتی ذرات (سلز) کن کن غذاوں سے زندہ رہتے اور بڑھتے ہیں اور کن کن اجزاء سے بیمار ہو جاتے اور فنا ہو جاتے ہیں ان کے علاوہ یہ بھی یا تجربات اور مشاہدات کئے گئے ہیں کہ جن غذاوں اور ان کے اجزاء کی کمی یا خرابی سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں اور ان کے استعمال سے وہ امراض رفع ہو جاتے ہیں ان مشاہدات اور تجربات کے بعد انہوں نے غذا کا قانون بنایا

ہے جس کا نام ہے متوازن غذا

یعنی ایسی غذا کا استعمال جس سے صحت قائم رہے اور اگر بگڑ گئی ہو تو اس متوازن غذا سے اس کو صحت کی طرف واپس لایا جائے

متوازن غذا کیا ہے

متوازن غذا سے مراد وہ غذا ہے جو تندرستی کی محافظ ہو یعنی اس کے استدلال سے خون کے اجزاء مکمل ہوں اور اس میں کیمیاوی طور پر حرارت پیدا ہو اور

طااقت قائم رہے اس طرح صحیح معنوں میں جسم کا بدل ماتھل قائم رکھے ایسی غذا متوازن ہو سکتی ہے

عالیٰ ادارہ صحت نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ مکمل جسمانی و ذہنی اور معاشرتی آسودگی کا دوسرا نام تندرستی ہے اور آسودگی اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہماری غذا متوازن ہو اور اس میں وہ تمام اجزاء متوازن مقدار ہوں جن سے جسم کو مناسب مقدار میں حرارت اور طاقت ملتی ہے گویا اچھی اور متوازن غذاؤہ ہے جو جسم کے ہر خلیے (سیل) کو طاقت بخشے اس مقصد کے لیے غذا میں مندرجہ ذیل بنیادی اجزاء یا بنیادی غذائی مادے ہونے چاہئیں (1) غذا۔ جس کی تین اقسام ہیں (2) معدنی نمک اجزاء خون (3) پانی (4) وٹامن۔ جن کے چھ اقسام ہیں

غذا کے اقسام

غذا کے اقسام یہ ہیں (1) پروٹین (اجزائے لمحیہ) (2) کاربوہائیڈریٹس (نشاستہ دار اجزاء) (3) روغنی اجزاء (فیش) جن کی تشریح درج ذیل ہے

پروٹین (اجزائے لمحیہ)

ایسی غذا میں جو گوشت پیدا کریں جن میں حیوانی انڈی یہ کے ساتھ نباتی

غذا میں بھی شریک ہیں حیوانی انڈیہ میں گوشت، محصلی، اندے اور دہی وغیرہ
وغیرہ شریک ہیں اور نباتاتی انڈیہ میں گیہوں، مٹر، لوپیا، سیبم، موونگ اور ماش
وغیرہ شریک ہیں چونکہ لحمی انڈیہ میں خالص لحمی اجزاء کے علاوہ دیگر ایسے
اجزاء بھی شریک ہوتے ہیں اس لئے ان کو خصوصی طور پر ایلومنی اور ناٹروجن
انڈیہ بھی کہتے ہیں اس کیمیاولی تجربہ درج ذیل ہے (1) ناٹروجن
16 فیصدی (2) آسیجن 23 فیصدی (3) ہائیڈروجن 7 فیصدی (4)
کاربن 4 فیصدی (5) گندھک ایک فیصدی شامل ہیں سوائے ناٹروجن
اور گندھک کے باقی اجزاء چونکہ دیگر قسم کی انڈیہ میں شامل ہیں اس لیے اس
کا خصوصی نام ناٹروجنی غذا کہتے ہیں پروٹین کی بہترین مثال اندے کی
سفیدی ہے اس میں صرف پانی اور پروٹین شامل ہیں اس لیے اس کو ایلومنی
غذا کہا جاتا ہے

چونکہ پروٹین دو قسم کی ہیں اس لیے حیوانی پروٹین کو "مایوسین" کہتے ہیں اور
نباتاتی پروٹین کو گلوٹن نیں کہتے ہیں اسی طرح خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے
گیہوں میں پائے جانے والے پروٹین کو "گلوٹن نیں" اور ہڈیوں اور جلد
سے حاصل کئے ہوئے پروٹین کو جلاٹین کہتے ہیں لیکن یہ پروٹین کی بہترین
قسم نہیں ہے البتہ حیوانی پروٹین نباتاتی پروٹین کے مقابلے میں بہتر ہوتے

ہیں کیونکہ ان کے اینو ایسڈ ہاضمہ کے دوران جزو بدن ہو کر جسم میں پروٹین کی شکل اختیار کرتے ہیں اس کے برعکس نباتاتی پروٹین جسم میں حرارت اور قوت تو پہنچا سکتے ہیں مگر جزو بدن نہیں بن سکتے۔ معدہ میں غذا ہضم ہونے کے بعد پہلے پروٹین و نامزد میں تبدیل ہوتے ہیں پھر خون میں جذب ہو کر جگر میں پہنچ جاتے ہیں جگران سے ناٹروجن علیحدہ کرتا ہے اور یوریا میں شامل کر کے واپس خون میں بھیج دیتا ہے جس کو گردے پیشاب کی راہ خارج کر دیتے ہیں

پروٹین سے عضلات کی بافتیں بنتی ہیں جن سے گوشت اور پوست تکمیل پاتے ہیں اور ان کے عمل سے جسم میں آسکیجن کی رفتار باقاعدہ رہتی ہے ہائیڈروجن اور کاربن کی وجہ سے جسم میں ایندھن کا کام بھی دیتے ہیں ان اعمال کے علاوہ کسی حد تک چربی اور حیوانی نشاستہ (کلائی کو جن) بھی بناتے ہیں صورت یہ ہے کہ جب اینو ایسڈ اور ناٹروجن نکل جاتے ہیں تو وہ شحمی ترشہ یا شکر میں تبدیل ہو جاتے ہیں شحمی ترشہ کا یہ عمل ہے کہ آسکیجن کے ساتھ مل کر پہلے چربی میں تبدیل ہوتا ہے پھر جسم میں گردوں کے آس پاس آنتوں میں جمع ہو جاتے ہیں جو اینو ایسڈ ان تبدیلیوں سے نہیں گزرتے وہ جسم کی بافتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں جہاں پہنچ کر دوبارہ پروٹین کی شکل

اختیار کر لیتے ہیں متوازن غذا میں پروٹین سب سے مقدم ہے کیونکہ اگر پروٹین جسم میں کمی ہو جائے تو خون کے سرخ ذرات کی تعداد بہت تھوڑی ہو جاتی ہے گویا پروٹین جسم میں سب سے بڑی طاقت ہے روزانہ غذا میں اس کی بے حد ضرورت ہوتی ہے

کاربوہائیڈریٹس (اجزاء نشاستہ)

ایسی اغذیہ جن میں مٹھاں پائی جاتی ہے ان اغذیہ میں زیادہ تر پھل، نباتات اور بہت کم حیوانی اغذیہ ہوتی ہیں نباتاتی اغذیہ میں گیہوں، آلو، شکر قندی اور مختلف انماج اور جڑیں وغیرہ اور حیواناتی اغذیہ میں شہد اور دودھ، شکر وغیرہ شامل ہیں اس کا کیمیاولی تجزیہ درج ذیل ہے کاربن ہائیڈروجن، آسیجن چونکہ اغذیہ میں بھی یہی اجزاء پائے جاتے ہیں اس لیے اس میں تخصیص کے لیے دو حصے ہائیڈروجن اور ایک حصہ آسیجن ہوتی ہے اس لیے اس کو کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں اس قسم کی غذا سے جسم میں حرارت اور رطوبت پیدا ہوتی ہے ہر قسم کے نشاستہ دار اور شکری اغذیہ ہضم ہونے سے پہلے گلوکوز انگوری شکر میں تبدیل ہو جاتے ہیں اسی کا عمل منہ میں لعاب وہن کے ملنے سے شروع ہو جاتا ہے معدہ میں ہضم ہونے کے بعد جو آنتوں میں پہنچتی ہے تو اس میں لبلبہ کی رطوبت شامل ہو کر اس کو ہضم کرتی ہے پھر جگر میں پہنچ کر

حیوانی شکر کی صورت میں وہاں جمع رہتی ہے جہاں ضرورت کے وقت خرچ ہوتی رہتی ہے اس کا زیادہ تر اخراج گردوں سے ہوتا ہے اگر جسم میں یہ گھٹ جائے تو کمزوری اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور اگر زیادہ آنے لگ جائے تو ذیابیطس اور اس کے عوارضات پیدا ہو جاتے ہیں جو انوں اور بوڑھوں کی نسبت بچوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں

فیٹس (اجزاء روغنی)

ایسی غذا میں جن میں روغنی اجزاء پائے جاتے ہیں ان میں حیوانی اور نباتی دونوں قسم کی اندیزہ جاتی ہیں حیوانی چکنائی میں گھی، کھن، چربی اور چمی اجزاء وغیرہ نباتی چکنائی میں روغن زیتون، روغن بادام، روغن ناریل، روغن کنجد، روغن موونگ پھلی اور روغن بولہ وغیرہ اس کا کیمیاولی تجزیہ مندرجہ ذیل ہے کاربن ہائیڈروجن آسیجن، چونکہ نشاستہ دار اور تناسب بمقابلہ آسیجن کہیں زیادہ ہوتا ہے ہر قسم کی چربی اور روغن دو اجزاء سے مرکب ہوتا ہے ایک مرکب گلیسرین کہتے ہیں اور دوسرے شے ایک روغنی تیزاب ہوتا ہے

روغنی اندیزہ جسم میں حرارت اور توانائی پیدا کرتے ہیں اور پر لکھا جا چکا ہے کہ اجزاء چمیہ اور اجزاء شکریہ بھی حرارت اور توانائی پیدا کرتے ہیں لیکن ان میں

حرکات اور توانائی کی قابلیت کا اندازہ ان کی کیلو ری سے لگایا جاسکتا ہے یعنی اگر ایک چھٹا نک روغن سے 510 کیلو ری بننے ہیں تو اجزاء الحمیہ اور اجزاء شکریہ اتنی مقدار میں صرف 320 کیلو ری (حرارت) پیدا کرتے ہیں گویا دونوں کے مقابلے میں دگنی حرارت اور توانائی پیدا کرتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روغنی اغذیہ کافی دیر تک معدہ اور جگر میں ٹھہر تے ہیں جن سے جلد بھوک محسوس نہیں ہوتی جسم نرم رہتا ہے اس سے خشکی و جلن اور سوزش دور ہو جاتی ہے

روغنی اجزاء کا ہضم آن توں میں اس وقت ہوتا ہے جب اس میں صفراء اور بلبہ کی رطوبت شامل ہوتی ہے منہ اور معدہ میں اس پر نہ لعاب دہن کا اثر ہوتا ہے اور نہ ہی رطوبت معدی اثر انداز ہوتی ہے جب روغنی اجزاء میں یہ رطوبات ملتی ہیں تو دودھیار گ کا شیرہ بن جاتا ہے پھر ہضم ہو کر جگر میں پہنچ جاتا ہے اس طرح خون میں شامل ہو کر حرارت اور توانائی بڑھادیتا ہے

معدنی نمکیات

معدنی نمکیات تو بہت سے ہیں لیکن ہمارا مقصد ان نمکیات سے ہے جو جسم انسان میں پائے جاتے ہیں ان میں (1) کیلشیم (2) فیریم (3) سوڈیم (4) پوتاشیم (5) فاسفوس (6) سلفر (7) میگنیشیا (8) آئیوڈین (9) کاپر

(10) زنك (11) سليكا (12) كلورين (13) كاربن (14) فلورين شامل ہیں یہ نمکیات جسم انسان میں بسیط حالت میں پائے جاتے ہیں یعنی جدا جدا نہیں ہوتے بلکہ مختلف طریق پر باہم مرکب ہوتے ہیں اور نمکیات ہماری غذا میں پائے جاتے ہیں جب ہمارے جسم میں کسی نمک کی کمی یا خرابی واقع ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی مرض پیدا ہو جاتا ہے اس لیے صحت کو قائم رکھنے یا مرض کو رفع کرنے کے لیے ان غذی یہ کوکھانا چاہئے جن میں یہ اجزاء نمک میں پائے جاتے ہیں جن ان غذی یہ میں یہ اجزاء پائے جاتے ہیں وہ درج ذیل ہیں

نمک طعام

یہ نمک سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے روزانہ کی خوراک میں شریک ہے یہ سوڈیم اور کلورین کا مرکب ہے اس لیے اس کو سوڈیم کلورائیڈ کہتے ہیں اگر چند ہزار نہ آئے تو انسان مريض ہو جائے اگر بالکل ہی نہ ملے تو یقیناً انسان کو اس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہو جائے اس سے غدد کی بافتیں تکمیل پاتی ہیں اور حرارت پیدا ہو کر ہضم غذا میں ملتی ہے (1) سرسوں کا ساگ (2) پنیر (3) پالک (4) انڈے کی سفیدی (5) بکری کا دودھ (6) شلغم (7) پیاز (8) آلو بخارا (9) ٹماٹر اور کھنڈن میں شریک ہوتا ہے

کیلشیم

(1) دودھ (2) پنیر (3) سبز پتوں والی سبزیاں (4) میتھی کے پتوں میں
 کافی مقدار میں پایا جاتا ہے اسی طرح (5) گوبھی (6) انجیر (7) پیاز
 (8) موگ پھلی (9) سویا بن (10) انڈوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے
 (11) گوشت میں انڈوں سے بھی زیادہ ہے

میگنیشیم

دودھ، بادام، انگور، خوبانی، سلاڈ، زیتون، ٹماڑ، آلو، بخارا، سیب

پوٹاشیم

دودھ، دہی، گاج، کھیرا، گلزاری، انسانس، مولی

کاربن

انگور، سیب، کھجور، آلو، مرٹر، انجیر، گوبھی، اور کھنپ

فیرم

لیچی، گوشت، انڈے، مچھلی، خوبانی، پنیر، کھجور، انسانس، زیتون، انگور، گندم

چقندہ، پالک وغیرہ

گندھک

انڈے، خوبانی، انگور، کھجور، گندم، پالک، میتھی، ناریل، مٹر، ٹماڑا اور خشک انجیر

فاسفوس

دودھ، پنیر، انڈے، گوشت، محصلی، مٹر، زیتون، کھنپی، موگ پھلی، سلااد، گوجھی

اور آلو

آئیوڈین

محصلی، سلااد، انڈے، گوجھی، چکوترا اور ٹماڑ

پانی

پانی کی اہمیت مسلمہ ہے اس کے بغیر غذا کا کھانا مشکل ہے پانی غذا میں پایا جاتا ہے غذا کو محلول کرتا ہے غذا کو جسم میں دور دور تک لے جاتا ہے خون اسی سے محلول بنتا ہے اسی کی مدد سے پیشتاب اور پسینہ آتا ہے جب جسم میں اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو پیاس لگتی ہے اگر پانی میسر نہ آئے تو گلا اور باقی جسم خشکی محسوس کرتا ہے پانی ہائیڈروجن اور آسکسیجن کا مرکب ہے ہمارے جسم کا ستر فیصدی حصہ پانی ہے اور خون میں اسی فیصدی پانی ہوتا ہے خون کی گردش کے ساتھ پانی خلیوں میں پہنچتا ہے یہاں تک ہڈیوں میں بھی پایا جاتا

ہے پانی کے بغیر موت ہے

وٹامن

وٹامن ایسے مادے ہیں جو کیمیا دی طور سے غذا سے جدا کئے گئے ہیں وہ کوئی غذا سے جدا نہ نہیں ہیں ان کا غذا میں پایا جانا لازمی ہے اگر غذا میں یہ وٹامن شریک نہ ہوں تو انسان کی صحت میں نقص واقع ہو جاتا ہے پھر جب ان کو جسم میں پورا کر دیا جائے تو صحت کا نقص رفع ہو جاتا ہے اس لیے صحت کے لئے غذا میں ان کا شامل ہونا ضروری ہے اگرچہ وٹامن صحت دافع مرض اور نشوونما کے لیے از حد ضروری ہیں لیکن غذا کے لیے ان کی کچھ حیثیت نہیں ہے کیونکہ ان سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی یہ جزو بدن بنتے ہیں انسانی متوازن غذا کا ضروری حصہ ہیں گویا غذا کے لیے حرکات ہیں جیسے نمک آٹے میں ہضم کے قابل بنا دیتا ہے وٹامن کو غذا سے جدا کر کے تجارتی طور پر بازار میں فروخت کیا جا رہا ہے اور ضرورت مندوں کو استعمال کرائے جا رہے ہیں وٹامن تعداد میں چھ ہیں جو اے، بی، سی، ذی، ای، کے، وغیرہ ناموں سے موسوم ہیں بعض نے ان کو ایک درجہ تک بیان کر دیا ہے اور بعض وٹامن کے کئی کئی اجزاء بنائے گئے ہیں تمام وٹامن دو صورتوں میں پائے جاتے ہیں اول جو پانی میں حل ہو جاتے ہیں جو دو ہیں ”بی“ اور ”سی“ دوسرے جو روغنی چربی

میں حل ہو جاتے ہیں ان میں ”اے“ ”ڈی“ اور ”کے“ ہیں ابتدائی تحقیق میں ان کی کیمیائی حقیقت کا علم نہیں تھا اس لیے ان کے نام ابجد پر عارضی طور پر رکھ دیے گئے تھے اب کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل ہو گئی ہیں اس لیے اب انہیں ان کے کیمیائی ناموں سے بھی پہچانا جاتا ہے

وٹامن اے

غذا کا ایسا کیمیائی جز جو چربی یا روغن میں حل ہو جاتا ہے مگر پانی میں حل نہیں ہو سکتا یہ وٹامن کیروٹین کی شکل میں پایا جاتا ہے کیروٹین سبزیوں میں کافی مقدار میں پائی جاتی ہے ہماری خوراک میں جتنا وٹامن ”اے“ ہوتا ہے اس کی نصف مقدار کیروٹین کی شکل میں سبزیوں ترکاریوں ہی سے حاصل ہوتی ہے کیروٹین کا بہترین ذریعہ گہرے سبزرنگ کے پتوں والی سبزیاں ہیں ان کا زیادہ گہرا سبز اور تیز پیلا رنگ کیروٹین کی مقدار کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن کیروٹین بذاتِ خود وٹامن نہیں ہے

وٹامن ”اے“، مکھن، بلائی، انڈے اور بعض حیوانی روغن بالخصوص مچھلی کے تیل میں موجود ہوتا ہے ان کے علاوہ یونچی، گردوں، دودھ، کریم، پنیر اور گھنی میں بھی ہوتا ہے ان کے علاوہ بعض نباتات جیسے گاجر، ٹماٹر، ہری پیاز، سرسوں کا ساگ، شلغم کے پتے، پالک، خوبانی اور آڑو میں چونکہ کیروٹین بکثرت ہوتا

ہے ان سے بن جاتا ہے

اس کے استعمال سے جسم زم و چمکدار ہو جاتا ہے اور مقابلہ مرض کے لیے جسم میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جلد ملام رہتی ہے آنکھوں میں چک آ جاتی ہے بینائی تیز ہو جاتی ہے ہڈیوں کے لیے مفید ہے پھیپھڑوں کے امراض کے لیے خاص طور پر مفید ہے اور دافع لعفن ہیں یہ وٹامن انسانی عمر، جسمانی نشوونما اور قوت بالیدگی اور قیام حیات کے لئے ضروری ہے

اگر غذا میں اس کی کمی واقع ہو جائے آنکھوں کی سوزش، رات کو نظر کا کام نہ کرنا، معدہ اور پھیپھڑوں کے امراض کے امراض، مثانہ اور گردوں میں پتھری، جلد کی خشکی، دانتوں کا بھر بھرا ہوتا، مسوڑھوں میں پائیوریا کی بیماری ہو جاتی ہے

وٹامن بی

غذا کا ایسا کمیادی جزو پانی میں حل ہو جاتا ہے مگر چربی اور روغن میں حل تھیں ہو سکتا زیادہ حرارت سے ضائع ہو جاتا ہے اکثر کمی ہوئی اغذیہ میں ختم ہو جاتا ہے سوڈا اور کھارا کے اثر والی اشیاء میں ضائع ہو جاتے ہیں وٹامن بی کی بارہ مختلف صورتیں ہیں لیکن دراصل یہ ایسے وٹامنوں کا مجموعہ ہے جو ایک ہی قسم کی اغذیہ میں پائی جاتی ہیں ان کے اثرات تقریباً ملته جلتے ہیں یہ ایک

سے لے کر بارہ تک شمار ہوتے ہیں لیکن ان سب کے بھی کیمیاولی نام ہیں وٹامن (بی) کی بارہ صورتیں ہیں ان کے کیمیائی نام ان کی انگذیہ اور ان کے اثرات وغیرہ یہ ہیں وٹامن ”بی“ (کمپلیکس) کا کیمیائی تھامن اور اینورین ہے جسم میں کچھ زیادہ ذخیرہ نہیں ہوتا اس لیے ضرورت کے مطابق جسم کو مہیا ہونا چاہئے اس کا بہترین ذخیرہ وہ خمیر ہے جسے خمیر اٹھانے کے لیے کیا جاتا ہے

وٹامن ”بی“ عام طور پر سالم انانج، موونگ، چھلی اور اس کے تبل میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے ان کے علاوہ دودھ، مرٹر، سنگٹرہ، پالک، چوزہ، چھلی، آلو، پنیر، پھول، گوبھی، لو بیا، سیب، سرخ مرچ، شاربری، بندگوبھی، گریپ فروٹ، انناس، شلغم، چندر، ٹماٹر، شکر قندی، آڑو وغیرہ میں پایا جاتا ہے اس کے استعمال سے اعصاب کو طاقت آ جاتی ہے جس سے دماغ و بینائی اور بالوں کو طاقت آ جاتی ہے اس کے علاوہ دل و جگر اور معدہ پر بھی مقوی اثر پڑتا ہے بھوک لگاتا ہے اور قبل از وقت بڑھا پے کو روکتا ہے اس کے علاوہ اعصابی کمزوری، جلد کی بے حسی، ناگنوں کی کمزوری، لرزش، دل کا بیٹھ جانا، ناگنوں میں پانی بھر جانا۔ معدہ اور آنٹوں کی کمزوری، بھوک کی کمی، ضروری رطوبت کی جسم میں کمی، وزن اور حرارت میں کمی وغیرہ میں مفید ہے

وٹامن ”بی 2“ اس کا کیمیائی نام ایبورین ہے یہ زیادہ تر دل و جگر کے ساتھ گردوں میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ گوشت و مچھلی اور مرغی اور ان کے انڈے سالم گیہوں اور پتوں والی سبزیاں، ہری پیاز اور ساگ وغیرہ ترش میں محفوظ رہتے ہیں روشنی میں ضائع ہو جاتے ہیں اس کے استعمال سے چہرہ بالوں اور آنکھوں میں قوت پیدا ہوتی ہے چہرے پر رونق پیدا ہو جاتی ہے یہ مرض پناگرہ کو دور کرنے کیلئے مشہور ہے جب باچھیں پک جائیں ہونٹوں پر خراشیں آ جائیں اور زبان سوچ جائے تو یہ وٹامن مفید ہے اس کے علاوہ اس کی کمی سے ناک پر خشکی آنکھوں میں سرخی اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں

وٹامن (بی 3)

اس کا کیمیائی نام نکوتینک ایسڈ ہے اس کا دوسرا نام نیاسن ہے یہ (بی کمپلیکس) میں شامل ہونے والا ایک جز ہے یہ حرارت سے کم ضائع ہوتا ہے تقریباً انہی اغذیہ میں پایا جاتا ہے جن میں ”بی“ پایا جاتا ہے اس کے استعمال سے جسم میں رطوبت اور حرارت پیدا ہو کر خشکی دور ہو جاتی ہے وزن بڑھ جاتا ہے حافظہ اور ذہن درست ہو جاتا ہے

(بی 3) کی تمام علامات کے ساتھ معدہ و آنتوں میں درد اور اسہال پیشاب

میں جلن اور جنسی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے رفتہ رفتہ اس کا نتیجہ مالخولیا اور بے ہوشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں عورتوں کی ماہواری میں نقص آ جاتا ہے ایسی علامات میں وٹامن (بی 3) مفید ہوتا ہے

وٹامن (بی 4)

اس وٹامن کی انذیریہ و علامات اور افعال و اثرات تقریباً (بی 2) اور (بی 3) کے مطابق ہیں

وٹامن (بی 5) اس کا کیمیا دی نام ”پینٹو تھینک ایسڈ“ ہے ”وٹامن بی“ کے دیگر اجزاء کی طرح یہ جز بھی مقوی اعصاب ہے اس میں سردی کی برداشت بڑھ جاتی ہے اور یہ بھی زیادہ گرمی اور ہوا میں ضائع ہو جاتا ہے یہ ”وٹامن 5“، دل کلیجی، مغز، گردے، اندنے، بکری کی ران کا گوشت، خمیر، گیہوں، کھنپ، موگ، پھلی، سویا بین، جوہرے پتوں والی سبزیاں اور سالم انانج وغیرہ میں پائے جاتے ہیں

جب سردی کے امراض پیدا ہوں جگر میں بے قاعدگی سے آنتوں اور جلد کی بیکاریاں پیدا ہو جائیں سردی کی زیادتی کی وجہ سے کھانی اور پاؤں کا جلا ظاہر ہو تو اس وٹامن سے فائدہ ہو جاتا ہے

وٹامن (بی 6)

یہ وٹامن بھی اپنے دیگر گروپ کی طرح مقوی اعصاب اور دافع امراض بارده ہے

ان وٹامن کا حصول بھی گوشت، کلنجی، ہری سبز یوں سے ہوتا ہے انماج خاص کر انماج کے چھلکوں میں اس کی کثرت ہوتی جب اعصاب و دماغ میں سوزش سے زبان و دہن اور ہونٹوں میں سوجن ہوئیا جلدی امراض میں اس کی خشکی و رنگت کی خرابی اور داغ و دھبے پیدا ہو جائیں خون خراب ہو کر دانت گر جائیں تو اس کا استعمال مفید ہے

وٹامن (بی 7)

اس کا کیمیادی نام ہائیوش ہے یہ بھی کمپلیکس کے گروپ کا جزو ہے اور اپنے مکمل گروپ سے افعال و اثرات کا تعلق رکھتا ہے یعنی اعصاب و دماغ اور امراض بادرہ سے متعلق ہے

وٹامن (بی 8)

مرغی کے گوشت، گائے کے گوشت اور دودھ، مچھلی، انڈے، پنیر، خمیر، شاربری، کشمش، نارنگی، گریپ فروٹ، گاجر، کیلا، سیب، گیہوں، بندگو بھی، پھول گوبھی،

مکنی، گرد، پیاز، مٹر، موگنگ، آلو، پالک، نماڑا اور شلغم میں پایا جاتا ہے جب دماغی اور اعصابی سوزش سے خرابی خون ہو جلد کی رنگت زرد ہو جائے اور خون کے ذرات کم ہو جائیں یا بھوک کی کمی اور متلی کا اثر ہو یا زبان میں لکنت ہو یا باردا مراض کے اثرات سے کمزوری معلوم ہو تو یہ وٹامن مفید ہے

وٹامن (ب) 9

اس کا کیمیادی نام فولک ایسٹ ہے روزانہ تقریباً نصف گرام سے دو ملی گرام تک درکار ہوتا ہے اتنی مقدار ہاضمہ اور تندری قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے اس سے خون کے ذرات اور ہڈیوں کے گودا کی پیدائش قائم رہتی ہے اس وٹامن کا حصول گوشت، کلنجی، گردے، دودھ، خمیر، پھل، سبزیاں، خاص طور پر ہرے پتوں والی سبزیاں وغیرہ، جب اعصاب کی خرابی سے منہ آجائے، زبان سوچ جائے، اسہال، بدن کی لاغری، ہاتھ پاؤں میں سویاں سی چھپتی ہوں یہ وٹامن مفید ہے

وٹامن (ب) 10

اس کا کیمیادی نام اینو شال ہے یہ بھی وٹامن بی کمپلیکس کے گردپ میں شامل ہے اس کا حصول بھی گوشت، کلنجی اور خمیر وغیرہ ان ہی اندیزی سے ہوتا

ہے جن سے اس کے بیگر گروپ کا ہوتا ہے یہ ان کی طرح اعصابی و دماغ کی خرابی کے سبب جب ہاضمہ خراب ہو، خصوصاً گنجائی پیدا ہو جائے تو یہ وٹامن مفید ہے

وٹامن (بی 1) اس کا کیمیاوی نام ”کولین“ ہے یہ بھی دماغ و اعصاب میں طاقت دے کر جسم میں چربی کی صحیح تقسیم کرتا ہے اس وٹامن کا حصول انڈے، مچھلی، لیکھی، گردے اور انانج و بزیاں جن میں گیہوں، بندگو بھی، گاجر، مشرپیاں، اجوائیں اور پالک۔ آج کل اس کا بہترین ذریعہ بکرے کا مخزہ ہے

جب جگر و گردوں کی خرابی سے خون کا دباؤ بڑھ جائے دل کمزور ہو جائے معدہ میں سوزش و درم پیدا ہو جائے یا قوت مدافعت جراشیم کم ہو جائے یعنی سفید ذرات خون جسم میں کم ہو جائیں یا بچوں میں نشووار مقاء میں خرابی واقع ہو جائے یا بیضہ تولید میں خرابی واقع ہو جائے یا زچہ کے دودھ میں کمی واقع ہو جائے تو یہ مفید ہے

وٹامن (بی 11)

اس کا کیمیاوی نام ”پیرا امینوبنزک ایسڈ“ ہے اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس میں دو وٹامن پائے جاتے ہیں اس کو بے حد مقوی دماغ اور اعصاب خیال کیا جاتا ہے جراشیم کو ہلاک کرنے کی غیر معمولی طاقت ہے اس کا حصول

بھی دودھ، انڈا، کلکھی، پنیر، انچ اور سبز یاں ہیں

جب دماغ و اعصاب کے کمزور ہونے سے سر کے بال سفید ہو جائیں جسم میں جراشیں امراض یہاں تک کہ دق ہو جائے سورج کی تپش سے جلد میں خرابی واقع ہو جائے اور دھوپ کی برداشت نہ رہے تو یہ وٹامن مفید ہے

وٹامن (بی 12)

اس وٹامن کی کیمیاوی ساخت میں ایک دھات ہوتی ہے جس کو بالٹ کہتے ہیں جو صرف حیوانی اغذیہ میں پائی جاتی ہے اس میں عجیب بات یہ ہے کہ اس کی تحقیق کرنی قسم کے جراشیم بھی کرتے ہیں گویا اس کا اہم ذریعہ جراشیمی عمل ہی ہے جگائی کرنے والے جانوروں کے معدے میں جہاں نہماً حفاظ رہتی ہے وہیں یہ جراشیم بھی پائے جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تجارتی سطح کے لیے وٹامن ”بی 12“ جراشیم ہی سے حاصل کئے جاتے ہیں ویسے ان کا حصول گوشت، کلکھی، گردہ، دودھ اور سوپا میں سے ہوتا ہے

جب دماغ و اعصاب میں خرابی ہو کر مولد خون اعضاء میں نقص واقع ہو جائے ہڈیوں کے گودوں میں خرابی پیدا ہو جائے جس کے معدہ اور آنتیں اپنے افعال پورے طور پر ادا نہ کریں تو یہ وٹامن مفید ہے

وٹامن ”سی“

اس کا کیمیاوی نام ”اسلور بک ایسڈ“ ہے پانی آسانی سے حل ہو جاتا ہے گرمی اور پانی میں رہنے سے ضائع ہو جاتا ہے اسے تابنے اور لوہے کے اثرات سے نقصان پہنچتا ہے اس کے استعمال سے جسم میں قوت و توانائی اور صحت ہوتی ہے دافع خارش کے نام سے مشہور ہے

وٹامن ”سی“، اکثر پھلوں اور بزریوں میں پائے جاتے ہیں ترش اشیاء میں آڑو، آلوچہ، امرود، آلو بخارا، آم، انار انجیر، چکوترا، ٹماٹر سرخ مرچ، بندگو بھی، آلو، شلغم سلاڈ، پھول گو بھی، پالک، سویا بین، اردوی، پیٹھا، دال ماش، بھنڈی، توری، مسور، موٹھ، موگ، باتحوں کا ساگ، لو بیا، ٹینڈے، چنے، چاول، چقندہ، حلوہ کدو، دال ارہز، چولاں کا ساگ، سویا، خرفہ کا ساگ، کچالو، کچناڑ، کدو، کریلا، مرڈ، مولی، میتھی، پھلوں اور بزریوں کے علاوہ کلیجی میں بھی پایا جاتا ہے جب خون میں تیزی پیدا ہو کر جسم پر خارش ہو مسوڑھوں سے خون بہنے لگے اور دانت اور ہڈیاں خراب ہونے لگیں جسم کمزور قوت مدافعت کم ہو جائے اور وہ وارس (غیر مری جراشیم) کا مقابلہ نہ کر سکے اور اکثر نزلہ، زکام اور انفلوونزا کے حملے ہوتے رہیں اور عورتوں میں حیض کی بے قاعدگی خاص طور پر حیض میں کثرت ہو اس وٹامن ”سی“ کا استعمال مفید ہے

وٹامن ”ڈی“

یہ وٹامن حیوانی رغمن اور چرنی میں حل ہوتا ہے اور پانی میں حل نہیں ہو سکتا
 اس خصوصیت یہ ہے کہ جسم میں داخل ہو کر یہ کیلیشیم اور فاسفوس کو جذب
 کر کے بڑیوں اور دانتوں کی تقویت کا سبب بنتا ہے
 جب جسم میں کیلیشیم اور فاسفوس کی کمی ہو جاتی ہے تو بڑیاں کمزور بھر بھری اور
 دانتوں میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں بچوں میں سوکھا پن ہو جائے، جنین کی
 نشوونما میں خرابی ہو، بچوں کی بڑیاں ٹیز ٹھیک ہو گئی ہیں الیسی صورت میں اگر
 وٹامن ”ڈی“ کا استعمال کیا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے

وٹامن ”ای“

اس کا کیمیاولی نام ”لوکوفیرول“ ہے یہ وٹامن چربی میں حل ہو جاتا ہے یہ
 قوت بالیدگی اور جنسی قوت میں تحریک کا باعث ہوتا ہے اور بانجھ پن دور ہوتا
 ہے اور اولاد پیدا کرنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے
 اس وٹامن کے حصول کا ذریعہ دودھ، لمحن، چھلنا، میل، خوبانی، چلغوزہ، تل،
 پستہ، اخروٹ، بادام، گندم، سلاڈ، آلو، بندگو بھنی، لو بیا، ساگ، چندر، سویا، گاجر،
 وغیرہ ہیں

چونکہ یہ وٹامن قلب و عضلات کے امراض میں مفید ہے اس لیے جب دل و عضلات کمزور ہوں اور جلد سکڑ جائے بانجھ پن اور مردوں میں قوت تولید کم ہو، جنسی قوت کمزور ہوا اور پیشتاب میں زیادتی ہو تو اس کا استعمال مفید ہے وٹامن ”کے“

یہ وٹامن بھی روغن اور چربی میں حل ہو جاتا ہے اور خون کی قوت انجماد کو قائم رکھتا ہے اس وٹامن کا حصول انڈے، ٹماٹر، گزر، سویا میں، پالک، سبز پتوں والی وغیرہ ہیں

جب انگلیوں میں سو جن ہو، جریان، خون، مسوڑوں سے خون آتا ہو، حیض کی بے قاعدگی، پھوڑے وغیرہ ہو تو یہ وٹامن مفید ہے

نوٹ - وٹامن کی تحقیق کے ابتدائی دور میں صرف دو تین وٹامن کا پتہ چلا تھا اس کے بیس چھوٹے وٹامن کا علم ہو گیا پھر ان کی تعداد چھتک پہنچ گئی جو اے، اے، سی، ڈی، ای اور کے وغیرہ ابجد کے ناموں سے مشہور ہیں مگر مگر بعض کتب میں تین عدد اور وٹامن کا بھی ذکر ہے جو وٹامن ”جی“، وٹامن ”پی“ اور وٹامن ”ایچ“ کے ناموں سے مشہور ہیں لیکن ان کی خصوصیات و حصول اور افعال و اثرات میں چھ وٹامن سے کچھ جدا صورتیں معلوم نہیں ہوتیں اور

زیادہ تر نذاد میں انہی کے استعمال پر تاکید کی جاتی ہے
ابتدائی تحقیقات میں ماہرین کسی مرض میں کسی ایک وٹامن کے استعمال کی
تاكید کرتے رہے مگر اب اس امر کی تحقیق ہو گئی ہے کہ کسی ایک وٹامن کے
استعمال کی کمی سے کوئی مرض نہیں ہوتا بلکہ پورے گروپ سے ہوتی ہے اس
 تمام وٹامن کا کھانا ضروری ہے

وٹامن کی ضرورت

انڈیہ میں ہر قسم کے وٹامن پائے جاتے ہیں پھر وٹامن کے استعمال کی جسم
میں کیا ضرورت ہے یہ بات درست ہے کہ اگر متوازن غذا کھائی جائے تو
جسم کو کسی وٹامن کی ضرورت نہیں رہتی لیکن جب غذا متوازن نہیں ہوگی تو
جسم میں وٹامن کی کمی پوری کرنے کے لیے وٹامن کا استعمال ان کی ضرورت
اور علامات کے مطابق استعمال کرنا ضروری ہے جیسے نذاد میں نمکیات اور پانی
کے اجزاء شریک ہوتے ہیں مگر جب ان کی کمی محسوس اور معلوم ہوتی ہے تو
ضرورت کے مطابق نمکیات اور پانی کا استعمال کرنا ہے

اسی ضرورت کے تحت انڈیہ سے وٹامن تیار کئے جاتے ہیں جن کی گولیاں
اور شربت بازار میں عام بکتے ہیں جب نذادی وٹامن کے استعمال سے خاطر
خواہ فوائد حاصل نہ ہوں تو ضرورت اور علامات کے مطابق وٹامن کی گولیاں

اور شربت استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن ہر شخص ضرورت اور علامات کو نہیں سمجھ سکتا
اس لیے ڈاکٹر کا مشورہ ضروری ہے ان وٹامن کو اضافی وٹامن کہتے ہیں

وٹامن کے استعمال میں غلط فہمی

وٹامن کے متعلق اکثر یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جو ہر انڈیہ اور جو ہر حیات ہیں اور
ان کے استعمال سے بے حد خون پیدا ہو جاتا ہے ہر قسم کی جسمانی کمزوری فورا
رفع ہو جاتی ہے اس کی ایک گولی کھانے سے سیروں دودھ کی طاقت پیدا ہو
جاتی ہے ایک ٹکلیہ کھانے سے سیروں گوشت کی طاقت آ جاتی ہے اس کے
شربت کا ایک گھونٹ پینے سے پاؤ بھر مکھن کا اثر رکھتا ایک انجکشن چلوں سے
بے نیاز کر دیتا ہے بلکہ ان کے استعمال سے غذا کی ضرورت پیدا نہیں ہوتی
وغیرہ وغیرہ اس قسم کے خیالات اکثر لوگوں میں پائے جاتے ہیں اور اپنی
کمزوری دور کرنے کے لیے اکثر وٹامن کی ٹکلیاں کھاتے تھربت پینتے اور
انجکشن لگواتے پھرتے ہیں ان میں کوئی بھی خیال صحیح نہیں اکثر لوگ غلطی کا
شکار ہیں

افہام و تفہیم

ہم نے ایلوپیتھی اور سائنس کے نظریہ غذا و متوازن غذا اور اجزاء غذا اور

وٹامن پر پورے طور پر روشنی ڈالی ہے اور کوشش کی ہے کہ متوازن غذا اور اس کا کوئی پہلو تشنہ کام نہ رہ جائے تاکہ ہم پورے طور پر تنقید و تبصرہ کر سکیں اور ثابت کر سکیں کہ یہ کہاں تک مفید ہے اور کس حد تک غیر سائنسی و نقصان دہ اور غلط ہے

ایلو پیتھی اور میڈ یکل سائنس کا عمل واستعمال تقریباً تمام دنیا پر ہے ہم کافی عرصہ سے ان کے نظریات، اصول اور علوم و فنون کو غلط ثابت کر رہے ہیں اس سلسلہ میں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے غذائی نظریات و اصول اور تحقیقات و تجربات کو غلط ثابت کریں۔

جاننا چاہئے کہ زمین سے تین قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں (1) میوه جات اور پھل (2) انانج (3) سبزیاں یہ میوه جات اور پھل تو بغیر آگ پر پکائے کھائے جاتے ہیں مگر انانج اور سبزیاں بغیر آگ پر پکائے نہیں کھائی جاتیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جس قدر حرارت اور قوت میوه جات اور پھلوں میں پائی جاتی ہے وہ انجوں اور سبزیوں میں نہیں پائی جاتی اور پھل ایسے ہیں جن کا معیار پروٹین کے قریب قریب ہے جیسے انگور و کھجور اور آم وغیرہ قرآن حکیم نے پھلوں کو انسانوں کی غذا لکھا ہے جنت میں یہی رزق ملے گا ان میں انگور، کھجور، انار، زیتون، انجیر اور انہی سے ملتے جلتے دیگر پھلوں کا

قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے ”ان کو میوه جات اور پھلوں سے رزق دیے جائیں گے وہ لوگ کہیں گے یہ وہ رزق ہے کہ اس سے قبل بھی ان سے ملتے جلتے دیے گئے ہیں، جہاں تک کہ وہ گوشت اور ثمرات کے مقابلے میں اپنی بیس ان حقائق سے ثابت ہے کہ پروٹین و اجزاء الحمیہ انسان کے لیے مکمل اور متوازن غذا ہے اس لیے انا جوں اور بزریوں کو غذا میں شامل کرنا بے معنی ہے شاید اسی لیے قرآن حکیم میں جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے وہ انا جوں اور بزریوں ہی کے اقسام سے معلوم ہوتا ہے ”اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے“ اگر ظلمت پر غور کیا جائے تو بہت سے اسرار و موز سامنے آ جاتے ہیں

جہاں تک انسانی محسوسات و مشاہدات کا تعلق ہے تم صورتیں اس کے سامنے ہو سکتی ہیں (اول) حالات کائنات جن میں آسمان و نجوم اشیاء و برق اور زندگی و توانائی (دوم) امور طبیہ جن میں (1) ارکان (2) مزاج (3) اخلاط (4) ارواح (5) قوی (6) اعضاء (7) افعال (سوم) ستہ ضروریہ جن میں (1) ہوا (2) ماکولات و مشروبات (3) حرکت و سکون جسمانی (4) حرکت و سکون نفسانی (5) نیند و بیداری (6) اختباں و استفراغ

غذائی علاج کے اصول

(1) علاج کے متعلق اہم بات یہ ہے کہ علاج غذا سے کیا جائے یا ادویہ یا کسی اور تدبیر کو مد نظر رکھا جائے اس وقت تک علاج ممکن نہیں ہے جب تک خون کے اجزاء و اخلاط کو مد نظر رکھ کر مکمل نہ کئے جائیں یا سانپش کے نظریہ کے مطابق جسم کے عناصر نہ صرف پورے ہوں گے کیونکہ یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ علاج صرف خون سے ہوتا ہے اور خون غذا سے بنتا ہے اور دوادیگرا شیا تو صرف خون میں کیفیات پیدا کر کے نکل جاتی ہیں

(2) خون پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خون میں جو خلط یا خصہ ہم ہو اس کو پورا کرنے کے لیے انہی اغذیہ کا استعمال کیا جائے جن میں وہ خلط اور عنصر پایا جائے اور صحت کے لیے بھی یہی طریقہ علاج لیکنی ہے بلکہ جوانی اور طاقت کے لیے بھی طریقہ کامیاب ہے

(3) خون پیدا کرنے کے لیے اغذیہ استعمال کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے پیٹ کا خمیر ختم کر لیا جائے کیونکہ خمیر کا خاصہ ہے کہ جب وہ کسی غذا سے ملتا ہے اس کو خمیر کر دیتا ہے اس طرح غذا بجا ہے خون بننے کے ضائع جاتی ہے

(4) خمیر ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بھوک پیدا کی جائے بلکہ شدید

- بھوک پیدا کر دی جائے کیونکہ شدید بھوک سے پتہ چلتا ہے کہ جسم کو طلب غذا کا احساس ہو رہا ہے اور شدید بھوک کی حالت میں یہ صورتیں پیدا ہوتی ہیں
- (1) معدہ غذا ہضم کرنے کے لیے نہ صرف خانی ہوتا ہے بلکہ آئندہ ہضم کے لیے تیار ہوتا ہے
- (2) شدید بھوک میں غدد جاذبہ جسم کی فضول رطوبات کو جذب اور صاف کر کے پھر خون میں شامل کر دیتی ہیں
- (3) شدید بھوک میں جگر صفراء اور حرارت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے خون گرم ہو کر تمام جسم گرم ہو جاتا ہے کھانے کی لذت کا احساس ہوتا ہے بس یہی خمیر کے ختم ہونے کی علامت ہے
- (4) شدید بھوک پیدا کرنے کے لیے مریض کوتا کید کریں غذا وقت پر اور شدید بھوک پر کھائے یعنی جب غذا کا مقررہ وقت ہو جائے تو اس وقت شدید بھوک کا ہونا ضروری ہے اگر بھوک نہ ہو تو آئندہ وقت پر چھوڑ دیں اگر تھوڑی بھوک ہو تو اس کو پھل، چائے، شہد کا شربت دے سکتے ہیں یہ اس کی تسلی کے لیے بہت کافی ہے
- (5) تند رست انسان میں کم از کم چھ گھنٹے وقت ہونا چاہئے لیکن مریض کے لیے وقت بڑھایا جاسکتا ہے اور شدید بھوک بہترین وقت ہے، لیکن اگر چھ

گھنٹے سے پہلے شدید بھوک لگے تو سمجھ لیں کہ مریض میں کمزوری کا احساس ہو رہا ہے ایسے مریض کی غذا مکھن اور گھنی کا اضافہ کریں اور غذا کے وقت زیادہ سے زیادہ غذاء دیں یاد رکھیں کہ معدہ میں غذا تین گھنٹے میں مکمل طور پر ہضم ہوتی ہے پھر چھوٹی آنتوں میں ہضم کے لیے چار گھنٹے لیتی ہے اس کے بعد بڑی آنتوں میں غذا ہضم ہونے کے لیے پورے پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں اس طرح تدرست انسان میں مکمل بارہ گھنٹے لگ جاتے ہیں مگر مریضوں میں زیادہ وقت خرچ ہو جاتا ہے بعض وقت مریضوں میں کئی کئی دنوں تک معدہ اور آنتوں میں متغصن اور خمیر بن کر پڑی رہتی ہے اس لیے تعفن اور خمیر کا ختم کرنا نہایت ضروری ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ روزہ کم از کم بارہ گھنٹے کا ہوتا ہے بعض وقت چودہ اور سولہ گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تاکہ جب تک غذا ہضم ہو کر خون میں نہ جائے روزہ نہیں کھولنا چاہئے یہی روزہ کی خوبی کا اسرار اور راز ہے اس لیے جب روزہ نہ ہو تو روزہ کے نصف وقت غذا لینی چاہئے جو کم از کم چھ سات گھنٹے بنتے ہیں جو غذا کے لیے ضروری وقفہ ہے

7- شدید بھوک پر جسم ہلاکا گرم ہو کر اس میں لذت و مسرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں نہ دل گھٹتا ہے اور نہ ہی بے چینی ہوتی ہے جب پیٹ بو جھل ہو اس میں ریاح اور رطوبت اور بے چینی ہو غذائیں کھانی چاہئے ایسے لوگوں کو

بھی۔ یہا ہے کہ پیٹ میں درد بورا ہے اور پیٹ پھولا ہوا ہے مگر وہ غذا کھا رہے ہیں ایسا سرنا دانتوں سے قبر بنانی ہے یاد کھیں جب تک تکلیف رفع نہ ہو غذا نہ دین البتہ اگر کمزوری کا شدید احساس ہو تو قہوہ، پھلوں کا جوس اور رقیق شور بادے سکتے ہیں ان کے علاوہ ضرورت کے مطابق سبزیوں کا شور بہ انڈوں کی سفیدی، یعنی شہد کا شربت، انڈوں کی سفیدی اور شہد، صرف باہم کھیلن پانی بھی دے سکتے ہیں قہوہ میں لیموں نچوڑ کر دینا بے حد مقوی ہے 8۔ غذا ہمیشہ تازہ ہونی چاہئے بلکہ اس میں اس کی تازگی کی خوبیوں ہونی چاہئے اس کو قرآن حکیم طیب غذا کہتے ہیں جس غذا میں بوکی مہک ہو ایسی غذا میں ہر زندگی میں چاہئیں کیونکہ یہ پیٹ میں جا کر فوراً خیر یا زہر میں تبدیل ہو کر باعث مرغش اور نقصان دہ ہوتی ہیں

9۔ غذا طیب (خوبیوار) ہونے کے ساتھ حلال بھی ہونی چاہئے یعنی جن انڈیا یا واسلام نے حلال لکھا ہے اور حرام غذا میں جن میں مردہ جانوروں، خون، سور کا گوشت مردہ جانور اور رشوت وغیرہ۔ یہ سب انڈیا یا خون میں فساد و تعفن اور خیر پیدا کر دیتے ہیں جن کا نتیجہ خوفناک امراض میں ظاہر ہوتا ہے

10۔ غذا میں شراب اور دیگر مشایات کا اثر نہیں ہونا چاہئے شراب غذا میں

بہت جلد خمیر پیدا کر دیتی ہے جس سے غذا میں تغفن پیدا ہو کر جسم میں فساد کا نقصان کا باعث ہوتا ہے دیگر مشیات قلب و عضلات کے افعال کو کمزور کر دیتا ہیں جس سے غذا کا ہضم خراب ہو جاتا ہے پھر رفتہ رفتہ جسم میں اس کا زہر پیدا ہوتا ہے جس سے ذہن بگڑ جاتا ہے

قلب و عضلات کے تحت ترتیب غذا

ماذن بالغہ اکی حقیقت و ماهیت پر ہم تفصیل سے لکھ چکے یہ اس میں ایقین کامیاب کے لئے تشریح و منافع الاغذیہ کے افعال و اثرات قلب و عضلات کی تفصیل وغیرہ اس انداز میں لکھ دی گئی ہے کہ عام پڑا لکھا تمجھدار شخص اس کو پورے طور پر سمجھ کر فائدہ حاصل کر سکتا ہے اب ہم ذیل میں قلب و عضلات کے تحت اغذیہ کو اس طرح ترتیب دے دیا ہے کہ ایک نگاہ سے فوراً مخصوص اغذیہ سامنے آ جائیں اور علاج میں آسانیاں پیدا ہو جائیں چونکہ خون غذا ہی بنتا ہے جیسی غذا کھائیں گے ویسا ہی خون بنے گا قلب و عضلات خون سے بنتے ہیں خون میں جس مزاج کا غلبہ ہو گا ویسی ہی قلب و عضلات کی حالت تبدیل ہوگی جیسا کہ اگر خون میں سودا زیادہ ہو گا تو قلب و عضلات میں سُلیریہ ہو گا اس سُلیریہ کا علاج حرارت پیدا کرنے والی غذاوں سے کریں گے کیونکہ قانون فطرت ہے کہ حرارت سے اشیا میں پھیلاو پیدا ہوتا ہے اس طرح

سَرِير نے والے عضو کی حالت نارمل ہو جائے گی یہی فطری علاج ہو گا اسی طرح جب قلب و عضلات میں پھیلاو ہو گا تو اسے اپنی اصل حالت میں لانے کے لئے سردی پیدا کرنے والی غذا میں استعمال کرنی ہو گی سردی کی ابتداء تری سے ہوتی ہے اس لئے تری پیدا کرنے والی غدا میں استعمال کی جائے گی اسی طرح اگر قلب و عضلات تری کی زیادتی کی وجہ سے پھول جائیں تو ان کو اپنی اصل حالت میں لانے کے لئے خون میں خشکی پیدا کرنے والی غذا نہیں استعمال کرنی ہوں گی یہی علاج قانون فطرت پر ہوا گا

قلب و عضلات کی حالتوں پر ظاہر ہونے والی تمام امراض و علامات کی تفصیل اسلامک طب حصہ اول درج کر دیا گیا ہے انہی کو مد نظر رکھ کر علاج

کیا جائے

نذاروں میں سب سے بہترین حیوانی غذا ہوتی ہے اس کے بعد پھل اور میود جات دوسرے نمبر پر انماج اور دالیں تیسرا نمبر پر سبز یا چوتھے نمبر پر

تیس

قلب و عضلات کے سکڑنے سے پیدا ہونے والی امراض

کا غذا می علاج

حیوانی غذا۔ بکری کا گوشت، دلیسی مرغی کا گوشت، انڈے، پرندوں کا گوشت جن میں تیتر بیز، مرغابی، لبڑی، تلیار، فاختہ، تالو، چڑا، شبد وغیرہ

میوه جات

چلغوزہ، ترکھجور، کاج، بادام، پستہ، کشمش، شیرین

پھل

انگور، آم، خوبابی، شہتوت، خربوزہ، پیپیتہ وغیرہ

انارج اور دالیں

گیہوں، موگ، سفید پنے

سبز بیان

میتھی کاساگ، ٹینڈے، اورک، پیاز، سبز مرچ، لہسن بطور سبزی

قلب و عضلات کے چھلنے سے پیدا ہونے والی امراض کا

غذائی علاج

حیوانی غذا

گائے کا دودھ، بکری کا دودھ، اونٹی کا دودھ، انڈے کی سفیدی، مغز بکرا و گائے
سری کا گوشت دودھ سے بنی ہوئی تمام مٹھائیاں وغیرہ

میوه جات

میوه جات میں صرف مغزیات (مغز چہار) کا شیرہ دیا جاسکتا ہے
پھل

انارشیرین، تربوز، ناشپاتی، کیلا، امرود، گرماء، سرد اوغیرہ

انانج و دالیں

چین، سس، ماش، سرماگودانہ

بندے یاں

مولن، کاجز، بد، توری، شلغم، اردوی، حلوا، کدو، چقندہ، کھیرا، ککڑی

قلب و عضلات کے پھولنے سے پیدا ہونے والی امراض

کاندہائی علاج

حیوانی نہدا

بھینس کا گوشت، مچھلی، ہرن کا گوشت، کبوتر کا گوشت، گائے کا گوشت، دہی

زیادہ ترش لسی ویسن کی کڑی

میوه جات

ناریل، موگ پھلی، اخروٹ، کھجور خشک، چھوہاڑہ، منقی، کھاجا، انجیر، کشمکش ترش
پھل

سیب، جامن، فالہ، پیچی، مالٹا، آڑو، رس بھری، انناس، بیڑا، آلوچا، سنگتہ،

اناج و دالیں

مکنی، جوار، باجرہ، لو بیا، مسوز، کالے پنے

سبزیاں

آلو، مرہ، گوبھی، بینگن، پالک، کریلے، ٹماٹر، کچناں، سرسوں کا ساگ، اچار اور
تمام ترش چیزیں

میرے ذہن جتنی عام غذا میں تھی ان کو درج کر دیا گیا ہے ان کے علاوہ اور
غذا میں جو مزاج کے لہذا سے جو آپس میں ملتی ہوں وہ ان غذاؤں میں شامل
ہو سکتی ہیں

علامج بالدوا

جاننا چاہیے کہ امراض میں علاج بالغذاء کے ساتھ ساتھ علاج بالدوائی بہت بڑی اہمیت ہے کیونکہ دوا کا اثر غذا سے کہیں تیز ہوتا ہے مگر علاج بالدوائی تفصیل لکھنے سے پہلے علم ادویہ کا جاننا انتہائی ضروری تاکہ ادویہ کے افعال و اثرات اور مزاج کا مکمل علم ہو جائے

علم ادویہ

علم العلاج اور فن معالجات میں علم الادویہ کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس علم کے بغیر علاج و معالجہ بے کار ہو کر رہ گیا ہے گویا یہ ایک بہت بڑا رکن ہے اگر اس عمارت کا یہ رکن نہ رہے تو یہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی حقیقت یہ ہے کہ علاج و معالجہ کی تاریخ اور ابتداء علم الادویہ ہی سے شروع ہوتی ہے جوں جوں تہذیب و تدن اور ثقافت میں نشووار ترقا ہوتا رہا علم الادویہ کے ساتھ ساتھ علم العلاج اور اس کی دیگر شاخیں علم و فن کی صورتیں اختیار کرتی گئی ہیں گویا علم الادویہ کی حیثیت علاج معالجہ میں ام العلوم طب کی ہے ان حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ علم العلاج اور فن معالجہ میں کمال حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ علم الادویہ کے کلیات و جزئیات اور اثرات و افعال پر مکمل دسترس حاصل کریں علم الادویہ جس کی تاریخ ہزاروں سالوں میں پھیلی ہوئی ہے اب اس میں اس قدر

و سعت ہو گئی ہے کہ سہولت تفہیم کے لیے کئی حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے
جن میں سے مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں

معرفت الادویہ:۔ جس میں ادویات کی پہچان، مقام پیدائش و دستیابی
اور موسم کا مطالعہ شامل ہے

حافظت الادویہ:۔ ادویہ کے موثر اجزاء کا حاصل کرنا، خشک کرنا، ان کو
محفوظ رکھنا، تازہ ادویہ کے رب اور غن وغیرہ تیار کرنا اور ادویہ کی تاثیر کی
مدت مقرر کرنا

کلیات الادویہ:۔ ادویات کے اثرات و افعال کے اصول اور قوانین
کلیہ کا تعین کرنا ان کی اصطلاحات کا واضح کرنا کلیات و اصطلاحات کے تحت
ادویات کی تقسیم کرنا

خواص و فوائد:۔ ادویات کے فعلی و کیمیائی اور بالخاصہ خواص و فوائد ادویہ
کے امزجہ کیفیات اور درجات امراض جن میں ادویات مفید ہیں

تعین ادویات:۔ ایسے اصول جن کے تحت ادویات کا اعضاء و امراض
اور علامات کے ساتھ تعین کرنا اور نسخہ نویسی

ادویہ سازی:- اس میں عرق و شربت، سفوف و جبوب، اطریفل و مجون،
لعوق، یاقوتی، جوارش و خمیر، اچار و چنپی، روغن عطر، جو ہر وست، کشته و سوختہ اور
تیز ابات دیگر کیمیائی اعمال وغیرہ
علم الادویہ میں صرف نہ صرف ان تمام شعبہ جات کو مد نظر رکھیں گے بلکہ ان
کے ساتھ طب قدیم کے الادویہ کو پورے طور پر ذہن نشین کرانے کے ساتھ
ساتھ ایلو پیٹھی کی غلطیاں، خرابیاں اور گمراہیاں بھی بیان کرتے جائیں گے
چونکہ اس تقسیم اور شعبہ جات میں اہم حصہ کلیات الادویہ کا ہے اس لیے اول
اس پر اپنی تحقیقات پیش کی جاتی ہے

کلیات الادویہ

علمی حقائق میں کلیات کو بے حد اہمیت حاصل ہے کیونکہ کے ان کے تحت
ایسے قوانین و قاعدے اور اصول ترتیب پا جاتے ہیں جن کا استخراج و استنباط
اور قیاس سے ہزاروں جزئیات نہ صرف ذہن نشین ہوتے ہیں بلکہ استعمال
ادویہ اور نسخہ نویسی میں بے حد آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کلیات ادویہ میں
سب سے اہم صورت ان کی تاثیرات و کیفیات اور امزجہ و درجات الادویہ کا
جاننا ہے ان کے تعین کے بعد ہی ادویات کے افعال و خواص پر یقین کیا

جاسکتا ہے جو لوگ علم کلیات الادویہ سے واقف نہیں ہوتے وہ کتب میں تاثیرات و افعال، خواص و فوائد اور کیفیات اور امزجہ کے متعلق معلومات کر سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں لیکن تعین ادویات اور نسخہ نویسی میں مکمل دسترس حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ اس علم سے جو تربیت "حکم اور حدث" کی پیدا ہوتی ہے وہ صرف جان لینے سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ علم و فن میں کلیات و جزئیات کے جاننے کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے

جاننا چاہئے کہ علم و فن طب کو حکمت اور اطبا کو حکماء کے نام صرف اس لیے دیئے جاتے ہیں کہ اس علم و فن میں غور و غوض اور سوچ و فکر بہت ہے اور جب تک اطبا میں غور و فکر کا مادہ پیدا نہ ہو وہ حکیم کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا حکیم کو قدم پر منٹ منٹ کے بعد غور و فکر کر کے کلیات سے جزئیات اور جزئیات سے کلیات قائم کرنے پڑتے ہیں اسی طرح ہر تصور کی تصدیق کرنی پڑتی ہے جو لوگ یہ خیال کریں کہ جو دو ایسا نسخہ یا مقدار و خوارک لکھ دیئے گئے ہیں ان کو بغیر غور و فکر کے استعمال کر لیا جائے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ مریض کے مزاج و عمر، ماہول و مقام، موسم، آب ہوا اور مرض کی شدت و خفت کے لحاظ دے دوا اور مقدار میں کمی بیشی اور طریق استعمال میں اختلاف کرنا لازمی ہے اسی طرح نسخہ نویسی اور تجویز ادویات کے وقت بھی ہزاروں ادویات میں سے کسی ایک

یا چند پر صحیح طور پر حکم لگانا ہی حکمت ہے علم کلیات الادویہ سے ہی حکم و حدث
اور کمال پیدا ہوتا ہے

ادویات کے افعال و اثرات

خالق زندگی اور کائنات نے اس دنیا میں اس قدر اشیا پیدا کی ہیں کہ ان کا شمار
بالکل ناممکن ہے ہم نے ان کو موالید ثلاثہ (جمادات، نباتات اور حیوانات)
کی قید میں بند کر دیا ہے لیکن پھر ان کی اس قدر اقسام ہیں کہ ان کا قلم بند کرنا
انہتائی مشکل ہے لیکن حکیم مطلق نے انسان کو ایسی قوت اور قدرت عطا فرمائی
ہے کہ وہ نہ صرف ان تمام کے خواص و فوائد معلوم کر لیتا ہے بلکہ ایسے اصول و
قوانين اور کلیات تیار کر لیے ہیں جن کی مدد سے موالید ثلاثہ کی بے شمار تقسیم
در تقسیم اقسام کو بھی جان لیتا ہے ان کے خواص و فوائد پر پورے طور پر حادی
ہو جاتا ہے

انسان کی زبردست قوتیں

انسان کے اندر قدرت نے جو غیر معمولی قوتیں رکھی ہیں جہاں تک میرا
مطالعہ اور معلومات ہیں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان قوتیں کے متعلق
ابھی تک انسان کو پورا علم نہیں ہے کہ یہ قوتیں کیا ہیں اور کیسے پیدا ہوتی ہیں

ان میں کون کون سے اعضا کام کرتے ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انسان کا تصور ان کے متعلق بہت حد تک غلط ہے جہاں تک ماڈرن سائنس کا تعلق ہے تو وہ ان کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہے

احساس و ادراک اور قیاس

انسان کی زبردست قوتوں میں سے احساس و ادراک اور قیاس تین خاص طور پر قابل ذکر ہیں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ احساس اور ادراک کو ایک ہی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے بلکہ بعض لوگ تو قیاس کو بھی انہی کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں بہت زیادہ فرق ہے بلکہ اس قدر فرق ہے جیسے زمین و آسمان میں فرق ہے گوایک دوسرے سے بالکل جدا معنی دیتے ہیں اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ زبان میں معنی تعین انسان کا ذاتی کیا ہوا ہے لیکن جو ماہر لسانیات ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ ہر معنی کے بیان اور تعین میں مناسبت اور سلسلہ کا تعلق ضرور ہوتا ہے اور جب کبھی اس سلسلہ کی کڑیاں ملائی جاتی ہیں تو حقیقت معلوم کر کے بے حد حیرت ہوتی ہے

یقین ہے کہ الفاظ کے بیہ پھیر (صرف) میں بڑی قوت ہے جو کسی لفظ کا مادہ نکال کر اسی کی کئی ممکن صورتیں بنائی جاتی ہیں تو یہ صورت اندرا ایک

جد اقوت رکھتی ہے الفاظ میں اس طرح کے ہیر پھیر تو تقریباً ہر بڑی زبان میں پائے جاتے ہیں لیکن عربی زبان میں یہ خزانہ بہت زیادہ ہے دل تو یہ چاہتا تھا کہ الفاظ کے ہیر پھیر اور طاقت پر کچھ روشنی ڈالی جاتی لیکن طوالت کے مذکور اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور ذیل میں احساس و ادراک اور قیاس کی قوتوں کو بیان کیا جاتا ہے

احساس و ادراک اور قیاس کا فرق

بادی انظر میں تینوں الفاظ کے معنی علم اور جاننا ہے لیکن حقیقت میں ان الفاظ سے حصول علم اور جاننے کے طریق میں اتنا فرق ہے کہ جب تک انسان ان کی حقیقت سے واقف نہ ہو ان سے صحیح طور پر استفادہ حاصل نہیں کر سکتا بلکہ ان کے غلط استعمال سے ان کے فوائد سے محروم رہتا ہے چونکہ اکثر لوگ ان کے صحیح معنوں سے واقف نہیں ہوتے اس لیے ان کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر لیتے ہیں خصوصاً احساس اور ادراک کے معنوں کا فرق بہت کم لوگ جانتے ہیں حقیقت یہ ہے ان الفاظ میں اس قدر علم و حکمت اور مذہب کے خزانے پوشیدہ ہیں جن کا مقابلہ بہت کم الفاظ سے کیا جاسکتا ہے ان کی حقیقت جاننے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کشف کے پردے اٹھادئے گئے ہیں اور نور کے دروازے کھول دئے گئے ہیں ان الفاظ کو سمجھ لینے کے

بعد نہ صرف معنی اور مضمون ہاتھ باندھے نظر آتے ہیں بلکہ یہ فوراً پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق کس قسم کے علم سے ہے یعنی انسان فوراً اندازہ لگا سکتا ہے کہ حاصل شدہ علم الہامی اور لافانی ہے یا تجرباتی و مشاہداتی ہے یا انسان نے اپنے اجتہاد و ثقافت سے ان کی حقیقت کو پالیا ہے اگر انسان انہی الفاظ کے اصول اور تعین پر غور و فکر کرے تو الفاظ کی حقیقت کی اچھی بھلی تاریخ بن سکتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان نبوت اور بشیریت کے علوم کا فرق کر سکتا ہے کیونکہ علم بشیریت تجربات و مشاہدات اور اجتہاد و ثقافت سے آگئے نہیں بڑھ سکتا لیکن علم نبوت الہامی ولدنی اور وجود انی ہوتا ہے احساس و ادراک اور قیاس کے متعلق یہ تعارف اس لیے کرایا ہے کہ انہی کی وساطت سے صرف علم الادویہ میں تحقیقات ہو سکتی ہے بلکہ زندگی و کائنات اور ما بعد الطیعت کی حقیقت سے بھی آگاہی حاصل ہو سکتی ہے اس کے ذریعے انسان نفیيات اور روحانیات کی منزلیں آسانی سے طے کر سکتا ہے لیکن اس امر کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ علم و حکمت صرف جاننے سے حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ فکر و عمل سے اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے کوئی انسان اس وقت تک صحیح معنوں میں عالم، فاضل اور حکیم و طبیب نہیں بن سکتا جب تک وہ یقین و فکر اور عمل کا جذبہ اور استعداد پیدا نہ کرے صرف علم بغیر عمل و فکر کے بے معنی ہے

اور جلد ضائع ہونے والا ہے یہی وجہ ہے کہ ہزاروں علماء و فضلاء اور حکماء اطباء میں حقیقت شناس صرف انگلیوں پر گنے جاتے ہیں سچ تو یہ کہ علم و فن اور حکمت کا حق بھی وہی ادا کرتے ہیں

علمی دنیا میں ایک نیاراز

علم و حکمت اور جانے پہچانے کے متعلق آج تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا تعلق دماغ اور اعصاب کے ساتھ ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ علم و حکمت اور جانے پہچانے میں جس قدر تعلق دماغ و اعصاب کا ہے اسی قدر تعلق دل کا بھی ہے کیونکہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ جانے کا تعلق اگر دماغ کے ساتھ ہے تو سمجھنے کا تعلق دل کے ساتھ ہے یہ سارے اسرار و رمز احساس و ادراک اور قیاس میں پہاڑ ہیں جن کا ہم تفصیل سے ذکر کریں گے تاکہ انسان حقیقت اشیاء سے پورے طور پر آگاہ ہو جائے جس سے وہ دنیا کے علم و حکمت اور مذہب کی خدمت کر کے اس میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے

احساس کی حقیقت

احساس سے ایسا علم حاصل ہوتا ہے جو ہمیں حواس خمسہ ظاہری سے پہنچتا ہے یعنی دیکھنا، سنتا، چکھنا، سوگھنا اور چھوپنا۔ جو حواس خمسہ ظاہری ہیں ان سے جو

معلومات اور علم حاصل ہوتا ہے وہ سب ہمارے احساسات ہیں ہمارے تجربات و مشاہدات اور کتب کے پڑھنے سے جو علوم ہوتے ہیں یہ سب احساس کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں اگرچہ ان میں ایسے علوم کی شمولیت بھی ہوتی ہے جو ہم ادراکات سے حاصل کر پکے ہیں لیکن فی الوقت تجربہ و مشاہدہ اور پڑھنا احساس میں شامل ہوتا ہے مثلاً قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وحی کے ذریعہ نازل ہوا ہے اور حدیث شریف کلام الہی کی حکمت کا اظہار اور الہام ہے لیکن ایسی کتب جن میں زندگی کے تجربات اور مشاہدات کا ذکر ہو آیات اور حدیث بھی لکھی ہوں تو ان کا پڑھنا بھی ہمارے احساس کے تحت ہو گا گویا ہماری تہذیب و تمدن، علم و حکمت اور تجربات و مشاہدات اور اخلاق و سیاست سب کچھ مذہبی رنگ میں رنگے گئے ہیں یہی ہماری ثقافت اور کلچر ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ وحی، الہام و جدان اور لدنی علوم بذات خود بھی احساس کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتے ان کو صرف ادراک ہی کہا جاسکتا ہے

ادراک کی حقیقت

ادراک سے ایسا علم حاصل ہوتا ہے جو حواس خمسہ باطنی سے حاصل ہوتا ہے اسے نطق اور نفس ناطقة بھی کہتے ہیں اسی کو مجازاً روح انسانی کہا جاتا ہے دراصل ترقی یافتہ صورت بھی نفس مطلق ہی انسان میں نفس ناطقة کہلاتی ہے

اور ادراک نفس ناطقہ کی دو قوتوں میں ایک قوت ہے دوسری قوت کو تحریک کہتے ہیں نفس ناطقہ ایک جو ہر بسیط ہے جس کی حکومت انسان کے تمام قویٰ اور اعضاٰ جسمانیہ پر ہے وہ مدرک عالم ہے اس لیے عرض نہیں ہے کیونکہ کسی عرض کا دوسرے عرض کے ساتھ قیام ایک ایسا امر ہے کہ عقل سلیم اسے ظاہر کرنے سے قادر ہے وہ مدرک کلیات ہے اس لیے اس کو جسم یا جسمانی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ کلی اگر کسی جسم میں قائم ہو تو پھر اس کی کلیت قائم نہیں رہتی اور وہ محدود ہو جاتا ہے

انسان کو ایک ایسی خاصیت حاصل ہے جو دیگر موجودات کو حاصل نہیں ہے اس کو نطق کہتے ہیں اس لیے وہ ناطق (بولنے والا) کہلاتا ہے ناطق سے مراد نطق بالفعل نہیں ہے کیونکہ جو آدمی گونگا ہو گا اس میں نطق بالفعل نہ ہو گا بلکہ نطق سے مراد ادراک علم و معقولات اور قوت تمیز ہے جس سے جسم انسان میں بالواسطہ قویٰ اور آلات تصرف اور تدبیر عمل میں آتی رہتی ہے لیکن ہم اس کو اپنے کسی احساس سے محسوس نہیں کر سکتے یہی نفس ناطقہ ہے جس سے انسان کو فضیلت اور شرف حاصل ہے اور اسی لیے اس کو اشرف الخلوقات کہتے ہیں یہی فضیلت اور شرف جب اپنے کمال پر ہوتا ہے تو مقام نبوت اور جب ختم نبوت ہوتی ہیں تو حسن و جمال اور حکمت و عقل اپنے انہما پر ہوتی ہے

یہی ادراک ہے جو ادنیٰ شخصیت سے لے کر ختم نبوت تک اپنے اپنے مقام پر نور و معرفت اور علم و حکمت کو سمجھنا ہے، علم و عقل دونوں مختلف چیزیں ہیں کسی شخص میں عقل زیادہ ہوتی ہے، کسی میں علم زیادہ ہوتا ہے ہر شخص میں دونوں کا توازن بالکل مشکل ہے صرف نبوت اور خصوصاً ختم نبوت میں علم و عقل کا نہ صرف کمال ہوتا ہے بلکہ انتہائی توازن بھی ہوتا ہے بس اس حقیقت کو لازم کر لیں کہ صرف تجربہ و مشاہدہ اور عقل کی علم و حکمت میں حیثیت نہیں ہے علم و حکمت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ادراک اور نبوت ہیں جن سے وجدان الہام وجہ اور علم لدنی حاصل ہوتا ہے

قياس کی حقیقت

قياس سے ایسا علم حاصل ہوتا ہے جو احساس و ادراک کی روشنی میں اندازہ لگایا جائے یا گمان کیا جائے یہ علم ایک قسم کی انکل اور اندازہ ہوتا ہے اس کی پوری پوری مطابقت حاصل نہیں ہوتی لیکن یہ بھی ایک اندازہ علم ہے جس سے ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابل کر کے اندازہ لگا کر ان میں برابری پیدا کی جاتی ہے دراصل فکر اسی علم سے پیدا ہوتا ہے اور عقل اسی سے جلاپاتی ہے اسی علم کی روشنی میں ہم حکم لگاتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں یہ ایک ایسا علم ہے جس کے لیے انبیاء نے اپنے لیے دعائیں کی رب جعلنی حکم و علم دراصل حکمت اور

عدالت کی بنیاد ہی اسی علم پر ہے چونکہ دونوں کا شرف و فضیلت مسلمہ ہے اس لیے علم قیاس کا اہمیت واضح ہے

اسلام میں قیاس کو بے حد اہمیت حاصل ہے مذہبی حدیث سے کسی مسئلہ کے بارہ میں جب کتاب و سنت اور اجماع امت میں کوئی فیصلہ نہ ملے تو فقہاء پنی عقل اور رائے کو کام میں لا کر بقید شرعاً مخصوص جو حل معلوم کریں اسے قیاس کہتے ہیں دنیاوی حکومتوں کے قوانین بھی اسی قیاس پر بنتے ہیں اور عدالتوں کے فیصلے بھی اسی پر ہوتے ہیں علم طب میں امراض کی تشخیص و تجویز اور ادویات کے افعال و اثرات اس کے مطابق متعین اور مقرر کئے جاتے ہیں فلسفہ کی یہ جان ہے منطق میں ہر تصور کی تصدیق اسی سے عمل میں آتی ہے گویا احساس و ادراک اگر منبع علم ہیں تو قیاس مخزن حکمت ہے

قیاس دراصل جستہ (دلیل) کی ایک قسم ہے علم منطق میں اقسام دراقسام تقسیم ہو جاتا ہے جن کا ذکر یہاں غیر ضروری ہے احساس و ادراک اور قیاس کی بالفعل تشریع درج ذیل ہے

احساس و ادراک اور قیاس کی بالفعل تشریع

روح انسانی

روح انسانی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم آنکھوں سے دیکھے اور ہاتھوں سے چھو سکیں، یا اس کو کسی دیگر حس سے معلوم کر سکیں بلکہ جس طرح آفتاب و مہتاب کو ان کی روشنی سے پہچانا جاتا ہے یاد ہوئیں کو دیکھ کر جان لیا جاتا ہے کہ وہاں آگ روشن ہے یا پرندوں کو اڑتے دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس جگہ پانی ضرور ہو گا اسی طرح روح کا علم بھی اس کے مظاہر اور آثار کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے

جب انسانی روح اور اک اور نطق سے کام لیتی ہے تو اس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں اور جب تزکیہ و اصلاح نفس جسم کی طرف راغب ہوتی ہے تو اس کو قوت مدد برہ کہتے ہیں اور اپنے کمال و ارتقا کی طرف رجوع کرتی ہے تو اس کو جو ہر مجرد کہتے ہیں جس کا تعلق روح کل سے ہوتا ہے جس کو فلاسفہ عقل فعال بھی کہتے ہیں جب کمال ارتقا حاصل ہوتا ہے تو یہ مقام خلافت الہیہ کا ہے جہاں انسان کا مرتبہ ملائکہ سے بھی افضل ہوتا ہے یہ مقام احسن التقویم ہے اور اس طرف توجہ نہیں ہے تو پھر مقام الفعل السالقین ہے یہی روح امر ربی ہے جس کا ذکر ہم نے اسلامک طب حصہ اول میں کیا ہے اسی کو مذہبی روح کہتے ہیں

روح طبی

علم و فن طب میں روح سے بحث کی جاتی ہے اس کو طبی روح کہتے ہیں طب

میں روح ان لطیف بخارات کو کہتے ہیں جو اخلاط کے لطیف حصہ سے پیدا ہوں، جیسے اعضا اخلاط کے کثیف حصہ سے بنتے ہیں طب روح کا علم بھی اس کے مظاہر اور آثار کی ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے یہ اظہار انسانی نفس اپنے جذبات کے ذریعہ کرتا ہے جس کے ذرائع قوی انسانی ہیں جو تین ہیں اس لیے روح طبعی جب اپنے افعال انجام دیتی ہے تو اس کی تین صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں انسانی نفس کے جذبات کا اظہار روح طبعی کے حرکت کی دلیل ہے

ایلوپیٹھی روح کے علم سے بے خبر ہے

ایلوپیٹھی اور سائنس میں کسی قسم کی روح کا تصور نہیں ہے ان کے ہاں روح کے لیے دولفاظ اول سول (Soul) جو جوہر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے دوسرے سپرٹ (Spirit) جو سوت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے ان دونوں سے مذہبی روح یا طبعی روح کسی کا اظہار نہیں ہوتا نطق و ادراک اور جو ہر مجدد کے مظاہر اور آثار تو کہیں دور دور بھی معلوم نہیں ہوتے البتہ واٹل فورس ایک ایسا تصور ہے قوت مدبرہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جہاں تک روح طبعی اور اس کی اقسام کا تعلق ہے اس کی قائل نہیں ہے اور نہ ہی اس امر کی قائل ہے کہ یہ ارواح جسم انسان میں کچھ افعال انجام دیتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس انکار کے بر عکس وہ گیسز (لطیف بخارات) کے

قالل ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ لطیف بخارات خون میں بھی پائے جاتے ہیں جو وہاں ہر اہم مقاصد انجام دیتے ہیں ان امور سے ثابت ہوتا ہے کہ تصور طب قدیم سے ان تک پہنچا ہے ان کا ظہار مختلف قوئی کی صورتوں میں کیا جاتا ہے جن کے بال مقابل نام یہ ہیں

1- قوت طبعی، جو قوت جسم میں غذا اور نشونما کا کام انجام دیتی ہے اس کو نیچرل فورس کہتے ہے اس کا مقام جگر ہے

2- قوت نفسی جو قوت جسم میں احساسات اور تحریکات کا باعث ہوتی ہے اس کو مینٹل فورس کہتے ہیں

3- قوت حیوانی وہ ہے جو جسم میں حرکات و افعال قائم رکھتی ہے اسے اینمل فورس کہتے ہیں

البته یہ جان لینا ضروری ہے کہ دراصل یہ تینوں قوتیں ایک ہی قوت کے تین مظہر ہیں لیکن مقام اور افعال کی مناسبت سے ان کی تقسیم کر دی گئی ہے کیونکہ قدرت نے ہر عضو کے افعال میں اس کی ایک جملت پیدا کر دی ہے جس پر وہ قائم اور رووال ہے

نفس انسانی

نفس ایک ایسی قوت ہے جو روح اور جسم کے تعلق کو قائم رکھتی ہے جس کا

حاصل خون ہے نفس کی تیزی اور سستی سے جذبات میں جو افراط و تفریط پیدا ہوتی ہے یہ اثرات خون میں نہیں ہیں یہ اثرات قلب و عضلات کے افعال ہیں جن میں قوت نفس خون کی وساطت سے تحریک پیدا کرتی ہے نفس کے احساس سے عضو قلب میں تحریک پیدا ہوتی ہے تو قوت مدبرہ وہاں پر خون کو زیادہ یا کم کر دیتی ہے جس سے وہاں کے اعضا کے افعال پر اثر پڑتا ہے پھر ان کے افعال کی کمی یا بیشی کے ساتھ جذبات میں تیزی یا سستی واقع ہو جاتی ہے جاننا چاہئے کہ نفس جب کسی مناسب یا مخالف شے کا ادراک اور احساس کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ مناسب کو حاصل کرنا اور مخالف سے بچنا چاہتا ہے تو اس وقت اپنی نفسانی قوتوں کو حرکت میں لاتا ہے اور یہ مسلمہ امر ہے کہ نفسانی قوتیں ارواح کے تابع ہیں جن کا حامل خون ہے گویا ارواح خون کی حرکت کے بغیر اور خون نفسانی قوتوں کے بغیر عمل نہیں کر سکتا اسی عمل کا نام نفسانی حرکت سکون ہے

یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ نفس کا حرکت سکون تسلیم کیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نفس میں حرکت و سکون کبھی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ نفس اپنا مقام نہیں بدلتا ایسا مجاز اکھا جاتا ہے جذبات کا اظہار تو قلب کے افعال میں افراط و تفریط سے ہوتا ہے اور نفس کے افعالات اور تاثرات خون اور روح

میں ضرور حرکت پیدا کر دیتے ہیں بالفاظ دیگر یہ افعالات اور تاثرات دراصل باعث حرکت ہیں حرکت و سکون نفسانی بدن کے لیے ویسا ہی ضروری ہے جیسا کہ حرکت و سکون بدنبال کیونکہ بدنبال حرکت و سکون کا دار و مدار خواہشات اور جذبات نفسانیہ پر ہے مثلاً شوق کے وقت طلب کی حرکت اور نفرت کے وقت فرار کی صورت غصے کے وقت مقابلے کی حالت اور اسی طرح خوف کے وقت چہرے کا سفید ہو جانا اور جوش کے وقت چہرے کا سرخ ہو جانا یہ کچھ خون اور روح کے زیریاث ہے اس کے عکس نفسیاتی سکون کے ضرورت اس لیے ہے کہ روح اور خون کو نسبتاً آرام حاصل ہوتا کہ وہ زیادہ تخلیل نہ ہو

نفس کے مظاہر اور تاثرات کا اندازہ خواہش و جذبہ سے کیا جاسکتا ہے جو عضو میں تحریک کی شدت سے پیدا ہوتا ہے ان کا روکنا ان اعضاء میں سکون کا نام نہیں ہے بلکہ ان تحریکات کو سکون کے عضو میں منتقل کرنا ہے یہ سب کچھ ارواح کے قوی میں تحریک دینے سے عمل میں منتقل کرنا ہے یہ سب کچھ ارواح کے قوی میں تحریک دینے سے عمل میں آتا ہے

قوی کی تعریف

قوی نفس ناطقہ کی ان تحریکات کو کہتے ہیں جن سے طبی روح کے افعال صادر

ہوں ان کی تین اقسام ہیں (1) قوت طبعی (2) قوت نفسانی۔ (3) قوت حیوانی ان سب کی تعریفیں گزر چکی ہیں چونکہ ہم نے احساس و ادراک اور قیاس کی تشریح بالفعل بیان کرنی ہے اس لیے ہم یہاں صرف قوت نفسانی کی تشریح اور افعال بیان کریں گے قوت طبعی اور قوت حیوانی کی تشریح اور افعال اس مقام پر بیان کریں گے جہاں پر اس کی ضرورت لازم ہو گی تاکہ سمجھنے میں ہولت رہے

قوت نفسانی

قوت نفسانی ایک ایسی قوت ہے جو جسم انسان میں احساس، ادراک اور قیاس سے علم و معلومات حاصل کرتی ہے اور ضرورت کے وقت حرکت کے لیے تحریک کرتی ہے اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ حیوان اور انسان مضر چیزوں سے فرار حاصل کر سکے اور نفع بخش چیزوں کے قریب آسکے یہ ظاہر ہے کہ ان تحریکات کے لیے مفید و مضر باتوں کا احساس و ادراک اور قیاس ضروری ہے اس لیے اس کی اقسام بھی دو ہیں اول قوت مدرکہ (ادراک کرنے والی قوت) دوم محرکہ (تحریک دینے والی قوت) پھر قوت مدرکہ کی دو فرمیں ہیں اول مدرکہ ظاہر دوم مدرکہ باطنی

اقسام مدرکہ ظاہری

قوت مدرکہ ظاہری پانچ ہیں ان کو حواس خمسہ ظاہری بھی کہتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ باہر کی معلومات دماغ کے اندر ونی قوتوں تک پہنچاتے ہیں یہ حواس ظاہری حسب ذیل ہیں (1) قوت باصرہ (دیکھنے کی طاقت) (2) قوت سامعہ (سننے کی قوت) (3) قوت شامہ (سونگھنے کی قوت) (4) قوت ذاتیہ (چکھنے کی قوت) (5) قوت لاسہ (چھونے کی قوت)

اقسام مدرکہ باطنی

قوت مدرکہ باطنی جو پانچ ہیں جن کو حواس خمسہ باطنی بھی کہتے ہیں ایسی قوت ہے جو ایسے تاثرات کا ادراک کرتی ہے جن کو حواس خمسہ ظاہر محسوس نہیں کر سکتے البتہ وہ حواس خمسہ ظاہر احساسات کو محفوظ رکھتی ہے تاکہ بوقت ضرورت ان کو ذہن کے سامنے پیش کر سکے یہ حواس خمسہ باطنی حسب ذیل ہیں

1- حس مشترک

وہ قوت باطنی ہے حواس خمسہ ظاہری کی احساس کی ہوئی چیزوں کو ضرورت کے وقت دوبارہ بغیر ان کی موجودگی کے محسوس کرتی ہے اور تصور کرتی ہے اس کا مقام مقام دماغ کا پہلا (اگلا) حصہ ہے

2- قوت خیال

وہ قوت ہے جو حس مشترک کے خزانے کا کام کرتی ہے یعنی اس کے تمام احساسات خزانہ خیال میں محفوظ رہتے ہیں

3- قوت متصرفہ

حس کو متحیله اور مفکر بھی کہتے ہیں ایسی قوت ہے اگر وہ حس مشترک کا احساسات کا اظہار کرے تو اس کو متحیله کہتے ہیں اور اگر قوت واہمہ کے ادراکات کا اظہار کرے تو اس کو قوت مفکرہ کہتے ہیں اس کا مقام دماغ کا درمیانی حصہ ہے

4- قوت واہمہ

وہ قوت ہے جو ان معانی کا ادراک کرتی ہے جن کو حواس خمسہ ظاہر ادراک نہیں کر سکتے مثلاً کسی لفظ کے معنی کا جانا جیسے اللہ تعالیٰ کے معنی خداۓ بزرگ، بترا یا کسی شخص کے متعلق یہ گمان کہ فلاں دوست ہے یادشمن اس مقام موخر دماغ کا قدم حصہ ہے

5- قوت حافظہ

وہ قوت ہے جو وہم کے ادراکات کرتی ہے اس کا نظام موخر دماغ کا موخر حصہ

ہے

احساسات کی بالفعل تشرع

جو کہ ہمارے احساسات و حواس خمسہ ظاہری محسوس کرتے ہیں وہ خزانہ خیال میں محفوظ رہتے ہیں اور ضرورت کے وقت حس مشترک ذہن کے سامنے پیش کرتی رہتی ہیں لیکن خزانہ خیال میں صرف ہمارے مشاہدات ہی نہیں رہتے بلکہ ہمارے تجربات تصدیقات اور قیاسات بھی محفوظ رہتے ہیں

تجربات

جاننا چاہئے کہ مشاہدات تو ہماری مفرد معلومات ہیں یعنی ہر مشاہدہ کسی نہ کسی حواس ظاہری سے دماغ میں پہنچتا ہے بعض بیک وقت ایک شے سے کئی مشاہدات بھی ذہن میں پہنچ جاتے ہیں جیسے گلاب کے پھول کی خوشنما نگت، خوبصورتوں کی رگڑ کی خاص آواز، اس کی نرمی اور ذات، مگر یہ سب مفرد معلومات ہیں لیکن جب ہم مختلف اقسام کے رنگوں اور خوشنایوں اور خوبصورتیوں کا امتزاج کرتے ہیں اسی طرح مختلف ذاتوں، خوبصوروں اور نرمی و سختی کو ترتیب دیتے ہیں یا ان سب کے اثرات انسانی جسم یا حیوانات و

نباتات اور جمادات پر دیکھتے ہیں تو وہ مرکب معلومات ہیں جن کو ہم تجربات کہتے ہیں گویا تجربات ہمارے ایک ہی قسم یا مختلف اقسام کی حسی معلومات ہیں جو ترکیب و ترتیب اور عمل میں لانے سے نتائج پیدا ہوتے ہیں اسی طرح تجربات در تجربات سے معلومات حاصل ہوتی ہیں یعنی ہمارے ایک تجربہ سے ایک خاص قسم کے نتائج حاصل ہوئے یہی سلسلہ تجربات در تجربات زندگی میں جاری رہتا ہے اور علم و حکمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے جس قسم کی انسانی معلومات ہوتی ہیں ویسے ہی نتائج اخذ ہوتے ہیں بعض دفعہ ان تجربات میں ہمارے ملی و قومی اور روایتی اثرات بھی شریک ہو جاتے ہیں ایسے تجربات ہماری تہذیب و تدبر کہلاتے ہیں اور جب ہمارے تجربات میں مذہبی، اخلاقی اور ملی اثرات شامل ہوتے ہیں تو ان تجربات کو ہم شفاقت، کلچر کہتے ہیں

علم طب میں تجربات کا تعلق اشیا اور بدن انسان سے ہے اس لیے ہمارے تجربات ادویات کو بدن انسان کے اندر یا باہر ادویات استعمال کر کے ان نتائج حاصل کرنا ہے بعض وقت اشیا کی تیزی اور زبردیلے پن کی وجہ سے ہم ان کے اول تجربات حیوانات پر بھی کر لیتے ہیں خاص طور پر ایسے حیوانات جن کے مزاج انسانی مزاج سے زیادہ قریب ہیں لیکن مقصد انسانی جسم کے

لیے نتائج حاصل کرنا ہے بعض دفعہ اشیا کو اشیا میں شامل کر کے بھی تجربات حاصل کرتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے اس شے کی کیفیاتی و نفیاتی اثرات اور مزاج اور افعال الاعضا کے فوائد و خواص حاصل کئے جائیں ان تجربات اشیا کی صورت نوعیہ کو خاص طور پر ملاحظہ کر کھا جاتا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں اس دو کے بالغ اثرات و افعال کا علم ہوتا ہے

شرائط تجربہ

تجربات کے لیے تین اصولوں کا ملاحظہ کھان ضروری ہے

- 1- تجربہ کرنے والے علم و فن طب کو جاننے کے ساتھ ساتھ جسم انسان کی تشريح اور منافع الاعضا کو جاننے والا ہو علم کیمیائی اور طبیعت سے واقف ہوتا کہ تجربات کے نتائج کو سمجھ سکے
- 2- تجربات جسم انسان پر کئے جائیں یا ایسے جانوروں پر کئے جائیں جن کا مزاج جسم انسان کے قریب تر ہو
- 3- تجربات، مشاہدات اور معلومات میں اعضاء کے افعال کے ساتھ ساتھ خون کے کیمیائی تغیرات کو بھی حاصل کرنا چاہئے

حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اشیا پر تجربات کرنا چاہیں اور وہ اگر معانج نہ ہوں یا جسم انسان کی ماہیت اور منافع الاعضا سے بے خبر ہوں اسی طرح وہ علم کیمیا

اور طبیعت سے واقف نہ ہوں تو ایسے لوگوں کے تجربات اپنے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتے کیونکہ تجربات کی صورت میں ایک معانلح کے ذہن میں ہی تجزیات کے لیے تصورات پیدا ہو سکتے ہیں جن کی تصدیقات کے لیے وہ علم تشریح الابدان اور علم منافع الاعضا کو قیاسی طور پر سامنے رکھتا ہے پھر علم کیمیا اور طبیعت کے دلائل کے ساتھ تصدیقات حاصل کرتا ہے کبھی جزئیات نکالتا ہے، کبھی کلیات بناتا ہے، کبھی استنباط کرتا ہے اور کبھی استخراج کرتا ہے لیکن اگر اس کے اندر یہ خوبیاں نہ ہوں گی تو اس کے تجربات کو سمجھنا اور حکم لگانا بے معنی ہوگا

چونکہ ادویات و اغذیہ اور دیگر اقسام کی ادویات کا تعلق جسم انسان کے ساتھ ہوتا ہے یا اسی کے لیے تجربات مخصوص ہوتے ہیں اس لیے تجربات بدن انسان پر ہی کرنے چاہیں تاکہ مطابق اثرات و افعال کا علم حاصل ہو اگر ادویات زہریلی یا خطرناک ہوں یا ان کا ذائقہ و بودیگر محسوسات تکلیف دہ اور قابل نفرت ہوں تو تجربات انسان کی بجائے حیوانات پر کرنے چاہیں لیکن تجربات کے لیے ایسے حیوانات منتخب کئے جائیں جن کا مزاج انسانی مزاج کے قریب ہو یعنی انسانی مزاج اعتدال کے قریب ہے اور باقی مخلوقات کا مزاج انسان کے مقابلہ میں اعتدال سے بعید ہے انسان سے

قریب مزاج بند رین مانس اور لنگور کا ہے لیکن اگر ان کے علاوہ کسی دیگر حیوان پر تجربات مطلوب ہوں تو اول ان کے مزاج کا تعین کر لینا چاہئے تاکہ کیفیات اور اخلاق اٹکی کی بیشی کا صحیح اندازہ ہو سکے انسان یا جن حیوانات پر تجربے کئے جائیں وہ صحت مند ہوں ان کی عمر ویں کو مدنظر کھیس کیونکہ بچپن میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے جوانی میں حرارت بکثرت پائی جاتی ہے اور بڑھاپے میں دونوں چیزوں کا فقدان ہوتا ہے ان کی غذا اور ماحول کا مناسب ہونا بھی انتہائی لازم ہے کیونکہ جہاں بھی کیفیات اور مزاج میں مخالفت پیدا ہوگی، تجربات میں فرق پیدا ہو جائے گا

تجربات کے آسان طریقے

انسان پر تجربات کرنا تو حکومت کے لیے بھی مشکل ہے کیونکہ تجربات کے لیے قیمتاً انسان حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے پھر ایک ایک تجربہ کے لیے کئی کئی انسانوں کی ضرورت ہے جب تک انسان میں فن پر قریبان ہونے کا جذبہ پیدا نہ ہوا یہے تجربات انتہائی مشکل ہیں حیوانوں پر تجربات کرنے کے لیے حکومت کی امداد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ابتداء ایک آسان طریقہ ایسا ہے جس سے سہولت کے بغیر قسمی تجربات ہو سکتے ہیں لیکن یہ تجربات عام معانع نہیں کر سکتے بلکہ فاضل معانع ہی کر سکتے ہیں کیونکہ وہی اس کے اہل ہیں

تجربات کا بافعال عمل

جس دوا کا تجربہ کرنا مطلوب ہو اس کا مفرد ہونا ضروری ہے بلکہ مفرد دوا جن عناصر یا اجزاء سے مرکب ہوان کا جانا بھی ضروری ہے اگر کوئی دو امر کب ہوتا تو لازم ہے کہ اس مرکب میں جو مفرد ادویات ہیں ان کے وہ پورے طور پر تجربہ شدہ ہوں یعنی ان کے افعال و اثرات اور خواص و فوائد کا پورا پورا علم ہو تاکہ مرکب دوا کے تجربات میں راہنمائی کریں ان کو ذیل کے اصولوں پر تجربات کریں

1- تجربے کے لیے مطلوبہ مفرد دوا کے افعال و اثرات اور خواص و فوائد کو دو تین مستند طبی کتب سے مطالعہ کر کے ان کے مزاج و کیفیات اور اخلاط کو سمجھنے کے بعد ان کو بالاعضا تعین کرنا چاہئے

2- اپنے تعین کرنے کے بعد افعال و اثرات اور خواص و فوائد کو آپرویدک ایلوچنی اور ہومیوچنی کے ساتھ تلقیق دینے کی کوشش کریں جہاں جہاں اختلاف پائیں ان کو نوٹ کریں اور اختلاف کی وجہ معلوم کریں

3- یہ معلوم کریں کہ طب پونانی کے علاوہ دیگر طریق علاج میں یہ دوا کن کن امراض و علامات میں استعمال کی گئی ہے؟ اور کتنی کتنی مقدار میں دی گئی ہے؟ اور جن امراض و علامات میں دی گئی ہے ان کا تعلق اس عضو یا ان اعضاء کے

ساتھ جن کے لیے ہم نے تعین کیا ہے اور مختلف مقداروں میں یا لم ازکم اور زیادہ سے زیادہ مقداروں میں استعمال کرنے سے کیا کہا فرق بیان کئے گئے ہیں؟

مثلاً ہم نے ایک دوا کی کیفیات و مزاج اور اخلاق اٹ کا تعین کرنے کے بعد اس کے اثرات دماغ و اعصاب پر تعین کئے ہیں یعنی اس سے اعصاب کے فعل میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے مختلف مقداروں میں ان کے افعال و اثرات میں کمی و بیشی پیدا ہو جاتی ہے ساتھ ہی اس امر پر غور کریں کہ دماغ و اعصاب کے بعد اس کا اثر طحال پر پڑتا ہے یا جگر پر اور وہ اثر کس قسم کا ہے؟ نظر یہ مفرد اعضاء کے تحت اس طرح غور کریں کہ اگر کوئی دو محرك اعصاب ہے تو وہ ادویات تر ہیں وہ یقیناً محلل جگر اور مسکن طحال ہوں گی

4- اس تعین کے بعد اس دوا کا سفوف تیار کر لیں اگر تلخ ہو تو گولیاں تیار کر لیں اور قابل حل ہے تو اس کا محلول بھی تیار کر لیں پھر اس کا استعمال اس انداز میں کریں کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے کسی نہ کسی عضور میں کی طرف دوران خون تیز نہ ہو اس لیے پہلے دوا کو قلیل مقدار میں اسی تحریک کے لیے دیں جو اس میں پائی جاتی ہیں مثلاً دوا میں اعصابی تحریکات پائی جاتی ہیں تو اسی قسم کے تند رست انسان میں دیں پھر اس حد تک بڑھا کر دیں کہ اس

کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو جب یقین ہو جائے کہ واقعی اس سے تندرست انسان کے عصبی افعال میں تیزی پیدا کرائیں کہ اس کی تکلیف میں اضافہ نہ ہواں کے مرض اور علامت میں بھی حسب مثلاً اضافہ ہونے پر یقین ہو جائے گا کہ واقعی دوا کے افعال اثرات صحیح ہیں بعض دفعہ قلیل مقدار میں دوادیں سے طبیعت مدبرہ بدن مرض کو رفع کر دیتی ہے ایسے میں آرام آجائے پر پھر زیادہ سے زیادہ مقدار دوادے کر اثرات اور افعال کو مرتب کر لیں

حرک اعصاب دوا اس قسم کے مریض کے تحریک پر استعمال کرانے کے بعد پھر ایسے ہی تندرست اور مریض انسان پر استعمال کرائیں جس کے اعصاب میں تسلیم سادہ ہو پھر ایسے مریض پر جس کے اعصاب میں تسلیم متعفنہ ہو افعال و اثرات و نوٹ کر لیں مقدار خوراک کا فرق بھی دیکھ لیں لیکن اس طرح مریض کا مرض رفع ہو جاتا ہے ایسی صورت میں دوا جاری رکھیں اور مقدار زیادہ سے زیادہ بڑھادیں لیکن اس حد تک کہ قابل برداشت ہو پھر دوا کے افعال و اثرات کا مطالعہ کریں کہ واقعی اس میں اعصابی تحریک کی صورت پیدا ہو گئی ہے اس طرح دوا کے صحیح افعال و اثرات مرتب ہو جائیں گے مریض کا شفا یاب ہونا سب سے بڑا ثبوت ہے

ان تجربات میں بیک وقت ایک یادو انسان نہیں ہونے چاہئیں بلکہ کوشش

کرنی چاہئے کہ متعدد انسان زیر تجربہ ہوں تاکہ ان افعال و اثرات کے ساتھ ساتھ خواص و فوائد بھی مرتب کر سکیں مثلاً اس اعصابی دوا کا سرے سے لے کر پاؤں تک کے اعصاب میں کن کن پر زیادہ اور شدید اثر پڑتا ہے اور کہ پر کن اثر پایا جاتا ہے یہی اس کی بالغ امراض صورت ہوگی اور اسی حصہ جسم کے اعصاب کے لیے وہ دوام خصوص کر دی جائے گی اگرچہ ضرورت کے وقت ہم اس سے دیگر اعضاء کے اعصاب میں تیزی پیدا کر سکتے ہیں مگر وہ خاص عضو زیادہ متاثر ہوگا ایسے تجربات بے حد احتیاط سے کئے جاتے ہیں

اسی طرح دوا کے افعال و اثرات بیرونی طور پر بھی حاصل کرنے چاہئیں مثلاً تند رست مقام پر دوامیں یا اس کا خیساندہ اور جوشاندہ ڈالیں۔ تیل ملا کر مالش کریں اسی طرح مریض مقام مثلاً درد، درد، درد، درد اور سوزش و زخم پر اس کے اثرات و افعال حاصل کریں جو دوا آنکھ، کان اور ناک کے لیے بھی اثرات رکھتی ہو تو وہاں پر بھی استعمال کریں اور نتائج کو نوٹ کرتے جائیں اس طرح کے تجربات جن ادویات پر کئے جاتے ہیں تو اس سے یقینی بے خطاء خواص و فوائد حاصل ہو جاتے ہیں

اس امر میں کوئی شک نہیں کہ بعض انسان نازک مزاج ہوتے ہیں اور بعض سخت طبع اور بعض جنگلی قسم کے انسان جن کے مزاج کی شدت حیوانات سے

بھی زیادہ ہوتی ہے اسی طرح بچوں کے مزاج میں گرمی تری غالب ہوتی ہے جوانوں میں گرمی خشکی کا مزاج غالب ہوتا ہے اسی طرح بوڑھوں میں سردی خشکی کا مزاج غالب ہوتا ہے اور عورتیں مردوں سے زیادہ نازک ہوتی ہیں اور ان کا سزا ج زیادہ تر گرم مزاج رہتا ہے، چاہے گرم تر ہو یا گرم خشک ان کا تر مزاج بہت کم ہوتا ہے اور خشک مزاج بالکل نہیں ہوتا اس لیے ہر ایک پر ادویات کے تجربات کرتے ہوئے دوا کی مقدار اور خواراک کو ضرور مد نظر رکھنا چاہئے اس طرح غلطی نہیں پیدا ہوتی اور نتائج صحیح حاصل ہوتے ہیں

تجربات میں کیمیائی اثرات

مندرجہ بالا تجربات مشینی اور فعلی ہیں لیکن ہر دوا وغذہ اور شے کا ایک اثر کیمیائی بھی ہوتا ہے اگرچہ کیمیائی اثرات بھی مشینی فعلی اور اعضای ہوتے ہیں لیکن جب تک کیمیائی اثرات خون میں غالب نہ ہوں تو کسی عضو میں فعلی اثرات کیسے کر سکتے ہیں بس ہر دوا وغذہ اور شے جو اپنے اثرات خون شامل کرتی ہے جیسے اجزا و عناصر اور ارکان خون ہیں پس یہی کیمیائی اثرات ہیں مثلاً کبھی خون میں کسی دوا، غذہ اور شے سے صفر اور طوبت بڑھ جاتی ہے کبھی خون میں سوداویت اور ریاح کی زیادتی ہو جاتی ہے کبھی کھاری پن اور کبھی ترشی زیادہ ہو جاتی ہے فعلی اور کیمیائی اثرات کا فرق یہ ہے کہ فعلی اثر وقتی ہوتا ہے اور

کیمیائی اثر دائی اور مستقل ہوتا ہے مرض اور شفا اس وقت تک مستقل نہیں ہوتے جب تک کیمیائی اثرات غالب نہ ہو جائیں کیمیائی اثرات کے بیس ہی بالخاصة اثرات پیدا ہوتے ہیں

کیفیاتی اور نفسیاتی تجربات

ادویہ و اغذیہ اور اشیا کے تجربات میں جسم کے فعلی و کیمیائی اثرات ہی کافی نہیں ہیں بلکہ کیفیاتی اور نفسیاتی خواص اور فوائد کا جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے ایک طرف ایسے خواص اور فوائد انسانی مزاج و جذبات اور فطرت کا اظہار کرتے ہیں دوسرے طرف تشخیص امراض میں راہنمائی کا کام دیتے ہیں مثلاً بعض ادویات و اغذیہ اور اشیا کے استعمال میں گرمی اور تری و خشکی کا اظہار کرتا ہے لیکن ظاہر طور پر جسم پر ایسی کوئی کیفیت نہیں پائی جاتی گویا جسم کے اندر مریض ضرور محسوس کرتا ہے اسی طرح اس کے برعکس بعض دفعہ انسان ظاہری طور پر ان کیفیات کی تکلیفات کا انکار کرتا ہے لیکن ظاہرہ جسم میں وہ کیفیات شدت سے پائی جاتی ہیں گویا اندر ورنی جسم میں مریض کو ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے اسی طرح کبھی بھوک پیاس شدید ہو جاتی ہے اور بند ہو جاتی ہے کبھی بھوک پیاس ہوتی ہے مگر کھایا پیا نہیں جاتا کبھی کھایا پیا جاتا ہے مگر فوراً قہوہ ہو جاتی ہے کبھی کھانے پینے کے نام سے جی متلا تا ہے کبھی بھوک ہوتی

ہے پیاس نہیں ہوتی، کبھی پیاس ہوتی ہے بھوک نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ
 اسی طرح کبھی مریض تازہ ہوا، ٹھنڈے پانی اور کھلی فضا کی طلب کرتا ہے اور
 اکثر اپنا منہ خاص طور پر سوتے میں کھلا رکھتا ہے کبھی ٹھنڈی ہوا اور پانی سے
 گھبرا تا ہے اور اپنے کو کمرے میں بند کر لینا پسند کرتا ہے کبھی گھنٹوں خاموش
 بیٹھا رہتا ہے یا ایک ہی حالت میں پڑا رہتا ہے کسی عضو کو حرکت دینا پسند نہیں
 کرتا۔ بے چین نظر آتا ہے کسی پہلو قرار نہیں آتا۔ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کبھی
 گھنٹوں چلتا ہے یا بیٹھے اور لیٹے ہوئے اپنے کسی نہ کسی عضو کو حرکت دیتا ہے
 ایسی صورتیں مریضوں کے جذبات میں نمایاں نظر آتی ہیں مثلاً بعض میں غم و
 غصہ کی زیادتی ہوتی ہے اور بعض خوف و ندامت کا زیادہ اظہار کرتے ہیں
 بعض میں لذت و سرسرت کی طرف رغبت پائی جاتی ہے اسی طرح بعض جنسی
 جذبے کا بے حد اظہار کرتے ہیں اور بعض میں ان تمام جذبات میں حد کی
 پائی جاتی ہے بلکہ اس حد تک کمی ہوتی ہے کہ ان کو اخلاقی قدرؤں کے مطابق
 ابنا مل انسان کہتے ہیں اسی طرح جذبات سے جو اخلاقی قدریں پیدا ہوتی
 ہیں ان میں افراط و تفریط کا پایا جانا یا انسانی جبلت میں کمی و بیشی کا پایا جانا اس
 طرح جبلت کا صحیح جذبات و فطرت کے مطابق تربیت کا پانا یا نہ پانا وغیرہ
 وغیرہ بلکہ انسانی اخلاق کے حسن و فتنج کو اغذیہ و ادویات اور اعضاء کے مطابق

سمجھنا ایک اہم موضوع اور اطباء کے لیے نہایت ضروری مضمون ہے بعض سونے کے رسیا ہوتے ہیں اور بعض سونا پسند نہیں کرتے نیند کا زیادہ آنا اور نہ کاپسند کرنا اور نہ پسند کرنا الگ بات ہے اول چیز مرض پر دلالت ہے اور دوسری چیز انسانی جذبات کا اظہار کرتی ہے بعض لوگ یا مریض نمکین اور چرپہ ذائقہ پسند کرتے ہیں بعض شیریں اور پھیکے ذائقہ کی طلب رکھتے ہیں اور بعض ترشی اور تلخی کے خوگر ہوتے ہیں اسی طرح بعض لوگ خشک اشیا کی خواہش رکھتے ہیں بعض گھنی، دودھ اور دیگر روغنی اشیا کے بغیر ہر شے سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح بعض لوگ یا مریض یا جن پر اغذیہ اور ادویہ کے تجربات کئے جاتے ہیں ان کو قبض کشا اور لمین صورت پسند ہوتی ہے اور بعض قابض اور خشک صورت کو اپنے لیے مفید اور باعث طاقت خیال کرتے ہیں اسی طرح بعضوں میں وحشی جذبات کی طلب ہوتی ہے اور بعض تہذیب و تمدن اور شاشستگی و اعتدال کی زندگی کو انسانیت خیال کرتے ہیں غرض انسانی زندگی میں ہر قسم کی کیفیات و جذبات اور فطرت پائی جاتی ہے یہی صورتیں امراض کی حالت میں بھی مریضوں میں نظر آتی ہیں اور اغذیہ اور ادویات کے استعمال میں بھی پائی جاتی ہیں یہ سب کچھ انسانی جبلت کے کیفیات و جذبات اور فطرت انسانی کیا ہیں؟

صحت مند اور غیر صحت مند جذبات اور غیر صحیح فطرت کی تربیت ہے اسی طرح انسان انتہائی بلند اخلاق اور شرافت و فضیلت کا نمونہ بن کر فرشتوں پر بھی افضیلت حاصل کر لیتا ہے اس کے بر عکس جھوٹا، فربی، بد دیانت، بے شرم، چور، ظالم، ستمگر، قاتل، خونخوار، عیاش اور شرابی بن کر شیطان سے بھی کہیں آگے بڑھ جاتا ہے

جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے جذبات و اخلاق میں حسن و فتنہ نمایاں طور پر پایا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ انسان کے اندر پایا جاتا ہے یہ سب کچھ کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ انسان کے جسم میں عضوی و کیمیائی تبدلیاں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کو ایسا بنا دیتی ہیں دوسرا طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اقسام کی اغذیہ اور ادویہ خاص طور پر مشی اشیا جسم فعلی اور کیمیائی طور پر بھی ایسی تبدلیاں پیدا کر دیتی ہیں اگر ہم ادویات و اغذیہ کے ان افعال و اثرات اور خواص و فوائد کو خاص طور پر منظر رکھیں تو ہم انسانی جذبات اور اخلاق کو بھی بدل سکتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے امراض کو صحت میں بدل جاسکتا ہے

اس موضوع پر جہاں تک مطالعہ کیا ہے یورپ و امریکہ میں بھی کوئی خاص لٹریچر نہیں پایا جاتا نہ ان کی میڈیا یکل سائنس میں اور نہ ہی ان کی نفیات میں

کوئی قابل اعتماد کتاب پائی جاتی ہے جہاں تک عضوی نفیات کا تعلق ہے یورپ و امریکہ میں اس موضوع پر ایک بھی قابل ذکر کتاب نہیں ہے اکثر بے ہنگام کتب پائی جاتی ہیں جیسے تجربات کی لکھی ہوتی ہیں یعنی مریض کے لیے فلاں مجرب نہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ مرض کیسے پیدا ہوتا ہے اس رجوع جسم میں کس طرف جاتا ہے اور لکھنے والے اکثر بے اصولے اور عطاوی ہیں جو نفیات کے نہ ماہر ہیں اور نہ ان کو بالاعضا تطبیق دے سکتے ہیں ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ماںڈ کا تعلق کس عضو کے ساتھ ہے کوئی دل کے ساتھ کہتا ہے کوئی دماغ کے ساتھ لکھتا ہے ماںڈ کو تو وہ کچھ لکھ دیتے ہیں سب کا نشس اور ان کا نشس کا تعلق کو اعضا کے ساتھ ہے وہ بالکل نہیں جانتے بلکہ ان میں ابھی یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوا ہے سب سے بڑی کمی یورپ و امریکہ اور روس و چین کی میڈیکل سائنس میں پائی جاتی ہے وہ علاج میں نظریہ قلب و عضلات و دن آرگن تھیوری یہی کمی ان کی نفیات کے نامکمل ہونے کا باعث ہے یہی وجہ ہے کہ وہ نفیات کے مختلف اعمال کو کسی عضو سے منطبق نہیں کر سکتے جو ہماری تحقیقات کے بغیر ممکن نہیں البتہ قرآن حکیم نے نفس اماڑہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ پر روشنی ڈالی ہے اس میں ہمارے لیے بہت سی رہنمائی ہے بلکہ قرآن جب خود کو انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور مومن و مسلم

ہونے کی دعوت دیتا ہے تو بالکل ابتدا میں کہتا ہے کہ ”اس کتاب (کی خوبیوں) میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کی ہدایت صرف متقی کے لیے ہے“ یعنی ایک خاص معیار کے انسان ہی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں گویا ایسے انسان جن کی جبلت صالح ہے یا جن کی جبلت کی تربیت جذبات اور فطرت کی صحبت مندرجہ پر ہوئی ہے اس کے بعد صالح جبلت کی چند قدریں بیان کی گئی ہیں پھر تمام قرآن حکیم اس جبلت کو صحبت مندرجہ بات اور صالح فطرت کی قدریں پر تربیت کرنے کے طریقے بیان کرتا ہے اور جب انسانی فطرت کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کی فطرت یہ ہے کہ جس پر انسان کو پیدا کیا ہے“ یعنی ہر انسان اپنے ساتھ ایک خاص فطرت لے کر آیا ہے

تصدیقات

تجربات میں تصدیقات کو بے حد اہمیت حاصل ہے جب تک ہم کسی تجربہ اور قیاس بلکہ اور اک و احساس کی تصدیق نہ کریں اس وقت تک ایک تصور ہے یا غیر مصدقہ عمل ہے تصدیقات کو ذہن نشین کرنے کے لیے اول علم کی حقیقت اور ماہیت سے واقف ہونا ضروری ہے علم کی بحث تو بہت طویل ہے اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ اس سے ناواقف ہیں اس کو صحیح طور پر نہ سمجھنے ہی سے

اکثر آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ہم بہت مختصر اس کو بیان کریں گے
تاکہ اس کی روشنی میں صحیح علم و فن اور ان کی حکمت حاصل ہو سکے

علم کی حقیقت

علم کی حقیقت کے معنی ہیں جاننا لیکن منطقی اصطلاح میں کسی شے کی شبیہہ اور
نقش جو قویٰ ذہنیہ یا خود نفس ناطقہ پر حاصل ہوتا ہے اسے معلوم کہتے ہیں اور
اس کے حصول سے ذہن میں جو کیفیت احساس اور ادراک پیدا ہوتا ہے اس
کو علم کہتے ہیں گویا صرف جاننا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ذہن کو اس
حصول نہ ہو جائے یعنی اس ہر ذہن کو ملکیت حاصل نہ ہو شبیہہ کو نقش بروئی
بھی کہتے ہیں جن کو حواس خمسہ باطنی ادراک کرتے ہیں کسی نے نمک کا نام لیا
ذہن میں اس کی صورت آگئی یہ نمک کا علم ہے

علم کی اقسام

علم تین صورتیں ہیں (1) تصور (2) تصدیق (3) حکمت۔ پہلی دونوں
صورتوں کا تعلق منطق سے ہے اور تیسرا صورت کا تعلق فلسفہ سے ہے منطق
اور فلسفہ کی تمام مباحث ان ہی کے گرد گھومتی ہیں

تصور کی تعریف

زندگی و کائنات اور مابعد طبیعت کی شبہات و نقوس کی صورتیں اور معلومات انسانی ذہن اور نفس ناطقہ میں پیدا ہونے کے بعد تصور کہلاتی ہیں یعنی ایسا علم جن میں صرف ایک تصویر اور صورت ذہن میں جگہ حاصل کرے جیسے نمک کا نام لینے سے اس کا تصور ذہن میں ابھرتا آئے اور بس اس کا تعلق ان امور سے نہ ہو کہ نمک کیا ہے؟ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے اس کی ماہیت کیا ہے؟ عام طور پر حواس خمسہ ظاہری کی معلومات کو تصور کہتے ہیں لیکن جاننا چاہئے کہ حواس خمسہ باطنی کی معلومات بھی بعض قسم کی شبہات اور نقوش پیدا کر دیتی ہیں جن کا ظاہری دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جیسے جن دیوں بھوت پریت، چڑیل و پری اور حور و فرشتہ وغیرہ

تصدیق کی تعریف

ایسا علم جو ہر تصور کو کسی یقین میں بدل دے یعنی فلاں شے فلاں شے ہے، یا فلاں شے نہیں ہے، جیسے نمک کے تصور کے بعد اس امر کا یقین ہو جائے کہ نمک خوردنی ہے

حکمت کی تعریف

زندگی و کائنات، نفس و آفاق اور موجودات و مابعد طبیعت کے حالات

واقعیہ، اقدار ماہیت اور حقیقت اصلیہ کا بقدر طاقت انسانی جاننا اور علم حاصل کرنا چونکہ یہ معمول علم ہے اس کو فلسفہ بھی کہتے ہیں پھر ان کی دو دو صورتیں ہیں تصور اور تصدیق کی دو دو صورتیں نظری اور بدیہی کہلاتی ہیں مگر حکمت کی دو صورتیں نظری اور عملی کہی جاتی ہیں اس کا ذکر ہم اس کے اپنے مقام پر کریں گے ذیل میں تصور و تصدیق بدیہی پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ ان کے ذہن نشین کرنے میں آسانیاں پیدا ہو جائیں

تصور بدیہی

بدیہی کے معنی صاف اور واضح کے ہیں یعنی ظاہرہ جس کے ثبوت کی ضرورت نہ ہو اور وہ سمجھ میں آجائے یعنی کسی شے کا ایسا علم جس کی تعریف بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو اور بغیر تعریف کے سمجھ آجائے جیسے آگ، ہوا، پانی، اور تری، خشکی، گرمی، وسردی، وغیرہ کے نام سنتے ہی یہ چیزیں سمجھ میں آجائی ہیں لیکن اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایسی چیزیں یا تو ہماری زندگی اور ماحول کا جزو ہوتی ہیں یا ہمیں شب و روز زندگی میں ان سے اس قدر تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ ان سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ مناسبت بھی ایک مدت میں جا کر تربیت پاتی ہے جاننا چاہئے کہ جن علوم و فنون میں یہ مناسبت پیدا ہوتی جاتی ہے وہ بدیہی

ہوتے جاتے ہیں مثلاً طبیب کے سامنے ارکان و اخلاق اور مزاج و کیفیات کا نام لینا بدیہات میں شامل ہے جب کہ غیر طبیب کے لیے ان کی اول تعریف لازم ہوگی وغیرہ تصور بدیہی کے مقابلے میں تصور نظری ہے جس کا جاننا صرف اس کے علم کی حد تک ہوا اور بغیر تعریف کئے سمجھنا آئے جیسے دیو، بھوت پریت، فرشتہ، حور اور پری وغیرہ جن کو ہم صرف ادراک کر سکتے ہیں

تصدیق بدیہی

ایسا واضح علم جس کے لیے دلیل بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو، جیسے دو چار کا نصف ہے اور ایک عدد چار کا چوتھائی ہے تصدیق بدیہی بھی مشاہدات و تجربات کے بعد ہی واضح ہوتی ہیں

البتہ بعض مشاہدات و تجربات اور حقائق زندگی و ماحول میں اس کثرت سے عمل میں آتے ہیں کہ ہمیں ان کی تصدیق کرنے چند اس ضرورت نہیں رہتی، جیسے پانی بہتا ہے، دھواں اڑتا ہے، بارش میں بادلوں کا ہونا از بس ضروری ہے اس کے برعکس تصدیق نظری ہے یعنی ایسی تصدیق جس کے لیے تصدیق لانا لازمی ہے کیا جن و پریاں موجود ہیں؟ کیا زندگی اور کائنات بنانے والا ہے اس میں تصرف کرنے والی کوئی ہستی ہے؟ وغیرہ وغیرہ

تصور و تصدیق اور علم کی بالفعل صورتیں

دو یا زیادہ تصورات کو آپس میں ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرتے ہیں، جیسے حیوان اور ناطق دو تصور ہیں جب دونوں کو ملایا گیا ”حیوان ناطق“ بن گیا جس کے معنی انسان ہیں گویا دو تصوروں سے انسان کا علم ہو گیا جو ان دونوں تصوروں میں نامعلوم تھا جن دونوں معلوم تصوروں سے ایک نامعلوم تصور کا علم ہو گیا ہواں کو تعریف یا معروف کہتے ہیں مثلاً اس کو آسانی سے اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ فرشتہ کیا چیز ہے البتہ وہ جسم و زندگی یا لطیف و نورانی اور فرمانبرداری کے تصورات کا علم رکھتا ہے بس جب ان تمام تصورات کو ملا کر پیش کر دیا جائے گا کہ فرشتہ ایک ایسا لطیف و نورانی جسم جو زندگی رکھتا ہے اور جو کبھی خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا تو ان نامعلوم تصورات کے ذریعہ ایک معلوم تصور حاصل ہو گیا اور فرشتہ کا مفہوم معلوم ہو گیا

اسی طرح دو یا زیادہ تصدیق کو ملا کر کسی نامعلوم تصدیقات کو معلوم کرتے ہیں جیسے انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم والا ہے دونوں تصدیقات کو ملایا جائے تو معلوم ہوا کہ انسان جسم والا ہے ان دونوں معلوم تصدیقات سے نامعلوم تصدیق حاصل ہوا کرنے کو دلیل اور جستہ کہتے ہیں

اسی طرح دو یا زیادہ علموں کو ملا کر کسی نامعلوم کے معلوم کرنے کو فکر و نظر کہتے ہیں کبھی ان تصورات و تصدیقات اور علوم کو ملانے سے غلطی بھی ہو جاتی ہے ایسی غلطی کی اصلاح جس علم سے ہوتی ہے اس کو منطق کہتے ہیں پس علم منطق وہ علم ہے جس سے کسی شے کی تعریف اور دلیل بنانے میں خطا ہونے سے حفاظت ہو اور اس علم کا مقصد فکر و غور کا صحیح کرنا ہے

احساس و ادراک اور قیاس و تجربات کی بالفعل تشریح تصدیقات کی بالفعل تشریح

گزشته صفحات میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ تجربات اور قیاسات میں تصدیقات کو بے حد اہمیت حاصل ہے بلکہ ہر احساس اور ادراک کی بھی جب تک تصدیق نہ کرے اس وقت تک وہ ایک تصور ہے یا غیر مصدقہ علم ہے اور علم کے متعلق بھی پورے طور پر واضح کر پکے ہیں کہ وہ احساس ہو گا (حوالہ خمسہ ظاہری سے حاصل شدہ) یعنی علم کی ہر شبیہہ یا نقش جو ہمارا احساس ہو گا یا ادراک ہو گا اور جب تک اس کی معرفت یا تصدیق نہ ہو گی تو وہ ایک تصور کہلائے گا

یہ تصوارت اگر احساسات ہیں تو حس مشترک کے خزانے خیال میں محفوظ ہیں

اور اگر معلومات ادراکی ہیں تو حافظہ میں محفوظ ہیں اور جب احساس اور ادراک کی تصدیق بھی ہو جائے تو بھی احساس تصدیقات خیال میں ہی قائم رہیں گی اور ادراکی تصدیقات حافظہ میں محفوظ رہیں گی

جاننا چاہئے کہ ہر قسم کے علم کی بالفعل صورت یہ ہوتی ہے کہ جب نفس ناطقہ اور ذہن کسی علم یا غیر مصدقہ کی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو وہ احساسی تصورات کو تخیل کی صورت حواس خمسہ نما ہرقی کے خزانہ خیال سے قوت فیصلہ (عقل) کے سامنے پیش کر دیتا ہے اسی طرح ادراکی صورت کو فکر کی صورت میں حواس خمسہ باطنی کے خانہ حافظہ سے قوت فیصلہ (عقل) کے سامنے پیش کر دیتا ہے پھر فیصلہ اور تصدیق طلب کرتا ہے

قدرت نے قوت فیصلہ (عقل) کا مقام خیال اور حافظہ کے درمیان بنایا ہے تاکہ تصدیقات کی صورت میں وہ اپنی ضرورت کے مطابق معلومات دونوں طرف سے حاصل کرے یعنی خیالات کی تصدیقات اکثر خیالات سے ہی ہو جاتی ہے اور جب وہاں پر کوئی بدیہی تصور یا بدیہی تصدیق معلوم نہیں ہوتی تو پھر ذہن اور نفس ناطقہ حافظہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس خزانہ سے اپنی تصدیق کرتا ہے یہی عمل فکر پر بھی وارد ہوتا ہے یعنی اگر فکر اپنے دیگر افکار سے تصدیق کر لیتا ہے لیکن جب اس خزانہ سے تصدیق نہیں ہوتی تو خیال کے

خزانے سے تصدیق حاصل کرتا ہے یہ سلسلہ ہرگھڑی جاری ہے اور ہر ثانیہ نفس ناطقہ اور ذہن اپنے تخيّلات اور تفکرات میں مطابقت و موارفقت کی ایڈجسٹمنٹ کرتا رہتا ہے بالکل یہی صورت ہمارے تجربات اور قیاسات کی بھی ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے علم کی صورتیں ہیں ان کی تصدیقات بھی بالکل اسی صورت پر قائم رہتی ہیں جس کے بعد وہ ایک یقینی علم بن جاتے ہیں

تجربات کے متعلق ایک غلط فہمی

تجربات کے متعلق بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ان تعلق سائنس کی دنیا سے ہے اس لیے ان کو بہت کچھ اہمیت حاصل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تجربات یقیناً مشاہدات پر مشتمل ہیں لیکن اس امر کو ذہن نشین رکھیں کہ تجربات اور مشاہدات بھی اس وقت تک بے معنی ہیں جب تک خزانہ خیال یا حافظہ میں پہلے کی تصدیقات ان کی تصدیق نہ کریں گویا ہمارا ہر تجربہ اور مشاہدہ دلیل و حقیقت کے بغیر بے معنی شے ہے یعنی فلسفہ اور منطق کا محتاج ہے دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ سائنس کی ہرشاخ فلسفہ اور منطق کے بغیر بے معنی ہے کیونکہ اس کی حدود فلسفہ اور منطق کے ساتھ پیوستہ ہیں

عقل

عقل کیا ہے؟ دراصل بذات خود عقل کوئی شے نہیں ہے وہ صرف ایک قوت ہے جو احساسات اور ادراکات سے حاصل شدہ علم پر فیصلہ دیتی ہے جس قدر علم معرفت و تصدیقات اور حقیقت پر مبنی ہوگا اسی قدر عقل کے فیصلوں کی اہمیت ہوگی اور صحیح فیصلے وہی ہو سکتے ہیں جو قانون فطرت و سنت الہیہ اور عادات خداوندی کے مطابق ہوں گے

غلط قسم کا علم اول غلط قسم کے احساسات اور غلط قسم کے ادراکات سے ہوتا ہے یعنی ان کو صحیح احساسات اور صحیح ادراکات سے حاصل نہ کیا جائے ان میں حواس خمسہ ظاہر اور حواس خمسہ باطن کی خرابی بھی شامل ہے دوسرے حاصل شدہ قوانین فطرت کے مطابق نہ ہو مثلاً ہم دور سے دھواں دیکھیں اور یہ اندازہ نہ لگاسکیں کہ یہ دھواں آگ کا ہے یا پانی کے بخارات ہیں یا بغیرہ چھوئے اندازہ نہ کر سکیں کہ کوئی سفید محلول دودھ ہے یا لسی یا کوئی اور شے بغیرہ وغیرہ

اس لیے غلط قسم کے علم سے عقل یقیناً غلط فیصلے دے گی قوت عقل کتنی بھی اعلیٰ، ارفع اور باکمال کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے فیصلوں میں اپنے علم پر مجبور ہے اس لیے صرف عقل پر یقین کر لینا حقیقت نہیں ہے بلکہ عقل کے ساتھ اس کے علم کو بھی سامنے رکھنا بے حد ضروری ہے

جاننا چاہئے کہ احساسات کا خزانہ خیال ہے اور تخيیل ہی اپنی تصدیق کے لیے عقل کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اگر تخيیل حقیقت پر مبنی نہ ہو اور اس میں افراط و تفریط پیدا ہو جائے تو اس کی ہر بات مبالغہ یا جاہل ہو گی اس کی دلیل میں بے شمار شعرا کا کلام پیش کیا جاسکتا ہے کلام کی خوبی اپنی جگہ پر ہے لیکن مبالغہ اور جہل سے انکار نہیں کیا جاسکتا یہی وجہ ہے کہ شعرا کو نبوت سے الگ سمجھا گیا ہے کیونکہ شعرا کا کلام بھی دل پر اثر کرتا ہے

اسی طرح ادراکات کا خزانہ حافظہ ہے جس کے علم کو قوتِ مفکرہ عقل کے سامنے تصدیق کے لیے پیش کرتی ہے اگر قوتِ مفکرہ میں افراط و تفریط پیدا ہو جائے تو جنون اور توہم کہہ دیتے ہیں اس کی دلیل مجنوں کی گفتگو سے دی جاسکتی ہے یہی وجہ ہے کہ مجنوں کو نبوت سے جدا سمجھا گیا ہے کیونکہ بعض باتیں مجنوں کی بھی سچی ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قوتِ مفکرہ اپنے ادراک سے ایسے علم کو حاصل کرتی ہے جس کو حواسِ خمسہ ظاہری احساس نہیں کر سکتے اگر قوتِ مفکرہ اپنے اعتدال پر ہے تو عام انسانوں میں وجدان کی دولت نصیب ہوتی ہے خاص انسانوں کو الہامی قوت حاصل ہوتی ہے اور کمال انسانی یعنی نبوت میں وحی نازل ہوتی ہے الہام اور وحی کی بحث طویل ہے لیکن اس قدر ذہن نشین کر لیں کہ انسان ایک حیوان ناطق ہے یعنی وہ اپنی

حیوانیت کی وجہ سے حیوان کے ساتھ ہیں اسی طرح اولیاء اللہ و امام وقت اور
نبی عام انسانوں سے مشترک ہیں لیکن وہ کشف والہام اور وحی کی وجہ سے
عام انسانوں سے ممتاز ہیں

اس لیے ہمارے علم کا بہت بڑا خزانہ خاص اور کامل انسانیت یعنی اولیائے
اللہ و امام وقت اور نبوت کا مر ہون منت ہے ہمارے تجربات اور مشاہدات
ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے البتہ ہمارے تجربات و مشاہدات اور قیاسات ان
کے علم و معرفت کے بعد ہی صحیح نتائج پیدا کر سکتے ہیں

عقل و قیاس اور تجربات و مشاہدات کی بالفعل تشریح عقل کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں

ہم یہ لکھے چکے ہیں کہ عقل بذات خود کوئی شے نہیں ہے وہ صرف ایک قوت ہے
اور اس کے فیصلے اس کے تجربات و مشاہدات اور معلومات پر منحصر ہوتے ہیں
اگر تجربات و مشاہدات اور معلومات درست ہیں تو فیصلے بھی درست ہوں
گے ورنہ نتائج غلط برآمد ہوں گے ہر شخص اپنے عقل مند ہونے کا دعوے کرتا
ہے اور اس کے عقل مند ہونے سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا مگر کسی علم و عمل
میں اس کے فیصلے اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتے جب تک وہ شخص اس علم و فن

اور عمل میں صحیح تجربات و مشاہدات اور معلومات نہ رکھتا ہو مثلاً ایک ماہر قانون جو علم و فن طب سے بالکل ناواقف ہو اگر وہ اپنی عقل پر بھروسہ کر کے اس امر کا دعویٰ کرے کہ اس کے فیصلے علم و فن طب میں صحیح ہوں گے بالکل غلط ہے ایسا شخص یقیناً عقل کی حقیقت سے واقف نہیں، یہی صورت عالم دین، عالم سیاست، ادیب و فن کار اور دیگر ہر قسم کے اہل علم اور صاحب فن کا تصور کریں بلکہ پادشاہ وقت اور روزِ صاحب رو برو بھی کیوں نہ ہوں اس کے فیصلے پر یقین نہیں کیا جاسکتا جب تک وہ لوگ علم و فن طب سے صحیح معنوں میں واقف نہ ہوں یہ مسلمہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کرسکتا

عقل کے غلط فیصلوں کی اصلاح

چونکہ عقل کے فیصلے ان تجربات و مشاہدات اور معلومات و ماحول کے تحت ہوتے ہیں جو ان کے پیش ہوتے ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو فیصلے درست ہوں گے اور اگر وہ غیر صحیح ہوں گے تو فیصلے غیر درست ہوں گے عقل کے ان صحیح و غیر صحیح فیصلوں کے متعلق مولانا نزیر احمد صاحب دہلوی نے اپنی کتاب ”مہادی الحکمت“ میں لکھا ہے ان سے عقل پر بہت اچھی روشنی پڑتی ہے لکھتے ہیں اب غور کرو کہ یہ خیالات جوانسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں از قسم تصور ہوں یا از قسم تصدیق سب تو بدیہی نہیں ہیں کہ بے غور و فکرانسان سمجھ لیا کرے

کیا سینکڑوں ہزاروں باتیں ایسی نہیں ہیں کہ انسان کی عقل ان میں کام نہیں
کرتی مثلاً کلیں، ظسم، شعبائے، کیمیا، بھلی، روشنی، جنات، فرشتے، آسمان اور
ہوا وغیرہ وغیرہ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو تصور کرنے سے عاجز ہیں
یہی آسمان جس کو ہم روز دیکھتے رہتے ہیں، نہیں معلوم کیا چیز ہے اور یہی ہوا
جس پر ہماری حیات کا اختصار ہے کون جانے کیا شے ہے سوچ، چار بہت کچھ
کیا گیا ہے مگر آدمی کو خود اپنی روح کا تصور صاف طور پر نہ ہو سکا یہ تو تصورات
کا حال ہے تصدیقات میں عقل انسانی اس سے زیادہ عاجز ہے دیکھیں زمین
گول ہے یا آفتاب کے گرد گھومتی ہے دنیا بے ثبات ہے قیامت کا آنا برحق
ہے اس قسم کی ہزاروں باتیں ہیں کہ بڑے سے بڑا عاقل اس پر برسوں غور
کرے اور پھر بھی شاید بے دلیل اس کو اطمینان کلی حاصل نہ ہو
ایک طرف اشکال اس درجے کا ہے دوسری طرف بہت سی باتیں ایسی بدیہی
ہیں کہ ہر کوئی جانتا اور سمجھتا ہے، جیسے آدمی، گھوڑا، گائے، بکری، سردی، گرمی
کہ ان کا تصور بے تامل ہر ایک کو ہو سکتا ہے یا یہ آفتاب منع نور ہے اور جتنے
عدد جفت ہوتے ہیں ان کے دو برابر حصے ہو سکتے ہیں اس طرح کی
تصدیقات کا ادعائی محتاج وغور و تامل نہیں ہے جس تصور اور تصدیق میں غور
اور تامل درکار نہ ہو وہ بدیہی ہے اور جو محتاج فکر ہو وہ نظری ہے

جب ثابت ہوا کہ بہت بالتوں کے سمجھنے میں انسان کو غور فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اب دیکھنا چاہئے کہ غور فکر کے بعد بھی انسان ہر ایک بات کو ٹھیک سمجھ سکتا ہے یا نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ غور بھی کرتے ہیں فکر بھی کرتے ہیں پھر بھی رائے انسان غلط کی غلط رہتی ہے اور اسی وجہ سے عقلا کی رائے میں اختلاف واقع ہے کہتا ہے زمین کو گردش ہے کوئی قائل ہے کہ زمین ٹھہری ہوتی ہے آفتاب گھومتا ہے کوئی مانتا ہے کہ دنیا کو ایک دن بالکل فا ہو جانا ہے کوئی مانتا ہے کہ نہیں اسی طرح چلی آئی ہے اور اسی طرح ابد الاباد تک چلی جائے گی جب عقلا کا یہ حال ہے تو رہے بدحال عوام پس غور فکر کیا بھروسہ رہا کوئی تدبیر کرنی چاہئے کہ غلطی فکر کا انسداد ہو سکے اس کے لیے علم منطق ایجاد ہوا ہے اور ان میں ایسے قواعد منضبط کئے گئے ہیں کہ غور فکر میں اگر ان قواعد کی رعایت و پابندی ہو تو رائے انسانی غلطی سے محفوظ رہے پس عقل کی اصلاح فکر کی تصحیح اس علم کا مقصود اصلی ہے اور بڑا عمدہ مقصود ہے انسان کو مخلوقات عالم پر وجہ شرف اور بزرگی بھی عقل ہے اور چیز اس جو ہر شریف کی اصلاح کرے گی گویا وہ انسان کو انسانیت سکھاتی ہے۔

اس اقتباس سے صحیح طور پر اندازہ ہو سکتا ہے کہ عقل پر اس وقت تک اعتماد نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کے فیصلے کسی اصول و قاعدے

اور قانون کے تحت کئے گئے ہیں اگر یونہی ہر شخص جو چاہئے کہہ دے وہ ہرگز قابل اعتماد نہیں ہے

عقل محتاج

عقل اپنی جگہ پر کس قدر بلند طاقتور اور باکمال ہو، پھر بھی علم و معرفت اور بدیہات و تصدیقات کی محتاج اور پابند ہے اور انہی قواعد اور قوانین کے تحت وہ اپنے فیصلے دینے کا حق رکھتی ہے ورنہ اس کی کوئی وقعت و حیثیت تسلیم نہیں کی جاسکتی بلکہ ان کے بغیر توهہات کا مجموعہ ہے عقل کے فیصلوں کے لیے ذیل کی صورتیں ضرور لازم ہیں

1 - صحیح معلومات جو بدیہی تصورات اور معرفت کی صورت رکھتی ہوں
 2 - صحیح تجربات و مشاہدات جو بدیہی تصدیقات اور قوانین فطرت کا درجہ رکھتے ہوں

3 - ماحول جس میں مقام و زبان کی پوری کیفیت پائی جائے
علم طب کی ابتداء اور علم خواص الاشیا

علم طب کی ابتداء سحر و جادو گری سے سمجھی جاتی ہے اس لیے طب کے معنی جادو گری اور سحر کے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم طب کی ابتداء علم خواص الاشیا

سے ہوئی ہے کیونکہ انسانی زندگی کے ابتدائی دور میں صرف خواص الاشیا کو ہی سحر و طسم اور جادو گری تصور کیا گیا اور بعد کے زمانوں میں جب جہالت کے پردے اٹھتے گئے اور علم کی روشنی پھیلتی گئی تو علم خواص الاشیا ایک حقیقت بن گیا اور اسی سے علم الادویہ اور علم الاغذیہ کی ابتداء ہوئی پھر خواص الاشیا معلوم کرنے کے لیے قوانین و قاعدے مرتب کئے گئے جس کے ساتھ سات عقل و قیاس و تجربات و مشاہدات کی حقیقتیں بھی سامنے آنے لگیں تاکہ انسانی معلومات و معرفت اور تحقیقات و تدقیقات اصولی اور کلی قوانین اور قاعدے کے تحت قائم کر دیئے جائیں تاکہ خواص الاشیا کے اصول میں غلط فہمی اور یقینی نتائج سے نقصان نہ اٹھانا پڑے اور انسان یقینی بے خطا علم سے مستفید ہوتا رہے یہ سب گزشتہ ہزاروں سالوں کے علم و فن تجربات، مشاہدات تحقیقات و تدقیقات اور غور فکر کا نتیجہ ہیں اس لیے ہم نے علم الادویہ شروع کرنے سے پہلے اس امر کو ضروری سمجھا ہے کہ اول ان قوانین اور قواعد پر بحث کر لی جائے جن سے یقینی اور بے خطا خواص الاشیا حاصل ہوتا ہے تاکہ ہر اہل علم اور صاحب فن ان علوم و فنون سے مستفید ہو کر خود بھی خواص الاشیا پر معلومات اور تحقیقات حاصل کر سکے علم و فن کسی کی میراث نہیں ہے جیسے ہم نے متقد میں اور متاخرین کے علم علمی و فنی خزانہ سے اپنی تحقیقات و تدقیقات اور

غور فکر کے نتائج پیش کئے اسی طرح آنے والوں کا بھی حق ہے کہ وہ ہمارے خزانے سے مستفیض ہو کر دنیاۓ طب میں اپنی جدوجہد اور سعی کو پیش کرتے رہیں جن سے انسانیت ہمیشہ مستفیض ہوتی رہے یہی انسانیت کی خدمت ہے

مشاهدات میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں

جس طرح عقل کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں بالکل اسی طرح ہمارے مشاهدات میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں جب مشاهدات صحیح نہ ہو تو پھر عقل کے فیصلوں کا غلط ہونا تو بہت یقینی بات ہو سکتی ہے اس لیے مشاهدات پر کلی طور پر یقین کر لینا صحیح نہیں یا کم از کم اس وقت تک ان کی شرائط پوری نہ کر دی جائیں

چاہئے کہ ہمارے مشاهدات حواس نہ سے ظاہر کے محتاج ہیں مثلاً اگر کسی کے منہ کا ذائقہ تلخ ہو وہ اگر میٹھا بھی پہنچے گا تو اس کا ذائقہ تلخی لیے ہو گا اسی طرح صفر از رد ہے انسان کو ہر چیز روی نظر آئے گی کان کی ذرا سی سوزش بھی اپچھے بھلے شیریں نغموں کو سننا برداشت نہیں کرے گا نزلہ کا مریض کبھی صحیح خوبیوں کا احساس نہیں کر سکتا زمی اور سختی کا احساس ہر ذہن کی تربیت پر مخصر ہے

حوالہ خمسہ کے علاوہ مشاہدات کی تصدیق کے لیے خاص قسم کے علم و تجربات اور اسباب و ماحول کا جانا اور سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے کیونکہ مختلف قسم کے علم و تجربات اور اسباب و ماحول کے تحت مشاہدات میں زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے جس طرح کسی شے کی بے علمی اور ناجائز کاری غلط نتائج پیدا کر دیتی ہے اسی طرح بد لے ہوئے اسباب اور ماحول بھی مشاہدات بدل کر رکھ دیتے ہیں مثلاً کیفیات و مادہ اور صورت کے بدل جانے سے مشاہدات کے اثرات و افعال اور شکل میں بدل جاتے ہیں اس لیے مشاہدات کو ہمیشہ اپنے علم و تجربات اور اسباب و ماحول کے تحت قلمبند کرنا چاہئے تاکہ نتائج صحیح پیدا ہوں

مشاہدات کے یہی اختلافات ہیں جن کی وجہ سے مختلف اشخاص و ممالک اور علوم و فنون میں جدا جد انتائج مرتب ہوتے ہیں مثلاً بھلوں کو دیکھ لیں ان کے متعلق مختلف ممالک و اقوام اور علوم و فنون میں مختلف مشاہدات پائے جاتے ہیں مثلاً کھجور و سیب اور نارنجی وغیرہ مختلف ممالک میں اکثر اپنی شکل و صورت بلکہ اثرات و افعال میں بھی بد لے ہوئے ہوتے ہیں یہی حال مختلف اقسام کی انگذی اور ادویہ میں نمایاں نظر آتے ہیں نیشاہدات کے متعلق مولانا ذہپی ڈاکٹر نزیر احمد صاحب کی معلومات ملاحظہ فرمائیں کتاب ”مبادی الحکمت“

میں لکھتے ہیں

مشابہات یعنی وہ معلومات جو انسان اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے بدیہی (یقینی) ہیں اور کسی دوسرے ثبوت کی محتاج نہیں مثلاً پیش کا برتن سامنے رکھا ہوا اور ہم کہیں کہ یہ پیش زرد ہے یا لوچل رہی ہے اور ہم کہیں کہ ہوا گرم ہے تو یہ باتیں بدیہی ہیں اور اگر کوئی ان کا ثبوت چاہئے تو یہ خود اپنا ثبوت ہیں اور ہمیشہ جملہ استدلال بعد تفییش و کاوش کے اسی طرح کی باتوں پر آ کر رہبہر جاتے ہیں کیونکہ جب کسی مقدمہ بدیہی پر پہنچے استدلال منقطع ہوا لیکن غور کر کے دیکھا تو بعض مرتبہ بدیہات میں بھی غلطی واقعہ ہو جاتی ہے موجودات کو ہمارے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور اس تعلق سے ایک کیفیت ہمارے ذہن پر طاری ہوتی ہے اسی کیفیت کو تصور اور اسی کو علم کہتے ہیں بعض چیزیں آنکھ کے سامنے آنے سے ہمارے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہیں بعض مرتبہ ہم ان کو چھوٹے اور ڈٹو لتے ہیں بعض دفعہ ان کو منہ میں رکھ کر مزا لیتے ہیں یہ سب اقسام ہیں اس تعلق کے جو ہم موجودات کے ساتھ پیدا کرتے ہیں ہر ایک چیز سے کچھ نہ کچھ کیفیت ضرور ہم پر طاری ہوتی ہے تو حقیقت میں ہمارا علم اس چیز کے وجود کا تابع ہے یا یہ کہ وجود اشیا سبب ہے ہمارے علم کا اور چونکہ معلوم سے علت کو پہچاننا ہمارا دستور ہے ہم کو ایسا خیال پیدا ہوتا ہے

کہ کسی چیز کو جو کیفیت ہمارے ذہن میں ہیں وہ واقع بھی ہے ورنہ ہمارے ذہن میں کہاں سے اخذ کی۔ بعض حکما کا یہ مقولہ تھا کہ اشکال ہندی یعنی سطح خط نقطہ دائرہ جیسے کتاب اقلیدس میں مذکورہ میں، فی الواقع موجود ہیں مقلد فیشا نفورث نے دیکھا کہ آگ کی ماہیت کچھ سمجھ میں نہیں آئی سوچنے سے اتنا البتہ معلوم ہوتا ہے کہ آگ کچھ بڑی عظمت کی چیز ہے اور ہمارے ذہنوں میں اس کی وقعت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ فی الواقع اس کائنات عالم میں بڑی عظمت حاصل ہے اس واسطے ان لوگوں نے کہہ آتشی کا وجود تسلیم کر لیا اور یوں سمجھئے کہ آسمان بہ اعتباٰ تقاوٰت ترکیب آتشی منتظم ہیں اس غلطی نے اسی حد پر بس نہیں کی اور آگے پاؤں پھیلا یا یہاں تک کہ گویا ذہنی کیفیتوں کو وجود اشیا کا سبب ٹھہرا لیا اور جس کے تصور سے عاجز ہوئے تو یہ سمجھا کہ واقع میں اس کا وجود نہیں ممکن مسیریم کے وجود میں بہتریوں کا کلام ہے سبب کیا ان کے سمجھ میں نہیں آتا اور کہتے ہیں اگر بات ہوتی تو ہم بھی تو سمجھتے

لقمان حکیم وجود خدا پر یہ دلیل لایا کرتا تھا بھلا سب چیزیں تو مادے سے بنی ہیں، مادہ کیونکر بنا ایسا تو ممکن نہیں کہ خود اس نے اپنے تیس بنا لیا ہواں سے ظاہر ہے کہ مادہ کا کوئی خالق ہے اور ضروری ہے کہ وہ بڑا داشمند بھی ہو ورنہ

جو عقل سے خالی ہو وہ آدمی جیسی دانشمند مخلوق کو کیونکر پیدا کر سکتا ہے اور قرین قیاس نہیں کہ دنیا بہ ایس عمدگی خود بخود ہو گئی اس تماہِ دلیل کا حاصل یہی ہے کہ جو کچھ ہماری سمجھ میں آتا وہ واقعہ میں نہیں ہے افلاطون وجود مجرد کو اسی ثابت کرتا تھا کہ انصاف و عقل دو چیزیں ہیں اور دونوں مجرد یعنی غیر مادی ہیں اس صورت میں افلاطون کو مغالطہ ہوا تھا انصاف اور عقل دو چیزیں ہیں اس میں افلاطون نے چیز سے مراد جو ہر لیا رہ اپنی ذات سے قائم ہونہ عرض جس کا وجود تابع دوسرے وجود کے ہو جیسے رنگ کہ کوئی سے جدا گانہ نہیں ہے بلکہ ایک کیفیت ہے جو کپڑے یا لکڑی وغیرہ کو عارض ہوتی ہو پس حقیقت میں وہ دور سے استدلال کرتا ہے

قیاس میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مشاہدات و تجربات اور عقل کے فیصلے بھی بعض معلومات، حالات اور وقت و ماحول میں غلط ثابت ہو سکتے ان کے صحیح نتائج کے لیے چند شرائط اور قوانین مقرر ہیں بالکل انہی کی طرح قیاس کے فیصلوں میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور اس کے صحیح نتائج اخذ کرنے کے لیے بھی چند شرائط اور کچھ قوانین مقرر ہیں جن کے بغیر صحیح قیاس نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کے نتائج صحیح ہوں گے اس حقیقت سے انکار نہیں ہے قیاس بھی مشاہدات،

تجربات اور عقل کی طرح تحقیقات میں ایک اہم حقیقت بلکہ ایک غیر معمولی طاقت ہے جہاں پر مشاہدات و تجربات کام نہیں کر سکتے وہاں پر قیاس کی طاقت کام کرتی ہے اور حقیقت کو پیش کرتی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مشاہدات اور تجربات دونوں قیاس کے تحت کام کرتے ہیں اور اس کے بغیر دونوں بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں دراصل قیاس ہی ایک بڑی طاقت ہے

قیاس کی تعریف

ایسا قول ہے جس کی ترکیب ایسے قضیوں سے ہو جب وہ مان لیے جائیں تو ایک اور قضیہ بھی مانا پڑتا ہے اور یہ قضیہ جس کا مانا ضروری ہے نتیجہ قیاس کھلا تا ہے جیسے ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے یہ دو قضیے ہیں ان کو اگر مان لو تو ان کے ماننے سے تم کو یہ بھی مانا پڑے گا کہ ہر انسان جسم ہے اس میں یہ دو قضیے تو قیاس کھلاتے ہیں تیسرا قضیہ جس کا نام لازم ہے نتیجہ کھلا تا ہے اس طرح سمجھ لیں کہ جو دو قضیے ترتیب دئے جائیں کہ ان کو مان لینے سے ایک دوسرے قضیے کا مان لینا لازم آجائے تو ان کی اہمیت مجموعی کو قیاس کہتے ہیں اور اس دوسرے قضیے کو نتیجہ کہتے ہیں

حقیقت قیاس

قیاس اصل میں ججتہ (دلیل) کی ایک صورت ہے اس کی دو دیگر صورتیں استقر اور تمثیل ہیں جن کا ذکر مناسب جگہ پر کیا جائے گا قیاس کو سمجھنے کے لیے ججتہ کو ذہن نشین کر لینے سے بہت آسانی ہو جاتی ہے

حجتہ کی تعریف

دو یا زیادہ تصدیقات (جانی ہوئیں) کو ترتیب دے کر جب کوئی نہ جانی ہوئی بات معلوم کریں تو ان جانی ہوئی تصدیق کو ججتہ اور دلیل کہتے ہیں یعنی ان کے مجموعہ کو مثلاً تم کو علم ہے کہ انسان جاندار شے ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہر جاندار شے جسم والی ہے تو ان دونوں باتوں کے جاننے سے تو یہ جان گئے کہ انسان جسم والا ہے

قیاس اور حجتہ کی تعریف سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں کتنا فرق ہے یعنی قیاس میں وقپیے ماننے کے بعد ایک تیراقضیہ بھی ماننا پڑتا ہے اور حجتہ میں دو تصدیقات ترتیب دے کر ایک نامعلوم بات معلوم کی جانی ہے قضیہ اور تصدیق میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ قضیہ ان مرکب الفاظ (کلام) کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں جیسے کوئی شخص کھڑا ہے اور یہی

صورت تصدیق کی بھی ہے جیسا کہ اس کی تعریف دو اقسام میں سب بیان کر چکے ہیں البتہ تصدیق اپنے معنی و ضرورت اور مقام پر قائم ہے

قياس کی اقسام

قياس کی دو قسمیں ہیں اول قیاس استثنائی (شرط لیکن ہو) دوسرے اقتراضی (شرط نہ ہو) جاننا چاہئے کہ پھر ہر قیاس کی ایک صورت ہے اور ایک مادہ ہے بہ اعتبار مادہ کے قیاس کی پانچ اقسام ہیں (1) قیاس برہانی (2) متاجدی (3) قیاس خطابی (4) قیاس شعری (5) قیاس فسطی۔ پھر قیاس برہانی کے تحت اس کی چھ قسمیں ہیں (1) اولیات (2) فطريات (3) حدسيات (4) مشاهدات (5) تجربات (6) متواترات۔

ان تمام اقسام و صورتوں اور مادوں کی تشریح بوقت ضرورت اپنے مقام پر کریں گی یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ حکماء مشاهدات و تجربات اور عقل و قیاس اور تجربات و مشاهدات کے تحت کی گئی ہیں درحقیقت یہ سب قیاس کے متعلق ہیں ان سب کی بحث بہت طویل ہے البتہ ضرورت کے مطابق اپنے مقام پر انکار ذکر دیا جائے گا اس وقت یہی مفید اور لازم ہے

قياس کی اہمیت

قیاس کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگائیں کہ دنیا میں ہر قسم کی تحقیقات میں اس کی ضرورت لازم ہے اور خاص طور پر تحقیقات الایشیاء تھیں اس کا درجہ بہت بلند ہے کیونکہ خواص الایشیاء ہمیشہ ہماری سابقہ معلومات کے تحت کسی موجودہ دوائے کے ظاہری حالات اور صورتوں کے مطابق اندازہ لگانے سے ہی ہماری عقل اس امر کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اس دوائیں بھی اس قسم کے افعال و اثرات پائے جانے چاہیے پھر اس کے بعد اس کے مطابق تجربات کرتے ہیں اور تجربات کے وقت اس کی عملی صورت میں یہی وہ افعال و اثرات اور خواص صحیح ثابت ہوں یا ان میں کمی یا بیشی ثابت اور ظاہر ہو جائے بہر حال قیاس ہی ایک ایسی طاقت ہے جس نے تجربات اور معلومات کی طرف رہبری کی ہے

علامہ نفیس کی تشریح

قیاس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے علامہ نفیس کی یہ تشریح قابل تعریف ہے کہ ”قیاس کے معنی یہ ہیں کہ دوائی کی ظاہری حالات سے اس کے مخفی حالات پر استدلال پیش کی جائے“

اس امر کے جواب میں کون سی چیز انسان کو دوائے کے تجربات کے لیے مائل کیا کرتی ہے فرماتے ہیں کہ ”کسی دوائے کے متعلق کوئی قیاس رہبری کرتا ہے اور

انسان اس قیاس کی رہبری کی تصدیق کے لیے تجربہ کے ذریعے اس کی آزمائش کر لیتا ہے مثلاً کسی دوا کے متعلق کسی وجہ سے یہ قیاس و خیال قائم کیا گیا ہے یہ دو اگر م ہے اس خیال کی تصدیق کے لیے جب تجربہ کیا گیا تو واقعی وہ دوا قیاس کے مطابق گرم ثابت ہوئی۔ اشیا کے افعال و اثرات اور مزاج و دیگر خواص انسانی علم میں کیونکر آئے اس کے متعلق شیخ الرئیس اور دیگر متقدیمین کی تصریحات یہ ہیں کہ ”اس قسم کی ساری باتیں محض قیاس اور تجربہ کی رہبری سے انسان کے ذخیرہ معلومات میں جمع ہوتی ہیں“

تجربات کے متعلق ایلوپیٹھی کی غلط فہمی

ایلوپیٹھی اپنی موجودہ علمی تحقیقات (ماڈرن میڈیکل سائنس) کے پیش نظر اس امر پر فخر کرتی ہے کہ وہ تجرباتی ہے اور اس کے مقابلے میں قدیم علوم غیر تجرباتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایلوپیٹھی کی ماڈرن سائنس کو تجربات کی حقیقت اور افعال کا علم نہیں ہے اور افسوس کہ ہمارے اطباء نے بھی سائنس کے جادو میں تجربات کی حقیقت کا علم نہیں ہے اور انہوں نے بھی سائنس کے جادو میں تجربات کی حقیقت اور افعال کو بھلا دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ تجربات بلکہ مشاہدات وغیرہ دیگر تجرباتی صورتیں سب قیاس کی اقسام در اقسام میں شریک ہیں اور ان کے نتائج بغیر قیاس کی تعین اور حاصل نہیں ہو سکتے گویا

قیاس کے بغیر ہمارا ہر تجربہ نامعقول ہے
 علامہ نقیس تجربہ کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ ”کسی دوا کو بدن میں پہنچا کر اس
 کے اثرات کا امتحان کیا جائے یاد رکھیں کہ تجربات کا یہ امتحان بغیر قیاس کے
 متعین کئے افعال اور اثر کے بغیر ناممکن ہے کیونکہ جن مقاصد کے لیے
 تجربات حاصل کرنے ہیں ان کے لیے مقدار خوارک و ماحول اور وقت و
 استحالہ کا تعین ضروری ہوتا ہے

قیاس کا عمل بالفعل

علامہ نقیس نے قیاس کے معنی اس طرح بتائے ہیں کہ ”قیاس دوا کے ظاہر
 حالات سے اس کے مخفی حالات پر استدلال کرتا ہے“
 اسی طرح شیخ الرئیس نے القانون میں وضاحت کی ہے کہ ”گاہے قیاس کے
 قوانین و اصول ادویہ کے ان افعال و اثرات سے اخذ کئے جاتے ہیں جو
 ہمیں پہلے سے معلوم ہیں جن سے ہمیں بطریق استدلال و قیاس ادویہ کے
 نامعلوم تاثرات کے لیے نمایاں رہبری حاصل ہو جاتی ہے“

ان دونوں بیانوں کا مقصد یہ ہے کہ کسی دوا کی بعض نصوصیات اور صفات
 ہمیں معلوم ہیں لیکن مکمل افعال و اثرات کا ہمیں علم نہیں ہے بس اسی علم کو
 حاصل کرنے کے لیے قیاس ہماری مدد کرتا ہے اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ

ہمارے سابقہ تجربات و مشاہدات اور معلومات کی دوائے ظاہری حالات میں اس کے افعال و اثرات کی طرف عقلی راہنمائی کرتے ہیں پھر تجربات کی روشنی میں یہ استدلال عقلی خواہ قیاس کے مطابق ثابت ہوں یا ان میں کچھ کمی بیشی ظاہر ہو اس صورت میں سے یہ نتیجہ نکلا کہ قیاس کی ہی روشنی میں تجربات مکمل ہو سکتے ہیں گویا قیاس کو تجربات پر فوقیت حاصل ہے یعنی اگر ہمارے پاس قیاسی علم نہیں ہے تو ہم تجربات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور اس حیثیت سے بھی قیاس کو تجربات پر افضلیت حاصل ہے کہ بغیر قیاس کے ہم کسی غذا و دواؤ اور شے کو تحریر نہیں کر سکتے ممکن ہے کہ ایک مہلک زہر ہو اور اس کا قرب ہی باعث موت بن سکتا ہے

قیاس کی تجربہ پر اہمیت

علامہ نفیس تجربہ کی اہمیت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”تجربہ سے دوائی کی تاثیر کا یقین حاصل ہو جاتا ہے اور قیاس سے یہ یقین حاصل نہیں ہوتا اور قیاس میں اکثر غلطیاں بھی ہو جایا کرتی ہیں“، ماذر ان سائنس بھی تجربات اور قیاس کی یہی تعریف کرتی ہے مگر اس تعریف سے قیاس کی اہمیت و افضلیت اور اولیت میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ بغیر قیاس کے تجربات بے معنی ہیں اور تجربات کو زیادہ سے زیادہ قیاس میں عقلی فیصلہ کا مقام دیا جا سکتا

ہے یعنی جب قیاس معلومات اور استدلال میں تجربات کی علامات پر فیصلہ کرتی ہے بس وہی تجربہ بن جاتا ہے لیکن اگر تجربات کے سامنے نلط قیاس رکھے جائیں تو تجربات یقیناً نلط ہوں گے اس سے ثابت ہے تجربات اصدقیات بدیہی ہیں مقصد یہ ہوا کہ قیاس کی بنیاد بھی دراصل سابقہ تجربات پر ہوا کرتی ہیں جو آئندہ نئے تجربات کے لیے راہنماء بن جاتے ہیں اور یہی عمل نہ صرف تحقیقات بلکہ تہذیب و تدنی اور ثقافت کے لیے جاری رہتا ہے

ترتیب قیاسی مقدمات

جب ہم کسی نئی دوای کے افعال و اثرات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو تین صورتیں ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں

1- ہمارے سابقہ تجربات و مشاہدات اور معلومات

2- کسی نئی شے کی خصوصیات اور صفات کو ہمارے گزشتہ تجربات و مشاہدات اور معلومات سے تطابق اور ہم آہنگی کا پیدا ہونا

3- حقیقت کو جاننے کے لیے تجربات کا فیصلہ حاصل کرنا

گویا تحقیقات کی حقیقت یہ ہے کہ ہم قیاس سے تجربات کی طرف آتے ہیں اور پھر انہی تجربات پر مزید قیاس کر کے تجربات سے حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں دراصل تحقیقات کا یہی مقصد ہوا کرتا ہے ان تحقیقات میں اس امر کو ضرور

مد نظر رکھیں کہ انسان کے سابقہ تجربات و مشاہدات اور معلومات جس قدر وسیع ہوں گے اور ساتھ ہی حکم و حدث کی جس قدر طاقت زیادہ ہوگی اسی قدر نتائج اس کے مرتب ہوں گے اور تجربات بھی قابل اعتماد حاصل ہو سکتے ہیں اس لیے تحقیقات و تجربات قابل اعتماد حاصل ہو سکتے ہیں اس لیے تحقیقات و تجربات اور تصدیقات کے لیے صرف علماء اور حکما کو، ہی مقام حاصل ہے اسی لیے علامہ نفیس نے لکھا ہے ”تجربہ کا طریقہ اور عمل طبیب اور غیر طبیب دونوں کی لیے برخلاف ازیں کا طریقہ صرف فاضل اطباء کے لیے مخصوص ہے“

قیاس کے مبادیات اور ان کی شریع

قیاس میں جن پر استدلال سے بحث کی جاتی ہے وہ مبادیات درج ذیل ہیں جو مواليہ ثلاثۃ کی کسی شے میں پائے جاسکتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ پانچ ہیں (1) قوام (2) استحالہ (3) رنگ (4) بو (5) ذات۔ ان کے علاوہ وہم اور اک وجد ان اور دینی معلومات کے ذریعے بھی قیاس و معلومات کا ایک سلسلہ جاری ہے

معیار استدلال

قياس جن مبادیات سے استدلال کیا جاتا ہے اس کا معیار طب قدیم میں کیفیات میں مقرر کیا گیا ہے جس سے مزاج و اخلاط اور درجات مقرر کردے گئے ہیں مثلاً طب قدیم میں ہر سرد شے جہاں جسم میں سردی تری کی کیفیات پیدا کرتی ہے وہاں پر یہ مولد بلغم بھی ہے پھر جسم پر اس کا خاص قسم کا اثر ہے اسی طرح جب کوئی شے جسم میں سردی خشکی پیدا کرتی ہے تو پھر خاص قسم کا مزاج ہے جس کے ساتھ جسم میں سودا پیدا ہوتا ہے ایسے ہی گرم تراشیا سے خون اور گرم خشک اشیا سے صفراء پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ان کے معتدل اور ایک سے لے کر چار تک درجات ہیں کسی شے میں سردی زیادہ اور تری کم ہوتی ہے کسی میں سردی کم اور خشکی زیادہ ہوتی ہے یہی صورتیں گرم اشیا میں بھی پائی جاتی ہیں انہی کیفیات و مزاج اور اخلاط سے یہی ادویات ایک طرف محرک و مسکن اور محل و قاتل وغیرہ افعال و اثرات جسم میں پیدا کر دیتی ہیں تو دوسری طرف لمین و مسبل اور حابس و قابض وغیرہ کی صورتیں ظاہر ہو جاتی ہیں گویا بنیادی قیاس میں معیار استدلال کیفیات و مزاج اور اخلاط مقرر کیا گیا ہے مثلاً ہر چرچہ پر ہ مزاج جسم میں گرمی خشکی اور اخلاط میں صفراء پیدا کرتا ہے پھر طب قدیم میں صفراء کے خواص و اثرات مقرر ہیں جو جسم انسان پر فعلی و کیمیائی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں یہی صورت پلیے رنگ میں بھی ہے

بالخاصہ اثرات

طب قدیم میں باوجود کیفیات و مزاج اور اخلاط کے افعال و اثرات کے ایک صورت اثرات بالخاصہ کی بھی ہے مثلاً ایک ہی کیفیات و مزاج اور اخلاط کی بعض اشیا اپنے اندر مختلف اثرات بالخاصہ رکھتی ہیں یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے کیفیات و مزاج اور اخلاط کے توازن میں فرق ہوتا ہے جس کی دلیل ان کے قوام و استحالة اور رنگ و بو میں نمایاں تبدیلی پائی جاتی ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ بالخاصہ اثرات و افعال سے کیفیات و مزاج اور اخلاط کے تعمین سے جو اثرات و افعال جسم میں پیدا اور ظاہر ہوتے ہے وہ بدل جاتے ہیں ایسا ہر گز نہیں ہے اس لیے صرف بالخاصہ اثرات و افعال جاننا کافی نہیں ہے وہ کوئی معیار نہیں ہے اس سے جسم کا علاج یقینی طور پر نہیں ہو سکتا یقینی علاج کے لیے بالخاصہ اثرات و افعال کے ساتھ شے کی کیفیت و مزاج اور اخلاط کا جاننا بے حد ضروری ہے

ایلوپیٹھی طب کی غلط فہمی

ایلوپیٹھی طب کی سب سے بڑے غلط فہمی یہ ہے کہ ان کے ہاں اشیا کی کیفیات و مزاج اور اخلاط کی صورت نہیں جس کے نتیجہ میں ان کے پاس کسی

غذا، دوا اور شے کا کوئی معیار نہیں ہے ان کے اثرات و افعال صرف بالخاصہ پائے جاتے ہیں چونکہ ایک ہی قسم کے بالخاصہ اثرات و افعال مختلف مزاج کی ادویات میں پائے جاتے ہیں جن سے ایک طرف یقینی علاج نہیں کیا جاسکتا دوسری طرف بالخاصہ صورتوں کے درجات مقرر نہیں کئے جاسکتے مثلًا سوڈا کارب، بادیان اور زنجیل تینوں بالخاصہ دافع ریاح ہیں مگر کیفیات و مزاج اور اخلاط میں ان کے اندر غیر معمولی فرق پایا جاتا ہے

ایلو پیٹھی طب اپنے علاج میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے خواص الاشیاء میں کیفیات و مزاج اور اخلاط کو شامل نہ کرے یہی وجہ ہے کہ ان کی بالخاصہ تجربہ ادویات ہر پانچ دس سال بعد بدل جاتی ہیں کیونکہ مزید تجربوں کے بعد وہ پہلی ادویات چھوڑ دیتے ہیں اگر ان کے علم الادویہ میں ہر دوا کی کیفیات و مزاج اور اخلاط شامل ہوں تو پھر ان کے مزید تجربات کے بعد بھی پہلی ادویات شامل علاج رہیں اور اپنے اپنے مقام پر وہ استعمال کی جاتی ہیں ان میں بالخاصہ مزاج کے ساتھ یہ خرابی بھی پیدا ہو گئی ہے کہ ادویات افعال و اثرات صرف قتل جراشیم تک محدود ہوتی جا رہی رہیں ان کے علاج میں ناکامی کا یہی سب سے بڑا راز ہے

قیاس کے مبادیات پر تحقیقات

قیاس کے جن مبادیات پر تحقیقات اور بحث کی جاتی ہے ان کے متعلق ہم لکھے چکے ہیں کہ پانچ ہیں (1) قوام (2) استحالہ (3) رنگ (4) بو (5) ذات۔ یہ پانچ مبادیات تو دوا کی ظاہرداری پر دلالت کرتی ہیں ان کے علاوہ تین استدلال اور بھی ہیں جو کسی نئی دوا کی تحقیق میں بے حد مدد و معاون ہوتے ہیں (1) وہم وجود (2) ادراک و دینی معلومات (3) مشاہدہ عمل

یہ تین استدلال ہمیں قیاس کے مبادیات کو یقین کے ساتھ تحقیقات کی طرف لاتے ہیں یا ان میں یقین پیدا کر دیتے ہیں مثلاً رنگ پر ہی اگر غور کریں تو ہر صاحب علم اور اہل فن جانتا ہے کہ فطری رنگ صرف تین ہیں نیلا، پیلا اور سرخ مگر دنیا کی کسی شے میں یہ تینوں رنگ اپنی خالص صورت میں نہیں پائے جاتے ہیں ہر ایک اپنی کمی بیشی کے لحاظ سے دوسرے رنگ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جیسے کہیں بھی گرمی یا سردی بغیر تری یا خشکی کے نہیں پائی جاتی اسی طرح کبھی بھی یہ خالص حالت میں نہیں پائے جائیں گے کہ ہم نیلا پیلا اور سرخ کے لئے کوئی حد مقرر کر لیں اس لیے ان تینوں بنیادی رنگوں سے بے شمار رنگ پیدا ہو گئے ہیں

یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی رنگ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم کو اس کی طرف یہ قیاس کرنا پڑے گا کہ اس میں نیلا پیلا اور سرخ رنگ کس مقدار میں

پائے جاتے ہیں اور پھر ان کی ترکیب ثانی سے جو صورتیں اور اثرات پیدا ہو جاتے ہیں وہ کیا ہیں مثلاً سبز رنگ جو نیلے اور پیلے کا مرکب ہے اسی طرح نارنجی اور ارغوانی رنگوں پر بھی غور کرنا پڑے گا اور پھر ان کے اثرات و افعال کا تعین عمل میں لایا جائے گا اسی طرح باقی قیاس کے مبادیات پر بھی غور کیا جاسکتا ہے اس کی تفیصیل درج ذیل ہے

قوام

قوام کے معنی ہیں کسی شے کے لطیف و بسیط اجزاء کا باہمی تعلق اور مضبوطی کا ہونا یعنی اس کے اجزاء کی آپس میں اکٹھے رہنے کی صورت کیا ہے اس کے لیے حکماء نے تمیں صورتیں بیان کی ہیں (1) تبخری (گیس) (2) سیال (لیکوئید) (3) جامد (سالڈ)

پھر ان تینوں کی اپنے میں میں کئی صورتیں ہیں مثلاً کسی تبخر شے کا تبلیق کس قدر سیال شے کے ساتھ ہے یا کس قدر تعلق جامد شے کے ساتھ ہے اسی طرح سیال اور جامد کے تعلقات سے جو صورتیں پیدا ہوتی ہیں ان کی شکلیں بن جاتی ہیں اگر ہم خالص تبخر (جیسے پانی کے بخارات کا انہنا) اور خالص

پانی (جود گیر تمام اجزاء سے پاک ہو) اسی طرح خالص جامد جیسے مٹی (جود گیر تمام عناصر سے پاک ہو) جو عام طور پر عناصی کی ترکیب ثانی ہوتے ہیں، کے مزاج و خواص اور افعال و اثرات کو سمجھیں تو پھر ان کی ترکیب اولیٰ (ابتدائی مرکبات) اور ترکیب ثانی (ثانوی مرکبات) کو بھی سمجھ سکتے ہیں اس طرح ہم قوام کی ہر شکل کے خواص و فوائد اور اثرات و افعال کو اچھی طرح ذہن نشین کر سکتے ہیں

لزوجیت و دھنیت اور وزن

قوام میں تغیر و سیال و جامد اشیا کی صورتوں میں میشی سے پران کے وزن میں فرق پڑ جاتا ہے، وہاں ان میں لزوجیت (لیسدار) اور دھنیت (روغن) پیدا ہو جاتا ہے گویا وزن و لزوجیت اور دھنیت قوام کی مختلف شکلیں ہیں جب ہم خالص وزن و لزوجیت اور دھنیت کے بھی مزاج و خواص اور افعال و اثرات ہم خالص وزن و لزوجیت اور دھنیت کے بھی مزاج و خواص اور افعال اثرات مقرر کریں گے تو لا محالہ ہمارے سامنے قیاس کے مبادیات پہلی صورت کی ایک عمل زبان بن جائے گی یعنی جہاں کہیں بھی ہم قوام کی صورتیں دیکھیں گے، وہاں پر اس کے مادی اثرات و افعال اور مزاج و خواص کی نفی کرنے ہاتھ باندھ نظر آئیں گے اور ہم تحقیقات الاشیا میں بے حد

آسانیاں پیدا ہو جائیں گی یہ سب کچھ قیاس کی برکتیں ہیں

مدارج قوام کی تحقیقات

قام کے مختلف مدارج کی صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکمانے ان کے لیے چند اصلاحات مقرر کی ہیں، ہم ان کی تشریح و توضیح بیان کر کے ان کے افعال و اثرات اور مزاج و خواص قلب و عضلات پر بیان کرتے ہیں تاکہ تحقیقات الاشیاء خصوصاً فوائد الادویہ سمجھنے میں سہولتیں پیدا ہو جائیں

قام میں لطافت و کشافت اور غیر محلل

قام کے لحاظ سے ہر شے تین حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے (اول) لطافت ایسی شے جو کسی محول یا جسم انسان میں داخل کر دی جائے اور اس سے متاثر ہونے کے فوراً بعد اپنا جسم چھوڑے اور باریک باریک اجزا میں تقسیم ہو کر اس محول میں حل ہونا شروع ہو جائے اس لطافت کی وجہ اس کی حرارت ہے جو اپنی حدت سے فوراً منتشر کر دیتی ہے لیکن لطافت کا مفہوم اس طرح ذہن نشین نہیں ہوتا کیونکہ لطافت اور تحلیل میں کوئی قریب کی مناسبت نہیں ہے لطافت کا صحیح تصور ہمیشہ کسی شے کی نزاکت اور خالص پن پر کیا جاتا ہے نزاکت سے بھی مراد یہ ہے کہ وہ شے اپنی لطافت کی وجہ شے کثیف اور غیر

اجزا کو برداشت نہیں کر سکتی اس لیے کسی شے سے فوراً متاثر ہو کر ذرہ ذرہ اور پاش پاش ہو جاتی ہے یا الگ الگ ہو کر کسی شے میں جذب ہو جاتی ہے جاننا چاہئے کہ اس کائنات اور زندگی کی ہر شے کی لطافت حرارت سے پیدا ہوتی ہے جو شے بھی جس قدر حرارت سے دور ہوتی جاتی ہے وہ کثیف ہوتی ہے چار عصر میں ہم نے حرارت کو انتہائی لطیف سمجھ لیا ہے جو صرف رگڑ سے پیدا ہو جاتی ہے جس کی شدت آگ پیدا کر دیتی ہے اس کا مزاج ہم نے گرم خشک تسلیم کیا یعنی ایسی حرارت جس میں رطوبت کا شائبہ تک نہیں ہے گویا یہ کیفیات کا اولین رکن ہے پھر جس کسی رکن میں حرارت کا جزو جس حد تک داخل ہو گا اس میں لطافت پائی جائے گی اور رکن خالص کہلائے گا کیونکہ حرارت اپنی شدت سے کثافت کو دھو دیتی ہے اور اس کو لطافت و نزاکت اور خالص بنادیتی ہے

تبخیر کا خالص پن

تبخیر (گیس) ہوا کی صورت میں ایک خالص رکن اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جب پانی سے پیدا کی جائے اور اس کا خالص پن بھی اس وقت تک رہ سکتا ہے جب تک اس میں گرمی کا اثر باقی ہے سرد ہونے پر اس میں غیر لطیف اور ناخالص ہوا شامل ہو کر اس کو اپنی طاقت کے مطابق کثیف کر دیتی ہے خالص

پانی کے بخارات لطافت کی ایک بہترین مثال ہے انہی بخارات یا ہوا گرم تر ہے ہر قسم کی ہوا کو ہم گرم تر نہیں کہ سکتے جب ہوا میں گرمی ختم ہو جاتے ہی تو اس میں برودت کے ساتھ ساتھ کثافت بھی پیدا ہوتی جاتی ہے تو اس وقت ہوا پانی کی صورت میں قطرے بن کر ٹپک پڑتے ہے جس کو ہم شبِ نم بارش اور الوں کا نام دیتے ہیں

سیال کا خالص پن

خالص سیال وہی ہو سکتا ہے جب خالص پانی تبخیر سے حاصل کر کے پھر اس کو گرم کیا جائے یا خالص ابلجتے ہوئے پانی کے دوقطرے جو شبِ نم کی طرح دیکھی کے ڈھلنے پر رک جاتے ہیں جب اس قسم کے حاصل کئے ہوئے پانی کا درجہ حرارت اعتدال پر آتا ہے تو اس کو خالص پانی کہتے ہیں اس کا مزاج سرد تر ہے جوں جوں اس میں سردی بڑھتی جاتی ہے اس میں دیگر عناصر بذریعہ ہوا شامل ہو کر اس کو ناخالص کر دیتے ہیں گویا حرارت کا اعتدال پانی کے لطیف ہونے کی بہت حد تک ضمانت ہو سکتا ہے

جامد کا خالص پن

جب پانی ایک عرصہ تک کسی بوتل میں پڑا رہے تو اس کے نیچے کوئی شے میٹھی

ہوئی نظرائے گی یہ پانی کی بالکل ایسی ہی کثافت ہے، جیسے ہوا میں سردی لگنے سے پانی کی شکل نمودار ہو جاتی ہے بہی جامد کا خالص پن اور مٹی کی لطافت ہے اس کا مزاج ہم سر دخشک رکھتے ہیں

لطافت کے افعال و اثرات

ہر لطیف شے میں اپنی مناسبت سے حرارت ہو گی اس کی حرارت کی وجہ سے اس شے میں ذیل کے خواص پیدا ہو جاتے ہیں (1) ہلاکاپن (2) خالص پن (3) جلد قابل حل۔ جب کوئی لطیف شے تحقیقات میں ہمارے سامنے آئے گی تو اس کے ساتھ ہی تصورات بھی پیدا ہوں گے اور جب ہم کسی شے میں لطافت پیدا کریں گے اس کے ساتھ ہی یہ تصورات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں

لطافت کے مدارج

مدارج کے لحاظ سے اگر لطافت کو دیکھا جائے تو ہر تجیری وسیال اور جامد شے میں ایک بنیادی صورت کے ساتھ جیسا کہ ہم ان تین صورتوں میں بیان کر چکے ہیں ہر صورت میں حرارت کی کمی کے ساتھ ساتھ ان میں لطافت کی کمی پیدا ہو جائے گی جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں لطافت ہمیشہ حرارت کی دلیل ہے

بس یہی صورت میں ہر تجیری و سیال اور جامد میں غور سے دیکھیں اور ان کا مزاج مقرر کر دیں اطباقي دیم نے انتہائی لطافت آگ میں پیش کی ہے کیونکہ وہ رگڑ سے پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے درمیان کوئی مادہ نہیں ہوتا بس آگ انتہائی لطیف رکن ہے اور اس کی مناسبت سے حرارت انتہائی لطیف ہے ہوتی اسی تعلق سے جن اشیا میں لطافت زیادہ ہو گی اس کو حار کا درجہ دیا جائے یہی لطافت کی صحیح تشریع ہے

مثال

جب لطافت کے مدارج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کسی شے کا قوام یا وزن دیکھیں گے تو اس کی تجیری و سیال اور جامد تینوں صورتیں ہمارے سامنے ہوں گی یعنی تجیری میں اس کے بخارات کس قسم کے ہیں سیال میں انتہائی رقيق ہے یا لعابی و نیم سیال ہے اسی طرح جامد میں انتہائی سخت ہے یا اس کے اجزاء آسانی سی جدا جدا ہو جاتے ہیں

اسی طرح وزن کے لحاظ سے بھی جب ہم ایک دوا کارنگ و باؤ اور مزاد دیکھنے کے بعد جب وزن دیکھیں گے اگر یہ معلوم ہوا کہ جو قوام و وزن قیس کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کی لطافت ہی اس قیاس کے لیے ایک راونمائی کا باعث بن جاتی ہے

کثافت

دوسری کثافت کا تصور لطافت کے بالکل برعکس ہے یعنی ایسی شے جو کسی محلول یا جسم انسانی میں داخل کر دی جائے تو اس سے متاثر ہونے کے فوراً بعد اپنا جسم نہ چھوڑے اور نہ ہی اپنے اجزاء کو چھوڑ کر محلول یا جسم میں حل ہونا شروع ہو جائے گویا اس کی حرارت میں اس قدر کمی ہے کہ وہ اس کو جلد تحلیل نہیں کر سکتی گویا کثیف شے بطي التاشیر ہے اور لطیف شے سریع التاشیر ہے اور مناسبت سے سریع الہضم غذاوں کو غذاۓ کثیف کہتے ہیں اسی طرح جواشیا فضا میں فوراً تحلیل ہو جاتی ہیں وہ لطیف میں جیسے عطر اور دیگر بوئیں وغیرہ اور جواشیا فضا میں تحلیل نہیں ہو سکتیں وہ کثیف ہیں جیسے تیل وغیرہ یا ایک کثافت کے معنی غلیظ شے ہیں جو لطافت رقیق کے مقابلے میں ہوتی ہے یا ایک کثیف (بوجھل) شے کا لطیف (بہکی) تے اندازہ کر سکتے ہیں گویا ہر فوراً تحلیل ہونے والی اور اثر کرنے والی رقیق شے لطیف ہوگی اور اس کے برعکس جو شے فوراً تحلیل نہ ہو اور فوراً اثر کرے بلکہ شقیل ہو کثیف شے ہوگی اس طرح کسی شے کے قوام کو سمجھا جا سکتا ہے اسی طرح دوا کی لطافت اور کثافت کو کسی شے پر لگا کر بھی سمجھا جا سکتا ہے مثلاً وہ اس میں فوراً نفوذ کر جائے یا جسم پر لگا کر ماش کر کے بھی اس کے اثرات کو

معلوم کیا جاسکتا ہے لطیف شے نہ صرف جسم میں فوراً جذب ہو جاتی ہے بلکہ اس مقام کو گرم کر دیتی ہے اور وہاں پر دورانِ خون تیز ہو جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کثیف اشیا میں یہ اثرات نہیں پائے جاتے بلکہ بعض کثیف اشیا جسم پر نہ اثر کرتی ہیں، نہ کیفیت پیدا کرتی باقی رہے ان کے خواص تو ان کے متعلق قیاس سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کا اثر اعصاب پر ہے یا طحال و غدد پر ہوتا ہے

معتدل

(تیرے) ایسی اشیا قوام کے لحاظ سے تو لطیف یا کثیف ہوتی ہیں لیکن جب وہ کسی محلول یا دیگر شے یا جسم میں داخل ہوتی ہیں تو اپنے خاص اثرات کے تحت اس کو فوراً متاثر کر دیتی ہیں اور پھر اس کا ایک معین قوام بنادیتی ہیں جیسے جب ترش یا کھاری اشیا ملتی ہیں تو اول ان میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے پھر وہ دونوں یک جان ہو جاتی ہیں دوسری مثال جب کوئی شے دوسری شے کے ساتھ ملے اس کو آگ لگادے جیسے سمندر کی جھاگ پر اگر لیموں نچوڑ دیا جائے تو اس جگہ آگ سی لگ جاتی ہے

تیری مثال:- جب دو ایسی اشیا آپس میں ملیں تو وہ ایک دوسری کو تحلیل کر کے مخلوط بنا دیں جیسے نیلا تھوٹھا کوسوڈا فاسفیٹ یا اس طرح کے مرکب

سے مل کر گڑ جائے تو دونوں بامہم محلول ہو جائیں
چوتھی مثال:- جب کسی بد بودار یا متعفن شے پر کوئی شے ڈالی جائے تو اس کی
اور تعفن فوراً دور ہو جائے وغیرہ وغیرہ

قوم کے مدارج

انہی لطیف و کثیف اور معتدل اشیاء میں مختلف مدارج پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں مختلف صورت و شکل کی اشیا نظر آتی ہیں جیسے (1) جامد (2) نیم جامد (3) لیسدار (4) بھر بھری (5) لعابدار (6) روغنی (7) بہنے والی وغیرہ

(1) جامد۔ ایسی اشیاء جن کے اجزاء بامہم اکٹھے ہوں اور وہ سیال کی طرح بہنے والی نہ ہو اس میں ہر سے لطافت، کثافت اور معتدل اثرات کے وجہ سے ان کے وزن میں ہلکا اور بھاری پن پیدا ہو جاتا ہے جو ان کے مزاج پر دالت کرتے ہیں

(2) نیم جامد۔ ایسی اشیاء جن کے اجزاء بامہم اکٹھے ہوں آسانی سے الگ ہو سکیں جیسے سلا جیت اور رب وغیرہ

(3) لیسدار۔ ایسی اشیاء جن کے اجزاء اپس میں ایسے ملے ہوئے ہوں جن کو اگر جدا کیا جائے تو وہ پھیل جائیں اور بامہم آپس میں جڑے رہیں جیسے

گندہ بیروزہ اور شہد وغیرہ جن کو لزنج کہتے ہیں

(4) بھر بھری۔ ایسی اشیاء جن کے اجزاء آپس میں اس طرح جڑے ہوں کہ اگر ان پر ذرا سادبا وڈا لا جائے تو وہ چھوٹے چھوٹے اجزاء میں ریزہ ریزہ ہو جائے جیسے سقمو نیا اور مصبر وغیرہ ان کو ہش کہتے ہیں

(5) لعاب دار۔ ایسی اشیاء جن کے اجزاء بآہم ایسے ملے ہوئے ہوں کہ جب ان کو پانی میں ڈالا جائے تو وہ آپس میں جدا ہو کر پانی میں مل جائیں اور اس میں لعاب پیدا کر دیں جیسے گوندا اور خطمی وغیرہ

(6) رونگٹی۔ ایسی اشیاء جن کے اجزاء آپس میں ایسے ملیں کہ ان میں دھنیت پیدا کر دیں ایسی اشیاء چربی سے لے کر بہنے والے تیلوں تک پائی جاتی ہیں

(7) بہنے والی۔ ایسی اشیاء جن کے اجزاء بآہم ملے ہوئے تو ہوں مگر جامد نہ ہوں اور آسانی سے الگ ہو جائیں اور پھر آسانی سے مل بھی سکیں اور وہ ہر شکل قبول کر لیں جیسے پانی اور دیگر بہنے والی اشیاء اشیاء میں وزن کی کمی بیشی

تحقیقات و تجربات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جن اشیاء میں حرارت کی زیادتی پائی جاتی ہے ان میں گندھک اور فاسفورس کے اجزاء زیادہ پائے جاتے ہیں ایسی اشیا وزن میں بلکی ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں جن اشیاء میں مٹی اور چونے کے اجزاء زیادہ شامل ہوں ان میں حرارت کی کمی ہوتی ہے اس لیے ان میں وزن زیادہ پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پتھریلی اور معدنی اشیا زیادہ وزنی ہوتی ہیں جیسے سونا، چاندی، پارہ، تانبा، لوہا، جست، قلعی، شنگرف، ہرتلی، سم، الفار، پتھر کا کونڈہ دیگر ہر قسم کے جمیرات اور جواہرات جن کے اندر بھی چونا زیادہ ہے وہ تمام وزنی ہیں یہاں تک کہ معدنی سیال اشیا بھی وزنی ہوتی ہیں البتہ جن میں گندھک زیادہ شامل ہوتی ہے وہ بلکی ہو جاتی ہیں

استحالہ

قوام کے بعد خواص الاشیاء کے تحقیق کے لیے دوسری راہ نما حقیقت استحالہ ہے اس کا استدلال بھی قوام کی طرح بے حد حقیقت افزائی ہے اور ہمیں بہت حد تک حقیقت کے قریب کر دیتا ہے افسوس ہے کہ جب فن میں نشووار تقارک جاتی ہے اور انحطاط اور گمراہی پیدا ہو جاتی ہے تو صاحب علم و اہل فن کی اکثریت علم و فن میں تحقیق و ترقی چھوڑ کر مجربات کی تلاش اور مجربات فروشی اپنا زندگی سمجھ لیتے ہیں

تعریف استحالہ

کسی شے کا ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا کیمیا کی اصطلاح میں دیا دو زائد اشیا کو آپس میں ترتیب دیا جائے یا ملایا جائے تو ایک نئی صورت اختیار کر لے اور ایک مختلف شے پیدا ہو جائے جس کا تعلق اور مناسبت ظاہر میں اپنی پہلی صورت میں قائم نہ رہے بلکہ حقیقی تبدیلی ہو جاتی ہے کسی شے کے استحالہ سے مراد بھی یہی ہے کہ گرمی و روشنی ہوا اور پانی یا دو یا زائد چیزوں کو ملانے اور رگڑنے سے اس شے کی ظاہری و باطنی حالت میں تبدیلیاں واقع ہو جائیں

ظاہری و حقیقی تبدیلی

کسی شے کی ظاہری تبدیلی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے قوام و مزہ اور رنگ میں تبدیلی پیدا ہو جائے لیکن وہ شے اپنی حقیقت پر قائم رہے اسی طرح کسی میں تبدیلی کا مقصد یہ ہے کہ اس شے کی ماہیت اور عناصر میں تبدیلی پیدا ہو جائے اس کو ذہن نشین رکھیں۔ قوام و مزہ اور رنگ و بو میں تبدیلی سے ضروری نہیں کہ اس شے کی ماہیت اور عناصر بھی بدل گئے ہیں البتہ اگر یہ چاروں صفات تبدیل ہونے کے ساتھ کسی دوسری شے میں مماثلت پیدا کر لیں تو

اس کی ماہیت اور عناصر میں تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے لیکن اگر ان چاروں میں سے ایک صفت بھی کم ہو تو ماہیت و عناصر میں مکمل تبدیلی پیدا نہیں ہوتی البتہ وہ شے بن سکتی ہے اس لیے کسی شے کی ماہیت کو ذہن نشین کرنے کے لیے اس کے عناصر جاننا انتہائی اہم ہے اور ان کی تبدیلی ہی اصل تبدیلی ہے یہی وجہ ہے کہ پیتل با وجود ظاہری رنگ و قوام کے سونا نہیں بن سکتا اور پارہ قوام کی کمی کی وجہ سے چاندی نہیں کھلاتی۔ سونے اور پارہ میں قوام و وزن میں انہیں بس کی کمی سے پارہ سونا نہیں بن سکا یہی صورتیں دیگر اشیا میں پائی جاتی ہے

عناصر و ماہیت

کیمیا کی اس حقیقت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ کسی شے کے عناصر ہی کی ترتیب سے اس کی ماہیت و کیفیت اور جسم بنتا ہے ظاہر طور پر کیفیت جسم بھی بد لے جاسکتے ہیں لیکن عناصر کی مکمل تبدیلی کے بغیر ماہیت بالکل نہیں بدلتی کسی شے کے خواص بالخاصہ کا تعلق اسی ماہیت کے ساتھ ہے ماہیت کے جام و کیفیت میں قوام و مزہ اور رنگ و بوکی تبدیلیوں سے اس کے بعض اثرات و افعال میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے مگر ماہیت کے خواص بالخاصہ قائم رہتے ہیں

استحالة پر استدلال

کسی شے کی تبدیلی ظاہری صورت میں جامد و محلول اور بخارات یا اس شے کے جل اٹھنے کی صورت میں ہوتی ہے یا اس کے برلنگس بخارات و محلول اور جامد کی شکل میں ہوگی اول صورت کی تبدیلی بغیر حرارت کے ممکن نہیں ہے چاہے وہ حرارت آگ و دھوپ کی ہو یا بھل کسی شے کے اثر کا نتیجہ ہو ہر حال میں حرارت لازمی ہے دوسری صورت میں حرارت کی نفی اور کسی ضروری ہے اس حقیقت سے یہ استدلال بے معنی ہے کہ ہر استحالة کے لیے حرارت ضروری ہے جو ہر شے میں حسب ضرورت پائی جائے گی اس طرح کے استحالة کو تحلیل کہتے ہیں

قیاس استحالة

تحلیل کے استدلال کو سمجھو لینے کے بعد استحالة کے قیاس کو اس طرح ذہن نشین کریں کہ استحالة میں صرف تحلیل نہیں ہے بلکہ قوام و مزہ اور رنگ و بو بلکہ دوا کی ماہیت میں کلی یا جزوی طور پر تبدیلی ضرور واقع ہوگی یہ تبدیلی بھی حرارت یا عدم حرارت یا اس کی کمی بیشی کے ساتھ ہوگی مگر اس میں یہ امر لازم ہے کہ اس کے عناصر میں ضرور کمی بیشی پائی جائے گی اور اسی مناسبت سے ہم

ان اشیا کو جن میں آگ اور حرارت کا عنصر زیادہ ہو گا وہ اس پر استدلال کرے گا اور یہی صورت عناصر کی بھی ہو گی اسی قیاس کے زیر اثر جب تجربہ کیا جائے گا تو ان اشیا میں حرارت کے اثرات زیادہ نمایاں ہوں گے یا جلد تخلیل و تبدیل ہو جائے گی یا جلد بھڑک اٹھے گی جیسے کہ گندھک اور تیل وغیرہ اور جلد تخلیل ہو جاتی ہیں جیسے نمکیات اور شکر کے اقسام وغیرہ اس قیاس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون سی شے اپنے اندر حرارت کی زیادتی رکھنے سے اور شدت سے بھڑک اٹھتی ہے یا تخلیل ہو سکتی ہے اور کونی شے کی حرارت سے جلنے یا تخلیل ہونے میں دیر اور سستی سے عمل میں آتی ہے اسی حرارت کی زیادتی کو یا عدم حرارت کو جسم انسان کے اندر بھی اسی تناسب سے سمجھا جا سکتا ہے اس تناسب کو سمجھنے کے بعد مختلف اشیا کے اثرات کے اندازے مقرر کئے جا سکتے ہیں استحالہ کے ساتھ ہی جب اشیا کی مقدار اور حجم لطافت و کثافت اور تخلیل و تکاثر بھی مد نظر رکھا جائے اور قوام و مزہ اور رنگ و بو بھی نظر انداز نہ کیا جائے تو حرارت عناصر اور ماہیت شے کی صحیح صورت کو بہت اچھی طرح تعین کیا جا سکتا ہے

حرارت غریزی اور استحالہ حرارت

اس امر سے انکار نہیں ہے کہ حرارت غریزی عام حرارت سے ایک مختلف قسم

کی حرارت ہے لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ حرارت عمومی ہر حیثیت سے حرارت غریزی میں تیزی اور معاون کا باعث بن جاتی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ حرارت عمومی کا یہ تعاون حرارت غریزی میں استحالہ کی صورت میں اضافہ کا باعث ہو سکتا ہے تو یہ عمل تاویل کچھ سمجھ میں آتا ہے اگر حرارت کو رطوبت کا مظہر تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ لازماً ماننا پڑے گا کہ وہ اپنے عمل اور تعاون میں مشترک ہو سکتے ہیں اسی طرح حرارت غریزی کی پوری طور پر مدد کی جاسکتی ہے اور انسان ذکشیری میں داخل ہونے کے لیے ایک راستہ پا سکتا ہے اور کثافتوں کو دور کر سکتا ہے

استحالہ اور کیمیا

استحالہ کا کمال یہ ہے کہ ہر شے کے متعلق یہ پورا علم ہونا چاہئے کہ دو یادو سے زائد اشیا آپس میں ترتیب دیا جائے یا ملایا جائے ان میں ایسی تبدیلی پیدا ہو کہ وہ ایک نئی صورت اختیار کر لیں اور ایک نئی شے پیدا ہو جائے جس کا تعلق اور مناسبت ظاہر میں پہلی صورت سے قائم نہ رہے بلکہ حقیقت میں تبدیلی واقع ہو جائے یعنی ان کے عناصر اور ماہیت میں تبدیلی واقع ہو جائے جیسے اونی، دھات سے اعلیٰ دھات کا بنانا اور کشتہ جات میں کسی ایک شے کے اثرات کو دوسری منتقل کرنا اشیا کے بخارات اڑا کران کی جو ہروں میں تبدیلی

کی جا سکتی ہے درحقیقت کسی شے کے استحالہ سے مراد بھی یہی ہے کہ گرمی و روشی، ہوا و پانی یادو یادو سے زائد اشیا کو ملانے اور گڑنے سے کسی شے کی ظاہری اور باطنی ماہیت و حالت اور صورت میں تبدیلیاں واقع ہو جائیں

رنگت سے قیاس

تحقیقات علم الادویہ میں قیاس کے لیے تیری صورت رنگت ہے یعنی اگر کوئی نامعلوم الخواص دوا سامنے لائی جائے جس کی مخصوص رنگت کو دیکھ کر قیاس کیا جائے کہ اس کا مخصوص رنگ فلاں معلوم الخواص دوا رنگت سے ملتا جلتا ہے شاید اس کے خواص بھی اسی معلوم الخواص دوا کے مطابق ہوں

طب قدیم میں قیاس رنگت

تحقیقات علم الادویہ میں طب قدیم رنگ سے استدلال پیش کرنا تمام قیاسات میں کمزور کیا جاتا ہے اس سلسلے میں قرثی فرماتے ہیں قیاس سے دوا کی قوتیں اور ان کی تاثیرات چند طریق پر معلوم ہوتی ہیں ان تمام باتوں میں سے سب سے زیادہ اور کمزور قیاس وہ ہے جو دوا کی رنگت سے کیا جاتا ہے اس پر ملائیں صاحب فرماتے ہیں کیونکہ ہر ایک میں مختلف اور متضاد افعال و آثار کی دوائیں پائی جاتی ہیں مثلاً چونا، فلفل سفید، خربق سفید (سفید کٹلی) یہ

سب چیزیں باوجود سفید ہونے کے گرم ہیں اسی طرح کافور، صندل سفید، سفیدہ یہ سب چیزیں سفید ہونے کے ساتھ سرد ہیں فلفل کی دونوں قسمیں گرم ہیں مگر ایک کارنگ سرخ ہے اور دوسری کا سفید۔ اور صندل کی دونوں قسمیں سرد ہیں مگر ایک کارنگ سیاہ ہے اور دوسرے کا سفید۔ رنگت کے قیاس کے ضعف کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آنکھوں میں صرف اجسام کی بیرونی اور غالب رنگتیں معلوم ہو سکتی ہیں اندر وнутی چھپی ہوئی رنگوں تک اس کی رسائی ہی نہیں ہوتی

ایلو پیتھی طب میں قیاس رنگت

ایلو پیتھی طب میں اول تو قیاس کو داخل ہی نہیں ہے وہاں صرف تجربات پر یقین کیا جاتا ہے اور ان تجربات کے تحت جو انسان پر حالت صحت یا حالت مرض میں کئے جاتے ہیں، تین باتیں مدنظر رکھی جاتی ہیں (1) ادویہ کا اعضا کے افعال پر اثر (2) ادویات سے خون کے کیمیائی عناصر میں کمی یا بیشی (3) ادویہ سے دافع جراثیم اور دافع زہرا ثرات۔ لیکن وہ رنگت کو اپنے تجربات میں داخل نہیں کرتی مگر اس امر کو ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ طب قدیم صرف قیاس کو یقین کا درجہ نہیں دیتی البتہ قیاس کو تجربات کی بنیاد اور اساس ضرور بناتی ہے اور یقین اس وقت کرتی ہے جب وہ دو اتجربات پر صحیح

اترتی ہے

مزاج اور رنگت

طب قدیم میں رنگت سے مزاج کا تعین کیا جاسکتا ہے یہی اس ناقیas ہے پھر اس کے تحت اس دوا کے جسم انسانی میں افعال و اثرات اور خواص و فوائد بالاعضاء اور بالاختلاط معلوم کئے جاتے ہیں جیسے علامہ قرشی لکھتے ہیں ”لیکن دوا کی رنگت سے اس کے آثار پر استدلال لانے کی صورت یہ ہے کہ سردی سے جسم رطب (تری) سفید ہو جاتا ہے اور خشک جسم سیاہ ہو جاتا ہے“

اس پر علامہ نقیس فرماتے ہیں ”جسم رطب کے سفید ہونے کی صورت یہ ہے کہ سردی سے اس کے اجزاء کثیف ہو کر اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے اس کے درمیان رخنے اور کشاش پیدا ہو جاتی ہے اور ہوا سے بھر جاتی ہیں کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ جب کسی جسم کے اجزاء سکڑیں گے تو یقیناً یہ جزو دوسرے جزو سے الگ ہو جانے پر مجبور ہو گا اور جس جزو سے سکڑ کر الگ ہو نگے اس کے درمیان رخنے ضرور پیدا ہو گا اس طرح ان اجزاء کے درمیان رخنے ضرور پیدا ہو گا اس طرح ان اجزاء کے درمیان سطحیں بکثرت حاصل ہو جائیں گی اور جو روشنی ان اجزاء میں داخل ہو گی اس کا عکس ایک دوسرے پر ضرور پڑے گا جیسا کہ برف اور شبہم میں دیکھا جاتا ہے اور خشک جسم کے سیاہ کرنے کی صورت یہ ہے

کہ سردی سے اس کے اجزاء سست کر سکیزتے ہیں اور ان فضاوں میں جو ہوا اور روشنی ہوتی ہے وہ سکڑنے کی وجہ سے خارج ہو جاتی ہے جیسا کہ درخت کے پتوں اور گوشت وغیرہ میں ہو جاتا ہے

گرمی کا فعل اس بارے میں بالکل برعکس ہے یعنی وہ جسم رطوبت کو سیاہ کر دیتی ہے اور جسم یا بس کو سفید۔ اس کی صورت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حرارت سے جسم رطب کے تر اور شفاف اجزاء اڑ جاتے ہیں جن میں روشنی سیدھی یا ترچھی نفوذ کر سکتی ہے اور جس سے جسم میں سفیدی پیدا ہو سکتی ہے جب یہ اجزاء اڑ جاتے ہیں تو صرف کثیف اجزاء ارضیہ باقی رہے جاتے ہیں جن میں روشنی نفوذ نہیں کر سکتی اس لیے یہ جسم سیاہ ہو جاتا ہے لیکن جب خشک جسم پر حرارت اثر کرتی ہے تو رطوبت کے زائل ہو جانے کی وجہ سے اس کے اجزاء اٹھ جاتے ہیں اور ان کے درمیان فضا میں اور کشاش پیدا ہو جاتی ہیں جن کے اندر ہوا سما جاتی ہے اور ہوا کی وجہ سے ان میں روشنی نفوذ کرنے لگتی ہے جس کا عکس ایک جز سے دوسرے جز پر پڑتا ہے اور جسم میں سفیدی پیدا ہو جاتی ہے۔

جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی حقیقت سے انکار نہیں غور کرنے پر اس میں بہت سے اسرار اور موز حاصل ہوتے ہیں لیکن یہ سب کچھ صرف سفید اور سیاہ

رنگ کے متعلق بیان کیا گیا ہے اور صرف گرمی اور تری و خشکی کی کیفیاتی اثرات لکھے گئے ہیں اور مرکب مزاجوں کو بیان نہیں کیا گیا یہ بھی جاننا چاہئے کہ سفیدی اور سیاہی کے درمیان اور بھی بہت سے رنگ ہیں جو مرکب مزاجوں سے پیدا ہوتے ہیں

رنگوں کی زبان

جاننا چاہئے کہ رنگوں کی ایک اپنی زبان ہے جب تک اس پر عبور نہ ہو تو اس وقت تک ان کو دیکھ کر کسی دوا، غذا اور شے پر نہ کوئی حکم لگایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے افعال و اثرات اور خواص و فوائد کے متعلق قیاس کیا جا سکتا ہے رنگوں کی زبان بھی بے حد و لچپ ہے ایک طرف تو کسی دوا و غذا کی طرف قیاس کیا جاتا ہے دوسری طرف مریض کے جسم و شکل اور بول و راز کی رنگت کو دیکھ کر اس کی تشخیص آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے اس زبان کو جاننا ہر حکیم کے لیے از حد ضروری ہے

اصل رنگ تین ہیں

و یہ ہم کو بیشتر رنگ نظر آتے ہیں اور ہر شے مختلف رنگوں سے رنگیں نظر آتی ہے انسان جیران ہوتا ہے کہ قدرت نے اس کائنات اور زندگی کو فطرت کے

کیسے کیسے رنگوں سے رنگا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کل رنگ صرف تین ہیں اور باقی یہ ہزاروں رنگ جو نظر آتے ہیں انہیں تین رنگوں کی جمع تفریق ضرب اور تقسیم ہیں یہ تین رنگ نیلا، پیلا اور سرخ ہیں

تین رنگوں کے امتزاج سے سات رنگ

جب ان تین رنگوں کو اس طرح ساتھ ساتھ رکھا جائے کہ اگر ان میں روشنی ڈالی جائے تو ان کی شعاعیں ایک دوسرے رنگ پر پڑیں تو ان میں اور رنگ پیدا ہو جائیں گے اور وہ تعداد میں سات معلوم ہوں گے اس کا تجربہ منشور شیشہ سے بھی کیا جاسکتا ہے جب منشور شیشہ کو دھوپ کے سامنے کیا جائے تو اس کے سرے پر سات رنگ ساتھ ساتھ نظر آئیں گے

اسی طرح تجربہ بارش کے بعد آسمان پر دیکھنے سے کیا جاسکتا ہے جہاں قوس قزوع اپنے سات ملے ہوئے رنگوں میں نظر آئے گی اسی طرح ایک قطرہ پانی کو احتیاط سے سورج کی شعاعوں کے سامنے کیا جائے تو وہاں بھی سات رنگ آسانی سے دیکھے جاسکتے ہیں جو نقشی، سرخ، نارنجی، پیلا، سبز، نیلا اور آسمانی ہیں

سیاہ اور سفید رنگ

سفید رنگ کوئی رنگ نہیں ہے بلکہ انہی سات رنگوں کے صحیح تناسب سے پیدا ہو جاتا ہے گویا سات رنگوں کا امتزاجی مجموعہ ہے یا یوں سمجھ لیں کہ ساتوں رنگ ایک اندازہ کے ساتھ میں تو سفید رنگ سے پیدا ہوتا ہے اگر سفید رنگ کو نور کہا جائے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ سات رنگ اس نور واحدانیت کی شعاعوں کا سایہ ہیں لیمارٹی میں بھی یہ تجربات کئے گئے ہیں یعنی اگر تناسب سات رنگوں کے شیشوں کو آگے پیچھے رکھ کر روشنی ڈالی جائے تو دوسری طرف دیوار پر سفید رنگ نظر آتا ہے اور اگر ایک شیشه بھی نکال دیا جائے تو پھر وہاں پر سفید کی بجائے کوئی اور رنگ ہو گا سیاہ رنگ بھی سات رنگوں کا مجموعہ ہے لیکن اس میں کوئی اندازہ اور تناسب نہ ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ سفید اور سیاہ دونوں رنگ صحیح معنوں میں حق و باطل پر دلالت کرتے ہیں

رنگوں کے اثرات

سفیدی جو نور کا رنگ ہے سات رنگوں کا مجموعہ ہے جیسا کہ لکھا جا چکا ہے اس کے بعد جو رنگ ہم کو نظر آتا ہے وہ آسمانی رنگ ہے آسمانی و سعتوں کے ساتھ اس کی کثرت کا اندازہ ہو سکتا ہے اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے کبھی سمندری سفر کیا ہو جہاں اور پر آسمان اور نیچے پانی میں ہر

طرف یہی رنگ نظر آتا ہے اسی طرح اگر گرتی ہوئی بارش کی طرف دیکھا
جائے تو اس کا رنگ بھی آسمانی ہی نظر آتا ہے

آسمانی رنگ کی حقیقت

در اصل آسمان کا رنگ آسمانی نہیں بلکہ اس کی وسعت نے اس کا یہ رنگ پیدا کر دیا ہے دوسرے زمین سے جو بخارات و دھواں اور دیگر گرد و غبار آسمان کی طرف چڑھتے ہیں وہ سفیدی پر سایہ بن جاتے ہیں اور اس میں یہ آسمانی رنگ پیدا ہو جاتا ہے جو سمندر کا رنگ ہے جن لوگوں کو سمندر دیکھنے کا تجربہ ہوا ہے وہ اس کا صحیح اندازہ لگائے سکتے ہیں یعنی جب سمندر کی طرف دیکھا جائے تو اس کا رنگ نیلا آسمانی نظر آتا ہے لیکن جب اس کو ہاتھ میں یا کسی برتن میں بھرا جائے تو بالکل سفید نظر آتا ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سمندر کے پانی کا اصل رنگ یہ نہیں ہے کہ بلکہ یہ اس کی وسعت کا رنگ ہے اصل میں سطحی نگاہ کے لیے یہ ایک خوبصورت دھوا کا ہے یہی قیاس آسمانی کی وسعتوں پر بھی کیا جاسکتا ہے آسمان کو قرآن حکیم نے دخان لکھا ہے دھو میں کا رنگ بھی آسمانی ہے گویا یہ گرد و غبار اور دھواں و بخارات ہی میں جو آسمان کی طرح نظر آتے ہیں اور بادلوں کے آنے جانے اور کمی بیشی کے باعث بارش کے ہونے اور نہ ہونے سے اس کا پورا اندازہ ہوتا رہتا ہے

آسمانی رنگ کے اثرات

کیفیت و مزاج اور ذائقہ میں معتدل پانی کے متعلق طب قدیم نے اس کو سرد تر اور بے ذائقہ کہا ہے اور تقریباً یہی اثرات ماڈرن سائنس بھی تسلیم کرتی ہے جہاں تک مزا جا سر دتر ہونے کا تعلق ہے اس کا وہ اظہار الکلی (کھار) سے کرتی ہے یعنی اس میں تیزابیت نہیں ہے یہاں پر یہ حقیقت ذہن نشین کر لیں کہ کھار کی یہ خاصیت ہے کہ اندر و فی اور بیرونی طور پر جب اس کا کسی قسم کا جسم پر اثر ہوتا ہے وہاں پر رطوبت و تری پیدا کر دیتی ہے اور رطوبت و تری کا خاصہ یہ ہے کہ وہ سردی میں تبدیل ہو جاتی ہے کھار کی دوسری بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ ترشی اور تیزابیت کو معتدل اور تخلیل کرتی ہے انگریزی میں اس کو نیوٹرل کہتے ہیں کھار کا تیرسا اثراعصا ب کو تحریک دینا ہے جس کے ساتھ غدد میں تخلیل اور طحال میں سکون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی نظریہ کے تحت تپ دق و سل (ٹی بی) کا وہ اکسیر نسخہ تیار کیا گیا ہے جس میں شدید کھار "آک" کو شامل کیا گیا ہے

پانی اور کھار

دریاؤں اور بڑی نہروں کے کنارے عام طور پر زمین شور ہوتی ہے یا شور مادہ



زیادہ پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پانی زمین کے اندر کی طرف سے یا باہر کی طرف سے اثر کرتا ہے تو اس مٹی میں خمیر پیدا ہو کر یہ شور پیدا ہو جاتا ہے، یہ شور مٹی یا اس سے تیار کیا ہوا قلمی شورہ اپنے اندر کھاری شدہ اثرات رکھتا ہے ظاہر میں تو ان کا رنگ سفید معلوم ہوتا ہے لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو سفیدی میں ہلکی آسمانی جھلک پائی جاتی ہے یہی آسمانی جھلک پانی کی گہرائی میں نظر آتی ہے اور اس کو سفیدی سے جدا کرتی ہے لیکن شدید قسم کی کھاروں کا رنگ گہرا آسمانی یا سیاہی مائل ہوتا ہے جیسے کھارجی وغیرہ ان حقائق سے ثابت ہوا کہ کھار یا کھارے اور آسمانی رنگ کی ادویات رطوبت اور ترمی پیدا کرتی ہیں اور رطوبت کی زیادتی سردی میں تبدیل ہو جاتی ہے مثلاً ہر قسم کی راکھ (پوٹاس) شور قلمی اور سہاگہ وغیرہ

سرخ رنگ کی حقیقت

تین مستقل رنگوں میں دوسرا رنگ سرخ ہے جو نیلے رنگ کی ترقی یافتہ صورت ہے جیسا کہ ہم لکھے چکے ہیں کہ نیلا رنگ دراصل سفید، جو نور کا رنگ ہے (حقیقت میں سفیدی کو رنگ کہنا مناسب نہیں ہے یہ صرف مجاز اکھا جاتا ہے نور ہر رنگ سے آزاد ہے) اس کی منقی صورت یہ ہے یعنی جب نیلے رنگ کی کسی شے میں خمیر پیدا ہوتا ہے تو اس میں سرخی پیدا ہو جاتی ہے جس کی

ابتدائی ارغوانی و کاسنی اور فاختائی رنگ ہیں جس طرح نور ظاہرہ ہر رنگ سے خالی اسی طرح وہ ہر قسم کے ذاتی اور بوسے خالی ہے ہم لکھ چکے ہیں کہ نیلے رنگ کا مزاج سرد تر ہے اور ذاتی میں کھاری ہے جب اس رنگ کی کسی شے میں خمیر پیدا ہوتا ہے تو اس میں ترشی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی رنگی نیلے پن سے سرخی میں تبدیل ہو جاتی ہے

یہ امر یاد رکھیں کہ ہمیشہ خمیر ترشی پیدا ہوتی ہے اور خمیر بغیر حرارت کے کبھی پیدا نہیں ہو سکتا یہ حرارت کبھی باہر سے اثر کرتی ہے اور کبھی اس شے کے اندر ہی سے فساد یا تعفن پیدا ہو جاتا ہے جو حرارت کا کام کرتا ہے

سرخ رنگ کے اثرات

سرخ زمین کے رہنے والے انسانوں کے مزاج میں جس طرح سرخ رنگ کے اثرات غالب ہوتے ہیں اسی طرح جن اعضا کی غذاخون کی سرخی ہے ان کے مزاج اور بناؤٹ میں سرخی غالب رہتی ہے جیسے قلب و عضلات (گوشت) کا رنگ سرخ ہے جو قویں گوشت کھاتی ہے ان پر اس کا زبردست اثر ہوتا ہے البتہ گوشت کو سید الطعام کہا گیا ہے اس لیے اسلام میں حرام گوشت کے کھانے سے انسان کو منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں خمیر اور تعفن پیدا ہو چکا ہوتا ہے اور وہ باعث فساد ہے کثرت سے گوشت کھانے

سے جسم میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے گردے سکڑ جاتے ہیں خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے فانج ہو جاتا ہے دیگر رنگوں کی طرح سرخ رنگ بھی اندر ورنی اور بیرونی دونوں صورتوں میں زندگی پرا اثر انداز ہوتا ہے سرخ رنگ کے دلکشی سے مسرت ولذت اور قوت و جذبہ میں شدت پیدا ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ خوشی کے لیے سرخ رنگ مقرر کیا گیا ہے دلہنوں کے رخساروں اور ہونٹوں کو سرخی سے سجاایا جاتا ہے ہاتھوں پر مہندی لگائی جاتی ہے سرخ جوڑا پہنایا جاتا ہے اس سے جہاں ایک طرف مسرت اور جذبہ میں شدت کا اظہار ہے وہاں دوسری طرف دلہما اور دہن کی لذت و قوت میں بیداری ہے

یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ سرخ رنگ دل سے زیادہ پسند کرتے یا استعمال کرتے ہیں ان میں جہاں لذت و مسرت کا جذبہ شدید ہوتا ہے وہاں پر ان میں قوت و خواہشات کی طلب زیادہ ہوتی ہے اگر اس میں ضرورت سے زیادہ قوت و خواہشات کی طلب ہو جائے تو اس رنگ کی طلب ختم ہو جاتی ہے

یہ جذبات تشخیص میں نمایاں مدد کرتے ہیں

گوشت کے بعد انسان جس سرخ رنگ کی شے کو زیادہ کھاتا ہے وہ مرچیں ہیں جن میں سرخی کی تمام خصوصیات پورے جوبن کے ساتھ پائی سجااتی ہیں عرب ممالک میں مرچوں کے مقابل کھجوریں یا اس سے بنے ہوئے کھانے

کھائے جاتے ہیں جو مرچوں کی نسبت زیادہ مقوی ہوتے ہیں یہی حال ان ادویات کا ہے جن کا رنگ سرخ ہے اور جن کی فہرست بہت طویل ہے

زر درنگ کی حقیقت

اصل رنگ صرف تین ہیں پہلا نیلا، دوسرا سرخ جن کی حقیقت ہم بیان کر چکے ہیں تیرا رنگ زرد ہے جس طرح سرخ رنگ کو ہم ثابت کر چکے ہیں وہ نیلے رنگ کی ترقی یا قترة صورت ہے بالکل اسی طرح زر درنگ بھی سرخ رنگ کی ترقی یا فاتح صورت ہے گویا زر درنگ دراصل سرخ رنگ سے بالکل ایسے ہی پیدا ہوتا ہے جیسے سرخ رنگ کائنات میں نیلے رنگ سے پیدا ہوتا ہے جو یہ تینوں رنگ دو صورت میں ملتے ہیں تو سات رنگ بن جاتے ہیں جن کے باہم حقیقی اتصال سے بھر سفید رنگ پیدا ہو جاتا ہے جو نور کا رنگ ہے جس طرح نیلے رنگ میں خمیر پیدا ہو کر سرخ رنگ بن جاتا ہے بالکل اسی طرح جب سرخ رنگ میں خمیر پیدا ہوتا ہے تو اس میں سرخی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور زر درنگ نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے ہم لکھ چکے ہیں کہ نیلے رنگ کا مزاج سرد تر اور ذائقہ کھاری ہے اور سرخ رنگ کا مزاج سرد خشک اور ذائقہ ترش ہوتا ہے اب زر درنگ کے متعلق یہ سمجھ لیں کہ اس کا مزاج گرم خشک ہے اور ذائقہ خام حالت میں تلخ اور پختگی میں شیریں ہوتا ہے

یاد رکھیں کہ ایک رنگ جب دوسرے میں تبدیل ہوتا ہے تو اس میں پہلے خیر پیدا ہوتا ہے یہ بغیر حرارت کے کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ کبھی بیرونی حرارت اثر کرتی ہے اور کبھی اندر مواد میں فساد و تلف پیدا ہو کر حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور رنگت میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے

زرورنگ کے اثرات

سرخ رنگ اُر بسم میں طاقت اور جذبات پیدا کرتا ہے تو زورنگ اس میں تیزی پیدا کر دیتا ہے لیکن یہ تیزی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک زرد رنگ کی مقدار سرخ رنگ کی مقدار سے کم ہو اگر زورنگ کی مقدار بڑھتی جائے گی تو طاقت اور جذبات سے تخلیل کا عمل شروع ہو جائے گا گویا زرد رنگ جسم اور فضائیں اپنی حرارت اور حدت سے تخلیل پیدا کرتا ہے خاص طور پر اس تخلیل کا اثر طحال اور ریاحی و خاکی مادوں پر اثر انداز ہوتا ہے اس لیے زورنگ کی ادویات واغذیہ ایسی صورت میں استعمال کی جاتی ہیں جب جسم میں ریاحی و خاکی مادے زیادہ ہوں یا سوزش و درم کی صورت ہو جو سب تخلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں خون میں جب صفرا (بال) بڑھ جاتا ہے تو ضعف قلب و جسم پیدا ہو جاتا ہے موت ہارٹ فیل ہونے سے واقع ہوتی ہے زورنگ چونکہ قوت و جذبات اور سوزش و تیز حرکات کو کم کرنے والا ہے اس

لیے خدا پرست اور صوفی لوگ اس رنگ کے کپڑے اکثر استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے جذبات اور خواہشات فنا ہو جائیں وارثی، صوفی اور بدهمت کا تو یہ ایک خاص لباس ہے لیکن اسلام نے دین و دنیا کو اعتدال پر رکھنے کے لیے بزرگ کو اپنارنگ تسلیم کیا ہے کیونکہ بزرگ مجموعہ ہے زر درنگ اور نیلے رنگ کا یہ درست ہے لیکن ہم کسی رنگ کو مذہب اور عقیدے کی علامت تو بنا سکتے ہیں مگر انفرادی طور پر کسی رنگ کو مستقل طور پر استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس طرح جسم پر نقصان دہ اثرات پیدا ہوتے ہیں

بو سے قیاس

تحقیقات علم ادویہ میں قیاس کے لئے چوتھی صورت بو ہے یعنی اگر کوئی نامعلوم الخواص دو اس منے لائی جائے جن کی مخصوص بمحض کر کے اس کی خاص قسم کی بو کا تعین کیا جاسکے یا اس کی مخصوص بوكی معلوم الخواص دو اسے ملتی جلتی ہونے کی وجہ سے باقی تمام قیاسات کے ساتھ اس دو کے اثرات مقرر کرنے میں سہولت ہو اس سے تجربات دو اس میں نقصان نہیں ہوتا

بو کی تعریف

شیخ الرئیس بوعلی سینا بو کی تعریف اس طرح کرتے ہیں تیز بحرارت کی دلیل

ہے اور بھینی بھینی بوجنفس اور روح کے لئے تسلیم بخش ہوتی ہے برودت کی علامت ہے اسی طرح بوکانہ ہونا بھی سردی ہی کی علامت سمجھی جاتی ہے اس کی تشریع علامہ نقیس اس طرح کرتے ہیں کیونکہ بوکا ادراک احساس بھاپ کے مانند لطیف جو ہر کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے جو بد بودار جسم سے اڑ کر قوت شامہ تک پہنچتا ہے اسی وجہ سے اس بودار جسم کے اندر بالعوم حرارت ضرور ہوتی ہے جو لطیف بھاپ یاد ہواں بنانا کراڑاتی رہتی ہے غرض حرارت بھی بالعوم بوکے پھیلنے کا باعث ہوا کرتی ہے چنانچہ جب کسی چیز کی بوکمزور ہوتی ہے تو اس کے ملنے اور دھواں بنانے یعنی گرمی پہنچانے سے بوتیز ہو جاتی ہے جیسے لوبان کو جب آگ پر ڈالا جائے تو اس کی بو بہت تیزی سے پھیلتی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثر بوسنگھانے والی اور ناک تک پہنچانے والی سے حرارت ہی ہوا کرتی ہے

بوکا اثر

اطباء قدیم لکھتے ہیں کہ بوکا ادراک اور احساس اس بھاپ کے مانند لطیف جو ہر کی وجہ سے ہوا کرتا ہے جو بودار جسم سے اڑ کر قوت شامہ تک پہنچتا ہے اسی وجہ سے اس بودار جسم کے اندر علی العوم حرارت ضرور ہوتی ہے اس وجہ سے اطباء قدیم نے قیاسات لائجہ میں جو لکھا ہے اکثر مقامات پر صادق آتا

ہے کہ تیز بوکی دوائیں عموماً بدن کے لیے باعث حرارت ہوا کرتی ہیں مثلاً پینگ، لہسن، زعفران، عنبر، مشک، جند، بیدستر، لوگ دار چینی، سنبل الطیب، پودینہ، اجوائیں اور زیرہ وغیرہ اسی طرح جس شے میں بوئیں پائی جاتی اس کے اثرات میں سردی ہے

بوکے متعلق قانون فطرت

یہ قانون فطرت ہے کہ قدرت کسی مواد کو ایک جگہ قائم نہیں رکھتی کیونکہ ہر قسم کا مادہ گردش میں رہتا ہے کیونکہ مادہ اگر کسی ایک جگہ پڑا رہے یا اکٹھا ہوتا رہے تو مواد بن جاتا ہے یا زہر میں تبدل ہو جاتا ہے یا اس کی کثرت باعث نقصان زندگی ہوتی ہے اس میں حسن و فتنہ ہر قسم کے مادے شامل ہوتے ہیں اس لئے قدرت ہر مادے کو گردش میں رکھتی ہے بلکہ دیگر مواد میں جمع تفريع کرتی رہتی ہے تاکہ وہ مادے پاک اور صاف ہوتے رہیں اسی قانون کے تحت بوہوا میں تخلیل ہو کر جمع تفريع اور شریک و جدا ہوا کرتی ہے یہی قانون بوكو قوت شامہ تک پہنچاتا ہے

اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ لطیف اشیا میں تخلیل کثیف اشیاء کی نسبت بہت جلد ہوتی ہے کیونکہ لطیف اشیا وہ ہیں جو بہت جلد حرارت قبول کر لیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کثیف قسم کی اشیا میں اگر ہو بھی توجہ تک ان میں لاطافت

پیدا نہ کی جائے ان کی بونگھی پیدا ہوتی ہے اور نہ پھیلتی ہے مثلاً حنا، دھنیا، فلفل
سیاہ وغیرہ

بو کے افعال و اثرات

جس شے کی بو شد یہ یعنی سر کہ یا شراب کی بو ہو وہ دل کے فعل کو تیز کر دیتی ہے اور جس شے کی بو میں حدت یعنی ہینگ کی بو ہو وہ دل کے فعل میں تحلیل پیدا کر دیتی ہے اور جس شے کی بو بلکی بلکی یعنی عطر گلاب کی بو ہو وہ دل میں سکون پیدا کرتی ہے انہی افعال و اثرات کے تحت نتائج صحیح آئیں گے یہ ہماری تحقیقات اسلامک طب یعنی حقیقت قانون فطرت کا کمال ہے

ذائقے سے قیاس

تحقیقات علم ادویہ میں قیاس کے لئے پانچویں اور آخری صورت مزہ ہے آیورویڈ میں رس اور انگریزی میں ثمیٹ کہتے ہیں تا شیر ادویہ میں قیاس کے استدلال میں کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے یعنی اگرنا معلوم خواص کی کوئی دوائی سامنے لائی جائے جس کے مخصوص مزہ کو محسوس کر کے اس کے خاص قسم کے مزے کا تعین کر کے اس دوایا شے کے اثرات و افعال کے مقرر

کرنے میں سہولت حاصل ہوتی ہے تاکہ تجربات میں نقصان کا کوئی خطرہ نہ رہے اس قیاس کے استدلال میں مزہ کو باقی چار قیاسات استحالہ و قوام اور رنگ و بو میں غلبہ حاصل ہے

قلب و عضلات پر ذات القوں کے اثرات

فطری چھڑائی محسوس کیے جاتے ہیں ان سے تین کیفیات پیدا ہوتی ہیں ایک کیفیت دو مزدوں سے مرکب ہوتی ہے جیسا کہ ترش و کژ و امزہ خشکی پیدا کرتا ہے اسی طرح جپہ اور نمکین حرارت پیدا کرتا ہے اور پھیکا اور شیرین مزہ تری پیدا کرتا ہے اسی طرح ہروہ شے خواہ غذا ہو یاد و ایاز ہر ہے ان خواص سے باہر نہیں ہونگے اسی لئے ہر خشکی پیدا کرنے والی شے قلب و عضلات میں سکریڈ پیدا کرے گی اور حرارت پیدا کرنے والی ہر شے قلب و عضلات میں پھیلا و پیدا کرے گی اسی طرح تری پیدا کرنے والی ہر شے سے قلب و عضلات پھول جائیں گے ہماری تحقیق قانون فطرت کی عکاسی پیش کرتی ہے

خواص اشیاء میں مفردات

یوں توہزاروں اقسام کی مفردات ویا بات کی کتب موجود ہیں جن کو مختلف نظریوں

کے تخت ان کے مزاج اور افعال درج ہیں مگر ہم تین کیفیات پر مفردات پیش کرتے ہیں جن کو اپنے مزاجوں کے لحاظ سے الگ الگ درج کرتے ہیں تاکہ سہولت پیدا ہو جائے جب کوئی نسخہ ترتیب دینا ہو معاجم کے لئے آسانی ہو اور طبیب اپنی ضرورت کے مطابق کسی مفرد شے سے علاج تجویز کرے یا وہ مرکب ادویہ استعمال کر سکے

خشکی پیدا کرنے والی مفردات

آڑو۔ آلو۔ آلو بخارا۔ آلو چہ۔ آم خام۔ آملہ۔ آہن لوہا۔ ابرک۔ اتیس۔
اجوان خراسانی۔ ارہر۔ اسپند حمل۔ سرب (سیسہ)۔ اقا قیا عصارہ کیکر۔
الماں۔ املی اور تخم۔ انار ترش۔ انگور ترش۔ باجرہ۔ بارٹنگ۔ باقلاء۔ ببول
کیکر۔ بر گد۔ بسد۔ بلوط۔ بہو پھلی۔ بہمن۔ بھنگڑہ۔ بلیلہ۔ بیلگری۔ بیر۔
بینگن۔ پوست خشکاش۔ پیپل۔ پھکلڑی۔ نج۔ تخم مویز۔ تر نج۔ تمباکو۔
جامن۔ جست۔ جلاپا۔ جوار۔ جھاؤ۔ چاکسو۔ چائے چکوتہ۔ چونا۔ چوہا کنی
بوٹی۔ چینہ۔ چھڑیلہ۔ حجر الیہود۔ حسن یوسف۔ خبث الحدید۔ خراطین۔ خس۔
خشکاش۔ دم الاخرين۔ دھتو رہ۔ رتن جوت۔ روشنائی۔ زرشک۔ سپاری۔
سر والی۔ سفیدہ۔ سلا جیت۔ سم الفارس نکھیا۔ سماق۔ سنگ بصری۔ سنگ ترہ۔
سنگ جراح۔ سنگ گھاڑہ۔ سیب۔ سیندور۔ شادونج۔ طبا شیر۔ کاکڑا۔ سینگنی۔ کا

کنج۔ کاغذ۔ کتھ۔ کٹھل۔ کچتاں۔ کر نجوہ۔ کرونڈہ۔ کلونجی۔ کمیلہ۔ کنول
 گنہ۔ کیعھ۔ گڑھل۔ گل ارمی۔ گل دہاوہ۔ گل مختوم گل ملتانی۔ گلنار۔
 گوبھی۔ گیرو۔ لوپیا۔ لودھ پٹھانی۔ لوگاٹ۔ لیموں۔ مازوئے سبز۔
 مایتا۔ مائیں۔ مچھلی۔ مرجان۔ مردار سنگ۔ مسور۔ مکی۔ مہندی۔ موٹھ۔
 موج رس۔ مول سری درخت۔ ناریل۔ ہرن کھری۔ ہیرا کیس۔
 یاقوت۔ ابھل۔ اخروٹ۔ اذراتی۔ اسطو خودوس۔ اگر۔ اسی۔ انجر۔
 اندرائی تھے۔ انڈا کا چھلکا۔ اریسا۔ مصر۔ باپچی۔ بسفانج۔ بلا در۔ بوزیدان۔
 ستارو۔ بہیر بہوٹی۔ پتھنگ۔ پرسیا و شان۔ پوست انار۔ پیاز۔ پھوکر مول
 جاوہ تری۔ جاتھل۔ جدوار۔ چڑائتہ۔ چنا۔ وینا گوند۔ چکور۔ چوف
 حیات۔ خاکسی۔ خرما۔ خرمہرہ۔ خولنجاں۔ دار چکنا۔ چینی۔ درمنہ ترکی۔ رس
 کپور۔ زراونڈ طویل۔ زوفا۔ سبوس۔ سمندر پھل۔ سنبل الطیب۔ سنگداہ۔
 شاخ گوزن۔ شراب۔ صدف۔ عنبر۔ کبانہ خندان۔ کبوتر۔ کنگنی۔ کریلا۔
 کنکول۔ لالہ پھول۔ لاکھ۔ لوگ۔ مردار یہد۔ مین پھل۔ نک چھکنی۔ نیم

وغیرہ غیرہ

گرمی پیدا کرنے والے مفردات

اجوائیں دیسی۔ اذخر۔ اسارون۔ فستین۔ بیشہر۔ بادام تلخ۔ بادرنجبو یہ۔ بچھو۔

برنجاسف۔ پستہ۔ پلاس پاپڑ۔ تخم نیل۔ سرس۔ تخم ترخ۔ مگر۔ تیزپات۔ تیلینی
 مکھی۔ جگنو۔ جند بیدستر۔ چڑیا۔ حب السلاطین۔ حلقتیت ہنگ۔ خوبانی۔
 دار ہلدی۔ درونخ عقریت۔ رائی۔ رسوت۔ رو دنی۔ رو غن جمال گوٹہ۔
 زرنباد۔ زر نیخ۔ زنگار۔ سانپ اور زہر۔ رسول۔ شکر۔ عقر قرحا۔ عود
 صلیب۔ کرنس کوہی۔ قرطم۔ قسط۔ کالی زیری۔ کباب چینی۔ کٹائی خورد۔
 گھیکوار۔ گیندہ۔ آم پختہ۔ آنبہ ہلدی۔ آڑواشناں۔ افتمیون۔ انیسون
 اکلیل الملک ناخونہ۔ انزروت۔ انگور شیریں۔ اوٹ کثار۔ بارود۔ باپونہ۔
 بادم۔ شیریں بادیان اور جڑ۔ بانس۔ باو برگ۔ بکائی۔ بندق۔ بروزہ۔ بید
 انجیر۔ پان۔ پتھر پھوڑی۔ پستہ۔ پنبہ دانہ۔ پودنیہ۔ پیپلا فلفل دراز۔ پیپلا
 مول نیخ۔ فلفل دراز۔ تلی۔ چاول سنگری۔ چلغوزہ۔ چیٹہ شیطرج ہندی۔
 حب القلت۔ رو غن زیتون۔ رو غن تار پین۔ زیرہ سیاہ۔ سداد۔ سنا مکی۔
 سنبھال اور تخم۔ سورنجاں تلخ۔ سونٹھ۔ سویا اور تخم۔ شکر شیغوال۔ شہد۔ فندق۔
 بندق کبریت گندھک۔ کرفس۔ کونڈی۔ کشمش۔ کیکروندہ۔ کیوڑہ۔ گل
 عباسی۔ گندنا۔ گھی۔ لفاح۔ لہسن۔ مرچ سیاہ۔ مشک طراش۔ مویز وغیرہ
 وغیرہ

تری پیدا کرنے والے مفردات

آک۔ انگن۔ ریشم۔ آسفنج۔ اسکنڈھ۔ اشق۔ الائچی خورد۔ امتاس۔
بانس۔ برهی۔ بکن۔ بھندی۔ بھنگ۔ تختم خرپڑہ۔ تربد۔ ترنجبین۔ قل اور
تیل۔ توت۔ تودری۔ تھوہر۔ ثعلب۔ جاؤ شیر۔ چربی۔ چکہ دانہ۔ چنار۔
چنبی۔ چولائی۔ خرپڑہ خرزہ کنیر۔ خطمی۔ دودی۔ دھنیا۔ رب السوس ریٹھا
۔ روینڈ چینی۔ زمرد۔ زہر مہرہ۔ زیرہ سفید۔ سپستان۔ سر پھوکہ۔ سرمہ۔ سریشم
ماہی۔ سقونیا۔ سرنجاح شریں۔ سومن۔ سونا مکھی۔ سہاگہ۔ شاہترہ۔ شریفہ۔
شکاعی۔ شکر کھانڈ۔ شیر خشت۔ شیشم۔ شلجم۔ صابون۔ صتر۔ غاریقون۔
غافٹ۔ فرفیون۔ فرجکش۔ کنیر۔ کدو۔ کنگھی۔ کنوچہ۔ کہربا۔ کھرنی۔ کیلا
شیریں۔ گاؤ زبان۔ گڑ۔ گل ٹیسو۔ گل چاندنی۔ گل داؤ دی۔ گل سیویتی
سرین۔ گل سندی۔ گلو۔ گنا۔ لا جورد۔ لو بان۔ مردڑ پھلی۔ مس۔ مشک۔
مقل۔ مکھانا۔ ملٹھی۔ منڈی۔ مولی اور تختم۔ موم۔ موگ۔ مہوا۔ نار جیل
دریائی۔ نا گیسر۔ نیل کنٹھی۔ آش جو۔ اروی۔ اسپیغول۔ افیون۔ انار
شیریں۔ انناس۔ بالنگو۔ بول گوند کیکر۔ بھتوا۔ بہدانہ۔ برف۔ بھی۔
بید مشک۔ بیش۔ پیٹھا۔ پیوی۔ تالمکھانہ۔ تختم تربوز اور تربوزہ۔ تختم خیارین۔
تختم خرفہ۔ تختم خبازی۔ تختم کاسنی۔ تختم کدو۔ تودری سرخ۔ توری۔ جو۔ جو
کھار۔ چاول۔ چندر۔ چھاچھ۔ چھوئی مولی۔ دوب گھاس۔ دودھ۔ روغن

گل سا گودانہ۔ بھی۔ سدا سہا گن۔ سمندر سو کھ۔ سکھا ہولی۔ سنبل۔ شلغم۔
 شورہ قلمی۔ صندل اور رغنم۔ قلی۔ کاسنی۔ کافور۔ کالا دانہ۔ کا ہو۔ کائی۔ کتیرا
 کف دریا۔ کھیرا۔ گوند نی۔ مشک دانہ۔ موصلی۔ نقرہ وغیرہ
 میرے ذہن جو عام مفردات اشیاء ہیں درج کردی ہیں ان کے علاوہ جو
 قیاس پر پوری اترتی ہیں فہرست میں شامل ہو سکتیں ہیں

علاج بالدوا

علاج بالدوا کی اہمیت

علاج کی صورت جہاں دوسرے طریقہ علاج کو اپنایا جاتا ہے وہاں دوا کی بھی
 اہم ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ ادویات کی افعال و اثرات بہت زیادہ تیز
 ہوتے ہیں اور بعض امراض میں اگر مریض کو مرض سے جلد افاقہ نہ ہو تو اس
 کی موت واقع ہو سکتی ہے اس لیے دوا کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے
 ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے جسم میں مختلف اقسام کی امراض و علامات پیدا
 ہوتی ہیں علاج میں انہی صورتوں کو ملاحظہ کر دوائی تجویز کی جاتی ہے جیسا
 اگر مریض کو قہ آرہی ہو تو اسے روکنے کے لیے دوائی تجویز کی جائے گی
 اسی طرح اگر جسم کے کسی حصہ میں درد ہوگا تو اس درد کو روکنے کی کوشش کی

جائے گی یہ یاد رہے کہ جسم میں کسی بھی قسم کا مرض پیدا ہو خواہ وہ کیفیاتی ہو نفیاتی ہو یا مادی سب کے سب اثرات قلب کو ہی متاثر کریں گے علاج کی صورت میں جب بھی کوئی دوا تجویز کرنی ہو گی قلب و عضلات کی ان تین صورتوں کو ملاحظہ رکھنا ہو گا کہ یہ درد یا قیامی بخار قلب کے پھیلنے سے پیدا ہوا ہے یا کہ پھولنے سے یا سکر نے سے جب تک ان حالتوں کو نہیں دیکھا جائے گا علاج کی صورت میں بر قی یاد اگئی اثر کوئی دوائی پیدا نہیں کرے گی دوا تجویز کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہو گا

تجویز دوا

کسی بھی مریض کے لیے دوائی تجویز کرتے وقت چند اصولی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ سب سے اول یہ دیکھنا کہ مرض حادہ ہے یا کہ مرض مزمن یا مرض موروثی پھر تحریکی صورت یا حادہ کو ملاحظہ رکھنا مریض کے مزاج اور اخلاط جاننا اور مرض کی خفت اور شدت کا اندازہ کرنا اور مرض کے درجہ کا خیال رکھنا امراض کے چار زمانے ہوتے ہیں ابتدائی مرض کا زمانہ تیز کد کا زمانہ۔ انتہائی مرض کا زمانہ اور چوتھا زمانہ انتظاط مرض اس کے ساتھ ساتھ مریض کی عمر اور موسم کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے اسی لیے ادویات کو

استعمال کرنے کے لیے مجربات اور مفردات و مرکبات کو برائے دستو العلاج وقت کی ضرورت کے لیے حکومت وقت یا مسلمہ طبی جماعت یا طبی ادارہ کی طرف سے عمومی علاج معالجہ پیش کیا جاتا ہے اسی کو انگریزی میں فارما کوپیا کہتے ہیں

اسلامی مجربات

ایسی کتاب ہے جوان چیزوں کے متعلق ہے جو علم العلاج میں استعمال ہوتی ہیں جو اشیا بطور علاج قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں درج ہیں انہی میں سے ایسی ادویہ کو شامل کیا گیا ان کی پہچان اور طریقہ استعمال ان کی مقدار خوراک مفرد صورت میں اور مرکب صورت میں درج کیا گیا ہے

فارما کوپیا کے لیے اہم شرائط

تین شرائط نہایت اہم ہیں

1- فارما کوپیا کے لیے مفردات اور مرکبات کا ہونا

2- فارما کوپیا کے مجربات کی تصدیق و یادداشت اور تجربہ و مشاہدہ کے لیے مستند ماہرین اور اہل علم کی جماعت ہونی چاہئے

3- فارما کوپیا کی سرپرستی اور تصدیق طبی جماعت یا ادارہ کی طرف سے ہونی

چاہئے جو زمانہ کی ضرورت کے مطابق اس کی نظر ثانی کر کے اس کو شائع کرتے رہیں

اسلامی مجربات کی تاریخ

جہاں تک اسلامی مجربات کی تاریخ کا ذکر ہے وہ تو اس قدر قدیم ہے جس قدر انسان کیونکہ قادر مطلق نے جب حضرت آدم علیہ اسلام کی تخلیق فرمائی اسی کے ساتھ اسے اشیاء کا علم بھی عطا کر دیا گیا جن کی اسے ضرورت تھی اس کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے فائدہ کے لئے نہ بنایا ہو ہر زمانہ میں ان اشیاء موجودہ کو کسی نہ کسی طریقہ سے اپنی ضرورت کے لئے استعمال کیا گیا کبھی ان میں سے مفرد صورت کو استعمال کیا گیا اور کبھی مرکب صورت کا استعمال کیا گیا اور انکوفظری طریقہ سے انبیا اور رسول استعمال کرتے آئے ہیں انہی کی اس ترتیب کو سنت انبیا قرار دیا گیا جس کی تصدیق خود قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کرتی ہیں

مجربات کا علمی معیار

ہر ازوں سال کی طبی تاریخ پر جن کی نظر ہے وہ جانتے ہیں حکما اور اطباء نے مجربات ہمیشہ انہی ادویہ واغذیہ اور اشیا کو کہا ہے جو اصولی اور قانونی طور پر

صحیح ہوتے ہیں یعنی کیفیات و مزاج اور اخلاط کے مطابق درست ہوں یہی صورت آیورویک اور طب یونانی نے بھی کیفیات مزاج اور اخلاط کو منظر رکھا ہے جیسا کہ آیورویک میں وات و پت اور کف کو منظر رکھا ہے ہمیو پیتھی میں ادویات کی تندرتی میں علامات حاصل کی جاتی ہیں اور امراض کی حالت میں انہی علامات کے مطابق ادویات استعمال کرادی جاتی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام طریقہ ہائے علاج میں فطرت کے زیادہ قریب کون سا طریقہ علاج ہے جو بالکل امراض کے مطابق مجربات پیش کرتا ہے اسی لئے اسلامک فارما کو پیا میں قانون فطرت کو منظر رکھتے ہوئے مجربات کو ترتیب دیا گیا ہے

مجربات کا صحیح معیار

مجربات کا صحیح معیار حقیقت میں مرض کا صحیح طور پر سمجھنا ہے اس لئے ہر طریقہ علاج نے امراض کی سمجھنے کے لئے چند قوانین اور قواعد مقرر کئے ہیں جن کے ذریعہ امراض کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ قوانین اور قواعد درجہ ذیل ہیں

(1) ماہیت مرض (2) علامات مرض (3) اسباب مرض

(1) ماہیت مرض

یہ جسم انسانی کی ایک ایسی خاصی صورت ہے جو تمام جسم میں بیک وقت ظاہر ہوتی ہے

(2) علامات مرض

علامات دو قسم کی ہوتی ہے اول کیفیاتی یا نفیاتی علامات دوسری کیمیاوی علامات ایسی علامات جن کا تعلق خون کے کیمیاوی اجزاء سے ہوتا ہے اس کا تجزیہ کیفیات و مزاج اور اخلاط سے کریں یا جسم کے عناصر اور زہروں سے کیا جائے

(3) اسباب مرض

اسباب مرض میں امراض کی علامات کے ساتھ ان کے اسباب کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے یہ بھی دو قسم کے ہیں

(اول) اسباب صحت جن کو اسباب ستہ ضروریہ بھی کہتے ہیں

(دوم) اسباب مرضہ جن کی تفصیل اسلامک طب حصہ اول میں درج ہے ان کے علاوہ عمر موسم ملک، عادات کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے جو دوا و غذا سے ان تمام صورتوں اور حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مفید ثابت ہو بس وہی مجربات میں شامل ہوں گی ورنہ ان کا استعمال مریض پر ظلم کرنا ہے

مجربات اور امراض میں مطابقت کی اہمیت

مطابقت کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگایا جاسکتا ہے کہ مرض کا نقشہ ذہن میں پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے رفع کرنے والی دوا وغذہ کا تصور فوراً ذہن میں پیدا ہو جائے جیسا کہ کیمیاوی اعمال سے پیش کی جاسکتی ہیں جیسے آگ کو جلانا اگر ایک عمل ہے تو اس آگ کا بجھنا اس کا رد عمل ہے اس کا بجھانا پانی سے بھی ہو سکتا ہے اور مٹی سے بھی ہو سکتا ہے آگ بعض دفعہ پانی اور مٹی سے بھی نہیں بجھتی تو اس کو کسی اور شے سے بجھانا پڑتا ہے جو شے بھی اس آگ کو فوراً بجھادے وہی اس کا رد عمل ہوتا ہے اسی طرح سردی ہر شے کو خ کر کے سکیردیتی ہے اور پھر اس پر گرمی کا رد عمل ہوتا ہے یعنی وہ سکیر ختم ہو جاتا ہے اس طرح رطب و یا بس کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بعض بعض کے لیے رد عمل ہیں تو ہم روزانہ زندگی میں دیکھتے ہیں ہماری اغذیہ میں بعض کو ہم گرم کرتے ہیں اور بعض کو سرد سمجھتے ہے گرم اشیا کھانے سے جہاں ہمارا جسم گرم ہو جاتا وہاں سرد اشیا کھانے سے سردی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس طرح ہر رطب و یا بس اور حارا پنا اثر رکھتا ہے

اور ذرا آگے بڑھیں تو ہم جانتے ہیں بعض اغذیہ اور ادویہ کے کھانے سے کبھی اسہال کی صورت ہو جاتی ہے اور کبھی قبض بعض بعض اغذیہ اور اشیا سے

پیشاب زیادہ آتا ہے اور بعض سے کم اور کبھی پیشاب میں جلن پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح بعض اغذیہ اور اشیاء کے استعمال کرنے سے پیشہ بھی آ جاتا ہے اور کبھی قہ ہو جاتی ہے غرض یہ روزانہ زندگی کے تجربات میں جواکثر ہر شخص کو ہوتے ہیں ان سے اگر آگے بڑھیں تو اطباء اور حکماء نے تجربات کئے ہیں یہ تجربات اغذیہ و ادویہ اور دیگر ہر قسم کی اشیاء میں کئے جاتے ہیں مثلاً اس کے استعمال سے جسم انسانی پر جو کیفیات اور صورتیں پیدا ہوتی ہیں یعنی جسم اور قلب کے افعال و اعمال میں کمی یا بیشی اور ذائقہ میں تبدلی وغیرہ اسی طرح نفیاتی اثرات کو بھی ملاحظہ کر کھا جاتا ہے انہی کیفیات و حالات اور صورتوں میں اعضا نے قلب کے افعال و اعمال میں جو غیر طبعی صورتیں اختیار کر لیتا ہے ان کو امراض کا نام دے دیا جاتا ہے اسی طرح مرض کی حالت میں کسی غذا اور شے کے استعمال سے اگر وہ رفع ہو جائے اس کو دوا کہہ دیتے ہیں اگرچہ وہ صحت دینے والی شے غذا ہی کیوں نہ ہوان، ہی اقسام کے تجربات نے علم الادویہ پیدا کر دیا جونہ اب دنیا کے لئے مفید بلکہ انتہائی ضروری ہے

دوا کی تعریف

دوا ایسا لفظ ہے جو موجودات عالم میں ہر جاندار اور غیر جاندار پر عائد ہوتا ہے ان اشیاء کو دنیا طبی اصطلاح میں موالیہ ثلاثة کہتے ہیں

(اول) ان کے خواص و اثرات اور اجزاء کے تعین کی صورتیں سامنے آ جاتی ہیں

(دوم) نظریہ ارتقا کے تحت ان کی درجہ بندی ہو جاتی ہے

(سوم) اعتدال حقیقی یا مزاج انسانی کے قریب کے افعال و فوائد کا علم ہوتا ہے
یہ موالید ثلاثة تین صورتوں میں اس طرح تقسیم ہیں

(1) معدنیات (2) بنا تات (3) حیوانات

البتہ فوائد کے لحاظ سے ہم سب کو ادویہ کہتے ہیں و راصل علم ادویہ سے مراد وہ علم جس کے ذریعہ اطباء و حکماء نے ادویات کے افعال و کیفیات اور اخلاق موثرہ کی تصدیق کی جاتی ہے یعنی جس میں انسان کے اعضاء کے مشینی اعمال اور خون کے کیمیاوی اثرات کی تشریح اور توضیح ہے حکماء یونان اور اسلام کو یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے ہزاروں کتب لکھیں جو آج بھی موجود ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ موجودہ میڈیکل سائنس کے نظریہ میں آج جو علم ادویہ نظر آتا ہے وہ حکما اسلام کا مر ہون منت ہے جہاں تک قانون فطرت کی طرف لوٹنے کی ضرورت تھی اسے میڈیکل سائنس اور دیگر نظریہ طب نے نظر انداز کیا رکھا ہے یہ قدرت کا انعام ہمارے حصہ کا ہے کہ جس طرح ادویات کے بارے میں قرآن مجید تین صورتیں پیش کرتا ہے یا بس (خشک) حار (گرم)

رطب (تر) اس نظریہ کی تکمیل میرے آقا و مولا حضرت محمد ﷺ اپنی حدیث مبارک بیان فرماتے ہیں کہ کلونجی اپنے مزاج اور اثرات کے لحاظ ایسی شے ہے موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ میں فرمانِ رسالت ہے کہ اگر موت کی دوا ہوتی تو سنا ہوتی اسی طرح حضور کے پسندیدہ خوشبوؤں میں سے عطر گلاب تھی یہ وہ حقیقت ہے جن کو جھلنا یا نہیں جاسکتا ہے اسلامی مجربات میں انہی ادویات کو قانون فطرت کے مطابق مزاجوں کے ساتھ تطبيق دے کر ترتیب دیا گیا ہے اور ان سے عام انسان کس قدر فائدہ حاصل کر سکے اور موجودہ دور کی لاتعداد مجربات سے خلاصی پا سکے ایک تو علاج کو آسان اور عام فہم کر دیا ہے تاکہ ایک عام سمجھدار شخص اس سے فائدہ اٹھا سکے

ادویات کی درجہ بندی

جو ادویہ بھی استعمال کی جاتی ہیں وہ جسم میں ایک جیسی کیفیت پیدا نہیں کر تیں ان میں سے بعض زیادہ گرم و سرد اور خشک ہوتی ہیں اور بعض کم ہوتی ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے

دوائے متعدد

ایسی دوا جو جسم میں پہنچ کر کوئی زائد کیفیت پیدا نہ کرے یعنی اس کی کیفیت جسم
انسانی کے مزاج سے نہ بڑھے

دوا درجہ اول

ایسی دوا جس کی گرمی یا سردی کا اثر بدن میں اس قدر تھوڑا ہو کہ وہ محسوس نہ کر
سکے

دواۓ درجہ دوم

ایسی دوا جس کی گرمی یا سردی کا اثر بدن میں محسوس ہو مگر مضرت نہ پہنچا سکے

دواۓ درجہ سوم

ایسی دوا جس کی گرمی یا سردی کا اثر بدن میں یہاں تک ہو کہ وہ مضفر ہو مگر
مہلک نہ ہو

دواۓ درجہ چہارم

ایسی دوا جس کی گرمی یا سردی کا اثر بدن میں اس حد تک ہو کہ وہ مہلک ثابت
ہو

اثرات اشیاء کی اقسام

اس طرح ہم کو اشیاء کے تین قسم کے اثرات تسلیم کرنے پڑیں گے
 (اول) وہ اشیاء جن کا اثر خون میں شامل ہونے کے بعد ہو گا جیسے اغذیہ
 وغیرہ

(دوسرے) ایسی اشیاء جن کا اثر پہلے اعضائے جسم پر ہوتا ہے اس کے بعد
 ان کا اثر خون میں شامل ہو جاتا ہے جیسے ادویہ وغیرہ
 (تیسرا) ایسی اشیاء جن کا اثر صرف اعضاء تک محدود رہتا ہے اور پھر فوراً
 موت واقع ہو جاتی ہے جیسے زہر وغیرہ یہ الگ بات ہے کہ ہم زہروں کو
 تجربات کے بعد ان کی غیر سی خوراکوں میں استعمال کر کے فائدہ اٹھالیں
 البتہ ان کی شرکت سمیات ہی میں ہو گی

تجویز ادویہ اور اغذیہ

چونکہ جسم کے افعال کیفیات و مزاج اور اخلاط کے اثرات قلب کے تحت قائم
 ہیں اس لیے جب خون میں کیفیات و مزاج اور اخلاط اپنے اعتدال پر قائم
 نہیں رہتے ان کا اثر اندر وہی طور پر ہو یا بیرونی طور پر تو اس وقت اس کے
 افعال بگڑ جاتے ہیں بس اسی حالت کا نام مرض ہے جو ادویہ اور اغذیہ جسم کے
 غیر متعدل اجزاء کی کیفیات و مزاج اور اخلاط کو درست کر کے ان کے افعال
 کو اعتدال پر قائم کر دیں بس مرض رفع ہو جائے گا بس اسی عمل کا نام فن علاج

ہے

مجربات کی حقیقت

مرض اور علاج کی تعریف کے بعد مجربات کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے یعنی جو مفرد یا مرکب دو انسانی جسم کی غیر طبیعی حالت کو دور کر دے اور بار بار تجربات و مشاهدات کے بعد اس کا نتیجہ سو فیصدی درست نکلے بس وہی مجرب دوا ہے البتہ معانج کے لیے یہ امر لازم آتا ہے کہ وہ مجرب دوا جسم انسان کے مرض و علامات اور مزاج کے ساتھ مطابقت و موافقت قائم کر سکے جو شخص ایسا کرنے کی قابلیت رکھتا ہے وہی معانج ہے اس امر کو ذہن نشین کر لیں کہ سوائے معانج کے ہر شخص امراض کے کئے مجربات تجویز نہیں کر سکتا کیونکہ معانج کے لیے لازم ہوتا ہے کہ انسانی جسم کی حقیقت و تشریح افعال و رموز امراض و مزاج اور علامات و اسباب سے پورے طور سے آگاہ رہے یہ ایک ناواقف علم و فن شخص کے لیے مشکل ہے کہ معانج کے فرائض ادا کرتے ہوئے امراض کے لیے کوئی مجرب نہ خاستعمال کیا تھا مگر مفید نہیں پایا یہاں ہم ان مجربات کو شامل کر رہے ہیں جن کو بنی آخزر مان حضرت محمد ﷺ نے استعمال کرایا اور ان کی تصدیق یہ ہے کہ کلوچی تمام ایسی امراض میں بہترین دوا ہے جب قلب و عضلات پھول گئے ہوں اس حالت کی تمام امراض کے لیے

محب ہے اسی طرح سنامکی قلب و عضلات میں جب سیکڑ پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں تمام امراض و علامات پیدا ہو جائیں ان کے لئے سنامکی بہترین دوا ہے اسی طرح اگر قلب میں پھیلا و پیدا ہو جائے اور قلب میں اسی حالت کی امراض اور علامات پیدا ہو جائیں تو ان کے لیے گل سرخ خواہ گلقند کی شکل میں ہوں یا سفوف کر کے استعمال کریں یا عطر گلاب کا استعمال کرنے سے تمام وہ امراض و علامات دور ہو جائیں گی ہم نے انہی مجربات کو فارما کو پیا بنا یا ہے عرصہ 25 سال کے تجربہ سے ثابت ہوا کہ یہ جو ادویات آج سے ہزاروں سال پہلے استعمال کی گئیں تھیں آج بھی اسی طرح فائدہ مند ہیں ہم نے انہی سے کچھ مجربات ترتیب دیے ہیں تاکہ قانون فطرت کے مطابق معالج فائدہ اٹھا کر بہترین انسانی خدمت کر سکیں چونکہ خون تین اقسام کے مادوں سے ترتیب پایا ہوا ہے لہذا ہم انہی تین مادوں کے مزاجوں کے مطابق اور عضو قلب کی حالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجربات درج کرتے ہیں

ان مجربات کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ پیدا شدہ امراض و علامات کو پہلے اقسام امراض کو جاننا ضروری ہوتا ہے کہ مرض حادہ ہے یا مرض موروثی یا مرض مزمن اس کے مطابق دوا تجویز کرنی ہو گی عام طور پر مرض حاد کے لیے

علاج کے لیے چند ہفتے دوائی استعمال کرنی ہوگی اگر مرض مزمن ہے اس لیے دوا کی کم از کم تین سے لیکر چھ ماہ تک علاج کریں موروثی امراض میں علاج بالغذاء اور علاج بالدوا ایک سال تک علاج کریں موروثی امراض میں مرض ہڈی کے گودے تک اس کا اثر ہوتا ہے اس لیے علاج لمبا کرنے کی ضرورت آتی ہے معانج ان اقسام امراض کو مد نظر رکھے پھر علاج شروع کر لے

تشريع اصطلاحات

اس کے تحت اصطلاحات ادویہ کی تشريع پیش کی جا رہی ہے تاکہ قارئین روزمرہ کے مستعمل مرکبات کے اسمائے مجاز کے صحیح مفہوم کو سمجھ کر ان کے فوائد و اثرات سے مستفید ہو سکیں

1۔ محرک

محرک سے مراد ایسی دوا ہے جو کسی مفرد عضو کو سکون سے فعل میں لائے اس عضو کی متعلقہ تیزی کو تحریک کہتے ہیں یہ تیزی اس عضو کے جسم میں اکساہٹ سے پیدا ہوتی ہے یاد رہے ہر عضوا پنے متعلقہ مخصوص مزاج کی حامل ادویہ۔ انذیہ اور اشیاء سے اپنا فعل سرانجام دیتا ہے یعنی محرک اعصاب اشیاء سے دماغ و اعصاب کے فعل میں تیزی (تحریک) پیدا ہوگی اور محرک طحال ادویہ

وغیرہ سے طحان کے فعل میں تیزی پیدا ہوگی اور اسی طرح غدی محرکات سے
جگروند کے افعال سرزد ہوں گے یعنی ہر محرک چیز اپنے عضوی و کیمیاوی
افعال کے لحاظ سے منسوب ہوگی

2-شدید

دوائے محرک سے قدرے تیز اثرات کی حامل دوا کوشید کہتے ہیں

3-ملین

ملین سے مراد ایسی دوا ہے جو فضلات کو خارج کرنے کی قوت رکھتی ہو

4-مسہل

ایسی دوا جس میں اوراقوت ہوتی ہے مسہل دوا کو تھوڑی مقدار میں دے کر
محرك۔ شدید۔ بلکہ مقوی اثرات بھی پیدا کیے جاسکتے ہیں

5-مقوی

مقوی سے مراد ایسی اشیاء ہیں جو کسی عضو کی طرف کو آہستہ آہستہ جذب کرنا
شروع کر دیں ان میں اغذیہ ادویہ زہر تک شامل ہیں مثلاً اغذیہ میں گوشت
ادویہ میں فولاد زہروں میں سنکھیا اور کچلہ مقویات میں شامل ہیں یاد رہے کہ
ہر عضو کے لیے اس کے متعلقہ مزانج والی اشیاء مقوی ہوتی ہیں

6۔ اکسپر

اکسپر دوا اسے کہتے ہیں جس میں یہ تین صفات پائی جائیں اول دائیٰ اثر۔ دوم جاذب سوم برقی اثر یعنی خون میں جذب ہو کر فوراً اپنے اثرات جسم پر شروع کر دے ادویہ اثرات جسم انسانی پر انتہائی برق رفتاری سے مرتب ہوں

7۔ تریاق

تریاق سے مراد ایسی دوا ہے جو کسی زہر کے اثرات کو فوراً ختم کر دے اور ایک نئی صورت یا مزاج پیدا کر دے اسے انٹی ڈوٹ بھی کہتے ہیں تریاق قسم کی ادویہ کی اس وقت ضرورت پیش آتی ہے جب کسی زہر یا کسی عضو کو مشینی تحریک سے موت واقع ہو جانے کا خطرہ ہو مثلاً ہیضہ۔ نمونیہ۔ سرسام وغیرہ

8۔ قطور

یہ ایک سیال دوا ہوتی ہے جو کہ ناک، کان اور آنکھ وغیرہ میں ٹپکائی جاتی ہے

حار مجربات

حار مجربات قلب و عضلات کے سکڑنے کے وجہ سے جو امراض و علامات پیدا ہوتی ہیں مثلاً قلب و عضلات کے اندر سیکڑ خلط سودا سے پیدا ہوتا ہے جسم میں

پیدا ہونے والی علامات یہ ہیں سر درد سودا اوری - ریجی درد سر - سر سام سودا اوری - بے خوابی کثرتِ جماع کے سبب سر درد - سیاہ مویتا بند - ناخونہ - سودا اوری ضعف بصر گو نجتی کا نکلنا - پلکوں کی خارش - کان کا درد - کانوں کی خارش - بند نزلہ نکسیر کا آنا - ناک کی خشکی ہونٹوں کا درد - مانخورہ - خشک دمہ - خشک لہانی زبان کا پھٹنا - سینہ کی جکڑن - دل سے دھواں کا اٹھنا - دل کا سرطان - ہائی بلڈ پر لشیر - پستانوں کا سرطان - دودھ کی کمی - پستان کی خارش - پستان کا سکڑ جانا معدہ کا درد - ریاح معدہ - جوع القلب ہیجکی - معدے کی جلن استقائے تلی - جگر اور تلی کا بڑھ جانا - کالا یرقان - قبض - قولج کا درد - درد گردہ - گردے کی پتھری - بندش بول بوا سیر بادی و خونی - عضو تناسل کا چھوٹا ہونا - رحم کا سکڑ جانا - جوڑوں کا پتھرانا کو لھے کا درد - رحم و شرمگاہ کی خارش - عرق النساء دا میں طرف - بالپھر - بالوں کا پھٹنا - سر میں خشکی - ناخنوں کا بیٹھ جانا خارش - قوبا - چنبل - نقشرِ جلد - جلد کا پھٹ جانا - جلد کی خشکی - سرطان پھیپھڑوں سے خون آنا - آنکھوں کے گرد سیاہ حلقات - نچلے دھڑ کاف الج - مالیخولیا - مراق - خونی دست - کثرتِ حیض - زخم رحم جریان رحم اختلاج قلب وغیرہ یہ تمام علامات و امراض خلط سودا کی زیادتی سے ہوں گی اور خون گاڑا اور قلب و عضلات میں سکیڑ

ہونے پر ظاہر ہوں گی علاج کی صورت میں عضو قلب کی اس حالت کو، ہی مدد نظر رکھنا ہوگا ان کا علاج ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک ہر مرض کا شافی علاج ہے انشا اللہ ان امراض کے علاج میں جزا عظم سناکی ہے

دوائے حار مجرب

سناکی 10 تولہ۔ نمک خوردنی 5 تولہ۔ گندھک مصفری 10 تولہ۔ مغز جمال گوٹہ 3 ماشہ

طریقہ تیاری

سناکی کے صرف پتے ہی استعمال کریں اس کی ٹہنیاں نکال دیں پھر مغز جمال گوٹہ کو اچھے کھرل میں ڈال کر کھرل کریں جب بالکل مرہم سی بن جائے اس میں تھوڑا تھوڑا نمک ڈال کر کھرل کریں جب سارہ نمک شامل ہو جائے پھر سناکی اور گندھک کا سفوف تیار کر کے اس میں ملائیں پھر اسے ایک جان کر لیں

طریقہ استعمال

دوائے حار مجرب کی مقدار خوراک ایک رتی خوراک محرک ہے اور ایک رتی تا دورتی شدید دورتی تا چار رتی خوراک ملین اور دوائے حار چارتا ایک ماشہ

خوراک مسہل ہے دوا کا استعمال مریض اور مرض کی حالت کو مدقائقہ کر کیا جاتا ہے اگر مادہ کے استفراغ کرنا ہے تو پہلے مسہل خوراک دے کر سودا کو کم کر لیں پھر مریض کو مرض کے درجہ کے مطابق مقدار خوراک مناسب بدرقة پانی یا ماء الحسل سے استعمال کریں

(1) حارا کسیر

کشۂ سونا بنانے کا طریقہ

برادہ سونا ایک تولہ۔ سیما ب مصغی 3 تولہ۔ گندھک مصغی 3 تولہ۔ پہلے پارہ اور گندھک کی کچلی تیار کر زیں پھر اس میں برادہ سونا شامل کر کے گل حکمت کریں اور 10 سیر اوپلوں کی آگ دیں یہ تین بار اسی طرح عمل کریں بعد میں آب چولائی میں کھرل کر کے نکلیہ بنالیں اور دو سیر اوپلوں کی آگ دیں آب چولائی کے ساتھ اکیس عمل کریں بہترین کشۂ طلا تیار ہو گا جب قلب و عضلات کے سکڑ سے مرض مزمن شکل اختیار کر چکے ہوں تو پھر اکسیرات کو ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی اس تیار شدہ دوائی کی مقدار خوراک دو چاول سے چار چاول تک ہمراہ مکھن ملائی یا شہد استعمال کریں یہ سکڑ سے پیدا شدہ بدن کی کمزوری کو فوراً دور کر دے گی

(2) حارا کسیر

پارہ مص匪 1 تولہ۔ گندھک مص匪 7 تولہ۔ سفوف لوگ 8 تولہ

طریقہ تیاری۔ پہلے پارے کو صاف کر لیں اس کوئی طریقوں سے صاف کیا جاتا ہے یہاں پر آسان طریقے درج کیے جاتے ہیں
 1۔ پارہ کو ہائیڈ و جن میں شامل کر کے کسی شیشی میں ہلامیں اس کی سیاہی ہائیڈ و جن میں شامل ہو جائے گی یہ عمل کم از کم پانچ بار کریں پھر پارہ کو کسی موٹے کپڑے سے نچوڑ لیں پارہ صاف ہو جائے گا

2۔ پارہ کونک میں کھرل کریں اس کو چند عمل کرنے سے پارہ صاف ہو جاتا ہے اگر پارہ شنگرف سے نکلا ہوا ہو تو وہ مص匪 ہی ہوتا ہے

گندھک صاف کرنے کا طریقہ

گندھک کو بھی کئی طریقوں سے صاف کیا جاتا ہے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ گندھک کو کسی صاف کڑا ہی میں ڈال کر گرم کریں پھر جب وہ پگل جائے گائے کے دودھ میں بجھاؤ دیں یہ عمل 21 بار کریں تین بار بجھاؤ دینے کے بعد دودھ بدل لیا کریں جب پارہ اور گندھک صاف ہو جائیں تب ان دونوں کو کھرل کریں اور اس کی کچلی تیار کریں جب یہ مانند سرمه کے ہو

جائے تب اس میں سفوف لوگنگ ڈال کر چند گھنٹے کھل کریں اسکیر تیار ہے
مقدار خوراک 1 رتی سے 2 رتی ہمراہ شہد پانی ملا ہوایا پانی سے استعمال کریں
تمام سودا دوی امراض کو ختم کر دے گی اور جسم کے اندر حرارت کو بڑھادے گی

حارترياق

شیرمدار 2 تولہ۔ سہا گہ سفید بریاں 7 تولہ۔ رنجیل 5 تولہ۔ پیلا مول 3 تولہ
طریقہ تیاری۔ شیرمدار کے علاوہ تمام اجزاء کو باریک کر لیں پھر شیر ملا
کر خوب کھل کریں بعد میں چند گھنٹے دھوپ میں رکھیں دوائی تیار ہے یہ دوا
حارترياق اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب زہر بدن کو متاثر کر رہا ہو تو
ایسی صورت میں تریاق صفت دوائی کو پندرہ پندرہ منٹ بعد استعمال کر سکتے
ہیں جب مرض میں افاقہ ہو جائے تب اس کی خوراک کم کر دیں اور وقفہ بھی
بڑھادیں جیسا کہ اگر سودا کی زیادتی سے جسم کے کسی حصہ خون آنے لگے یا
سودا دی فانج ہو جائے قلب کے سکڑ نے سے مرض اختلاج قلب ہو جائے یا
خشک دمہ کی صورت میں اسے استعمال کر سکتے ہیں مقدار خوراک 2 رتی
1 ماشہ تک دے سکتے ہیں ہمراہ پانی یا قہوہ حار

قہوہ حار

اجوان دیکی 3 ماشہ۔ تیز بات 3 ماشہ۔ پودینہ 6 ماشہ سب دو اول کو ایک پاؤ
پانی میں بھگو دیں کچھ دیر بعد جوش دیں جب پانی آدھارہ جائے اسے پن کر
حسب ذاتِ القہ چینی ڈال کر استعمال کریں

روغن حار

ست پودینہ 6 چھ ماشہ۔ ست اجوان 1 تولہ۔ مشک کافور 1 تولہ۔ تیل
تارپین 5 تولہ۔ تیل سرسوں 1 پاؤ

طریقہ تیاری۔ مشک کافور اور تیل تارپین کو کسی شیشی میں ڈال کر حل
کر لیں جب حل ہو جائیں پھر اس میں دونوں ست ڈال دیں جب یہ دونوں
حل ہو جائے تو پھر تیل سرسوں شامل کر لیں روغن حار تیار ہے ہر قسم درد جو
سودا وی مزاج میں پیدا ہوں سے بیرونی طور پر بطور مالش استعمال کریں

قطور حار

نوشاد ٹھیکری 4 ماشہ۔ ہلدی 1 تولہ۔ ست پودینہ 2/1 ماشہ۔ عرق سفوف
ایک بوتل تمام دوائیں عرق میں ڈال کر حل کر لیں بعد میں پن لیں اور تمام
آنکھوں کے سودا وی امراض مثلاً موتیابند وغیرہ کیلنے مفید ہے

یا بس مجربات

جب قلب و عضلات پھول جائیں یہ چونکہ فطری طور پر خون میں تری کی زیادتی سے پھولتے ہیں مثلاً سر درد بلغی۔ عصاہ سر سام بلغی۔ سر کا چکر آنا۔ غفلت کی نیند۔ نیان۔ باعیں فالج۔ مرگی۔ ام الصیاب۔ آشوب چشم۔ سفید موتیا بند۔ پھولا ضعف بصر۔ آنکھوں سے پانی آنا۔ وجع الاذن۔ کان کا بہنا کانوں میں کیڑے اور بچاسنائی دینا وغیرہ ہونٹوں کا بڑا ہو جانا۔ زکام۔ چھنکیں آنا۔ منہ آنا۔ زبان پر چھالے۔ لکنت عظم اللسان دانتوں کا بڑا ہو جانا۔ دانتوں کا ہلنا۔ دانتوں کا گرنا۔ پیاس کی زیادتی۔ بلغی دمہ۔ بلغی کھانسی۔ کالی کھانسی۔ پھردوں کا ڈھیلاپن۔ عظم القلب۔ دل کا ڈوبنا۔ دل کا کم حرکت کرنا قلب کی حرکات کا بند ہو جانا۔ پستانوں کا بڑا ہو جانا۔ کثرت لبیں معدہ میں گڑ گڑ ہونا معدے کا شندہ ہو جانا تھے اور ہر حصہ دست آنا۔ سقوط اشہتا۔ ضعف گردہ۔ بستر پر پیشاب کر دینا۔ سلسل بول۔ شوگر۔ جریان۔ نامردی۔ خصیوں کا لکنا۔ بندش حیض۔ رحم کا ڈھیلا ہونا۔ اسقاط حمل۔ لیکور یا جوڑوں کا درد عرق النساء باعیں طرف۔ خرہ۔ ملیریا بخار اور تمام الیے بخار جن میں پیشاب کا رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ آتشک۔ چیپک۔ جگر وتلی کا پڑ جانا۔ ضعف جگر۔ سنگرہنی یہ تمام علامات قلب و عضلات کے پھولنے سے پیدا ہوگی یہ تمام علامات بلغی ہوگی

ان کے علاج کے لیے یا بس مرکبات استعمال کیے جاتے ہیں جس سے قلب
و عضلات کے تمام امراض اور علامات جو اس کے پھولنے سے پیدا ہوتی ہیں
ان کا شافی علاج ہے اس میں جز اعظم دوائے یا بس میں کلونجی ہے

دوائے یا بس مجرب

کلونجی 10 تولہ۔ گندھک مصفری 10 تولہ۔ مصبر 10 تولہ۔ خطل 10 تولہ

طریقہ تیاری۔ ان سب کو کوٹ کر باریک سفوف بنالیں دوائی تیار ہے
مقدار خوراک 2/1 رتی تا 1 رتی محرک مقدار خوراک 1 رتی تا 2 رتی شدید
مقدار خوراک 2 رتی تا 4 رتی ملین اور مقدار خوراک 4 رتی تا 1 ماشہ مسابل
استعمال ہمراہ پانی یا قہوہ یا بس دیں یہ تمام امراض بلغی جس میں قلب و
عضلات پھول جاتے ہیں اور ان سے پیدا شدہ تمام امراض و علامات کا
بہترین علاج ہے معانج مرض کے درجہ کو جانتے ہوئے مقدار خوراک
استعمال کریں انشا شفا ہوگی

یا بس اکسیر

کشته فولاد

جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ لو ہے کو انسانوں کے فائدے کے لیے

بنایا ہے انسانی جسم میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کا کشہ تیار کیا جاتا ہے برادہ فولادی کر کسی مٹی کے بڑے برتن میں ڈال دیں پھر اس میں ترش پھلوں کا رس ڈالتے جائیں جب ایک پانی خشک ہو جائے تو بہت دوسرا پانی استعمال کریں شروع میں اگر پہلے جامن کا پانی استعمال کریں تو بہت بہتر ہوگا اس برادہ کو وقتاً فوقتاً ہلاتے رہیں ہر موسم کے ترش پھل کا پانی شامل کرتے رہیں یہ چند ماہ میں کشہ فولاد تیار ہو جائے گا اور یہ قلب و عضلات کے پھولنے سے پیدا ہونے والے امراض اور جسم کی کمزوری اور عضو قلب کی کمزوری کے لیے اور کمی خون کے لیے بہترین دوا ہے مقدار خوراک 1 رتی تا 2 رتی ہمراہ دہی۔ مکھن۔ ملائی یا قہوہ یا بس سے دے سکتے ہیں انشا اللہ تمام تری سے پیدا شدہ امراض و علامات کا علاج ہوگا

یا بس تریاق

بلادر 1 تولہ۔ کلوچی 10 تولہ۔ ہڑ جلاپ 10 تولہ۔

طریقہ تیاری۔ سب ادویات کو باریک پیس کر نخودی گولیاں بنالیں ایک تادو گولی ہمراہ پانی یا قہوہ یا بس سے دیں ان تمام امراض جن میں قلب و عضلات پھول گئے ہوں اور مرض زہر کے فساوی کی صورت میں ہو تو تریاق کو

پندرہ پندرہ منٹ کے وقفہ سے استعمال کر سکتے ہیں عام طور پر دن میں تین بار استعمال کریں تمام بلغی امراض کا بہترین علاج ہے

قہوہ یا بس

گل بفشه 6 ماشہ۔ عناب 6 ماشہ۔ خوب کلاں 6 ماشہ۔ منٹی 9 دانے چینی
حسب ذائقہ

ان تمام دواوں کو ایک پاؤ پانی میں شامل کر کے کچھ دیر پڑا رہنے دیں پھر
اسے جوش دیں جب آدھا پانی رہ جائے تب اسے پن چھان کر استعمال
کریں یہ قہوہ بھی تمام رطوبتی امراض کا علاج ہے

روغن یا بس

تلوں کا تیل 1 پاؤ۔ مالکنگن 5 تولہ۔ کچلہ 1 تولہ۔ لوگ 1 تولہ ان سب
دواں کو تیل میں پکالیں جب سب چیزیں جل جائے تب ٹھنڈا ہونے پر
پن لیں تیل تیار ہے ہر قسم کے سردی سے پیدا ہونے والی درد اور دیگر علامات
کے لیے ہے بیرونی طور پر مالش کریں

یا بس قطر

چھٹکری 6 ماشہ۔ افیوں 6 ماشہ۔ ہر ڈ زرد کا سفوف 1 تولہ۔ عرق گلاب

1 بوقت ترکیب تیاری۔ سب دواوں کو باریک کر کے عرق میں شامل کر دیں اور 24 گھنٹے اسے پڑا رہنے دیں وقفہ فوت قتاً اسے ہلا دیں 24 گھنٹے کے بعد اسے موٹے کپڑے سے پن لیں آنکھوں کی تمام امراض جو بلغم کی زیادتی اور قلب کے پھولنے کے امراض میں شامل ہیں ان کا بہترین علاج ہے دن میں چند بار قطرہ آنکھوں میں استعمال کریں

رطب مجربات

رطب مجربات جب قلب و عضلات حرارت کی زیادتی سے پھیلا اور پیدا ہو کر امراض و علامات پیدا ہو جائیں مثلاً صفراوی سر درد شقیقہ بائیں طرف کا سرسام صفراوی چہرے اور پیوٹوں کا درم ناسور چشم۔ صفراوی آشوب چشم۔ یرقان اصفر۔ آنکھوں میں درد۔ پیوٹے کے دانے۔ کان کی سوزش کان سے پیپ آنا۔ ہونٹوں پر صفراوی چھالے سوزشی نزلہ۔ نکسیر پھوٹنا۔ ناک کی صفراوی پھنسیاں دمہ کبدی۔ صفراوی کھانی۔ پھیپھڑوں کی سوزش اور درم اور پھیپھڑوں میں پیپ پڑنا۔ غشی ضعف قلب غلاف قلب کی سوزش۔ پستان کا گرم درم۔ پستان کا پھوڑا درد کی کمی۔ ضعف معدہ سوزش امعاء۔ صفراوی نقہ کارچخ کا نکلا۔ پچش مرد۔ احمقائے زتی جگرنی سوزش مقصد کے زخم اور ناسور سوزش مثانہ گردوں کی سوزش۔ صفراوی گردے کی

پھریاں۔ درودگردہ۔ سرعت ازالت استقائے خصیہ۔ تقریب۔ وقت
حیض۔ رحم کا باہر نکل جانا۔ رحم کا ورم۔ جوڑوں کی سوجن۔ جوڑوں میں درد۔
صفراوی خارش۔ جلن بول۔ سوزاک صفراوی۔ ضعف باہ۔ ہائی بلڈ پریشر۔
طاعون کا بخار۔ خفقان قلب وغیرہ تب فطری علاج حرارت کو کم کرنا ہے
جب خون کے اندر تری کو بڑھ دیا جائے تو حرارت اعتدال پر آ جاتی ہے اس
لیے قلب و عضلات کے پھیلنے کی تمام امراض و علامات کے لیے رطب
مجربات درج کیے جاتے ہیں

دوائے رطب

گل سرخ 10 تولہ۔ مٹھا سوڑا 10 تولہ۔ سہاگہ سفید ب瑞اں 5 تولہ۔
سمونیا 2 تولہ

طریقہ تیاری۔ سب سے پہلے گل سرخ کو اچھی طرح صاف کر لیں گل
سرخ کی صرف پیتاں ہی ہونی چاہیے پھر ان سب کا باریک سفوف بنالیں
دوائے رطب کی مقدار خوراک 2/1 رتی تا 1 رتی محرک مقدار خوراک
1 رتی تا 2 رتی شدید مقدار خوراک 2 رتی تا 4 رتی ملین مقدار خوراک 4 رتی
تا 1 ماشہ مسہل دوائے رطب قلب کے پھیلنے کی تمام علامات و امراض مفید

ہے ہمراہ پانی یا قبوہ رطب استعمال کریں

رطب اکسیر

کشۂ اٹ قلنی بنانے کا طریقہ

اٹ قلنی 5 تولہ اور پارہ 5 تولہ ہموزن لے کر گردہ بنالیں گردہ بنانے کے لیے
تھجزوں میں میں تین چار انج گہرہ سوراخ بنالیں پھراں میں پارہ ڈال دیں بعد
قلنی کو کسی کڑچھا میں ڈال کر گرم کریں جب پگل جائے پھراستے پارہ پر ڈال
دیں اور اوپر سے فوراً ڈھانپ دیں یہ پارہ اور قلنی کی گردہ بن جائے گی پھر
اسے کھرل میں ڈال کر کھرل کریں کھرل کرتے وقت اس میں قلمی شورہ
 شامل کرتے جائے تقریباً 1 پاؤ شورہ اس میں ڈال دیں پھراستے کوزہ میں گل
حکمت کر کے بیس سیر اولپوں کو محفوظ آگ دیں کشۂ تیار ہو گا اسے باہر نکال
کر پانی سے غسل دیں تاکہ شورہ نکل جائے رطب اکسیر تیار ہے مقدار 1 رتی
تا 2 رتی تک ہمراہ مکھن یا ملائی کھلا میں قلب و عضلات کے پھلنے سے ضعف
قلب و بدن کے لئے مفید ہے

رطب تریاق

شیر مدار 2 تولہ۔ ہلدی 10 تولہ۔ چینی 10 تولہ۔ الچھی دانہ خورد 1 تولہ

ترکیب تیاری۔ ہلدی باریک پوڈر لیں اس میں شیر مدار شامل کر کے کھرل کریں جب یہ کھرل کر لیں تو اسے پلیٹ میں ڈال کر دھوپ میں رکھے دیں جب یہ مرکب خشک ہو جائے پھر اس میں چینی اور الائچی دانہ باریک کر کے شامل کر لیں تریاق تیار ہے جب جسم و خون کے اندر حرارت کی زیادتی سے خلط صفراء میں زہر پیدا ہو جائے اور جسم کو بڑی تیزی سے نقصان ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں تریاق کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی خوراک پندرہ پندرہ منٹ کے وقفہ سے دے سکتے ہے جب تک مرض پر قابو نہ پالیں اس وقت تک استعمال کر سکتے مقدار خوراک 2/1 رتی تا 2 رتی تک ہمراہ پانی یا مناسب بدرقه دے سکتے ہے جب کبھی کسی مريض کو الٹیاں شروع ہو جائیں گی تو اس دوا کو روک دیں اور دوبارہ کم مقدار اور وقفہ بڑھا کر استعمال کریں انشا اللہ صفراء سے پیدا شدہ امراض و علامات بہت جلد ختم ہو جائیں گی

رطب قہوہ

گل سرخ 1 ماشہ۔ گل سفید 1 ماشہ۔ سبز الائچی 5 دانے

ایک پاؤ پانی میں ابالیں جب آدھا پانی رہ جائے گا چینی حسب ذائقہ استعمال کریں حرارت کی زیادتی سے پیدا شدہ امراض اور علامات کا بہترین علاج

رطب روغن

شیر مدار 5 تولہ۔ کافور 1 تولہ۔ روغن تار پین 2 تولہ۔ میٹھا تیل 1 پاؤ
 ترکیب تیاری۔ پہلے شیر مدار کو میٹھا تیل میں ڈال کر گرم کریں جب
 شیر مدار جل جائے تب اتار کر ٹھنڈا ہونے پر پن لیں پھر کافور اور تیل تار پین
 کو حل کر لیں جب حل ہو جائے پھر اسے تیل میں ملا لیں روغن رطب تیار ہے
 یہ روغن آگ سے جلے ہوئے زخموں کے لیے بہترین دوا ہے یہ روغن بیرونی
 طور پر استعمال کیا جاتا ہے قلب کے پھیلنے سے پیدا ہونے والی تمام امراض
 مثلاً وجع المفاصل کے لیے مفید ہے

رطب قطرور

کافور 3 ماشہ۔ بورک ایسڈ پوڈر 2 تولہ۔ عرق گلاب 1 بوتل
 دواوں کو خوب کھل کر کے عرق گلاب میں ملا دیں ایک دن کے بعد اسے
 موٹے کپڑے سے پن لیں اور پھر صفر اوی امراض میں قطرہ قطرہ آنکھوں
 میں پکائیں
 (نوٹ) آسانی کے لیے یہ مجربات قلب کی حالتوں و کو مدنظر رکھتے ہوئے
 ترتیب دیے گئے ان سے تمام امراض کا علاج ہو سکے گا

دوا کی تاشیر تیز کرنے کا طریقہ

کسی بھی تیار محرب اکسیر دوا کی تاشیر کو تیز کرنا چاہیں تو تیار شدہ اکسیر دوائی میں 20/1 (بیسوں) حصہ کھلی ملائیں تو دوا کی بیس گنا تاشیر تیز ہو جائے گی اور اگر اسی دوائی میں رس پارہ 100/1 (سوسوائیں) حصہ ملائیں تو وہ دوائی تاشیر سو گنا تیز کر دے گا اگر کسی بھی تیار شدہ دوائی میں کشہ الماس 1000/1 (ہزاروں) حصہ ملائیں تو اس دوائی کی تاشیر ہزار گنا تیز ہو جائے گی ضرورت کے مطابق جب کسی اکسیر دوائی کی تاشیر کو تیز کرنا چاہیں اسی طریقہ سے آپ فائدہ اٹھاسکتے ہیں کھلی، رس پارہ اور کشہ الماس بنانے کا طریقہ درج ذیل ہے

کھلی تیار کرنے کا طریقہ

پارہ مصفری 1 تولہ اور گندھک مصفری 7 تولہ

کسی عمدہ کھرل میں چند گھنٹے ان دونوں کو کھرل کریں جب یہ سرمہ کی طرح سیاہ رنگ کی دوائی تیار ہو جائے یہ کھلی تیار ہے

رس پارہ بنانے کا طریقہ

مصفری پارہ 10 تولہ اور مصفری گندھک 10 تولہ دونوں کو عمدہ کھرل میں

کھل

کریں جب کچلی تیار ہو جائے پھر اس میں بھوہڑ کے درخت کی داڑھی کا جوشاندہ ڈال کر کھل کریں جب یہ خشک ہو جائے پھر اس میں گھیکوار کے گودہ کھل کریں جب یہ کھل کرتے خشک ہو جائے تو اس کچلی کو آتشی شیشی میں ڈال کر کھیں پھر ایک عدد لو ہے کی کڑا ہی لیں اس میں تین چار سیر ریت ڈال لیں اور اسے آگ پر کھیں آتشی شیشی کو گرم ریت پر رکھ دیں شیشی سے دھواں نکلا شروع ہو گا اس دھواں سے احتیاط کریں اگر گلنے کو لگے تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے یہ دھواں تقریباً میں گھنٹے تک آہستہ آہستہ نکلتا ہے جب دھواں نکلا بند ہو جائے تو شیشی کے منہ کو اچھی طرح بند کر کے مزید دس گھنٹے تیز آگ جلا میں یہ سارا پارہ آتشی شیشی کے اندر سرخ رنگ کا لگا ہوا ہو گا شیشی توڑ کر احتیاط سے نکال لیں اور پیس کر محفوظ کر لیں اور پھر کسی اکسیر دوائی میں ملا کر استعمال کریں

کشنة الماس

حسب ضرورت ملکرے الماس (کھڑ) لیں اسے آگ پر گرم کریں اور جوشاندہ کلپتھی جو پہلے سے تیار کیا ہوا ہو اس میں بجھاؤ دیں کم از کم ایک سو بار بجھاؤ دیں پھر بکری کے خون میں اکیس بار بجھاؤ دیں پھر اسے عرق گلاب

سہ آتش میں 11 بار بجھا دیں یہ پسک ہو جائے کسی عمدہ کھل میں احتیاط سے کھل کر یہ پھر اسے کھل کرتے وقت پانی یا عرق گلاب ڈالیں جتنا یہ حل ہو جائے اسے احتیاط سے کسی سٹیل کے پیالے میں الگ کرتے جائیں جب سارا الماس حل ہو جائے تب اسے 24 گھنٹے پڑا رہنے دیں 24 گھنٹوں کے بعد سٹیل کے پیالے سے اوپر پانی احتیاط سے نتھار لیں نیچے سے الماس پوڈر حاصل کر یہ پھر اس پوڈر الماس کو روغن فاسفورس دیکر کھل کر یہ اور ابرگ کے پترے پر گرم کر یہ یا کسی کٹھالی میں عمل کم از کم تین بار کر یہ الماس کشته تیار ہو جائے گا

فاسفورس روغن بنانے کا طریقہ

تیزاب شورہ 2/1 کلو اور کوڈیاں زرد تین چھٹا نک لیں تیزاب کو کسی کھلے منہ والی شیشی میں ڈال دیں پھر اس میں چند کوڈیاں ڈال دیں اس سے کیمیاوی عمل ہو گا جب وہ پہلے ڈالی ہوئی کوڈیاں تیزاب میں حل ہو جائیں تب دوبارہ اور کوڈیاں ڈال دیں اس طرح تیزاب کوڈیاں حل کرتا جائے اس میں ڈالتے جائیں جب کوڈیاں کھانا بند کر دے پھر اسے ٹھنڈا ہونے دیں بعد میں اگر اس میں کوئی کوڈی کا مکڑا رہ گیا ہو تو اسے نکال دیں پھر اسے ٹھنڈے تیزاب میں فاسفورس چھوٹے چھوٹے مکڑوں کی شکل میں

اس تیزاب میں ڈال دیں تقریباً 50 گرام تک ڈال سکتے ہو پھر اسے محفوظ جگہ پر رکھ دیں یہ فاسفورس تقریباً دو تین ماہ میں ٹھنڈا ہو گا اور اس کا رنگ سفید ہو جائے گا اس میں جتنا ضرورت ہو باہر نکال لیں یہ نکالتے ہی روغن بن جائے گا یہ عمل موسم گرمائیں شروع کریں اگر سردیوں میں کریں گے تو تیزاب جم جائے گا اور فاسفورس ٹھنڈا نہیں ہو گا

دوسری طریقہ فاسفورس کا تیل بنانا

دو عدد تام چینی کی پلیٹیں لیں ایک پلیٹ میں 50 گرام باریک نمک ڈال دیں اس کے اوپر 1 تولہ فاسفورس ڈال دیں اور پھر اس کے اوپر 50 گرام اور نمک ڈال دیں پھر دوسری پلیٹ سے ان کو ڈھانپ دیں کچھ دیر بعد سے تھوڑی سی ہوا دیں یعنی اوپر والی پلیٹ کو ذرا سا اوپر اٹھائیں پھر رکھ دیں اس طرح اس فاسفورس سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا پھر ان کو پڑا رہنے دیں کچھ دیر میں ساری فاسفورس تیل زرد رنگ کا بن کر پلیٹوں میں لگا ہو گا احتیاط سے نمک الگ کر لیں یہ تیل بھی الماس پوڈر پر عمل میں لا سکتے ہیں جب کشته الماس تیار ہو جائے گا پھر جس اکسیر دوائی میں ملانا ہواں میں ملا کر اس میں خوب کھرل کر لیں پھر گوزہ میں بند کر کے 5 کلو اولپوں کی آگ دے لیں یہ تین بار عمل کر لیں دوائی تیار ہے

علاج بالدعا

علاج بالذعا کی اہمیت

علاج بالدعا کی اہمیت اس بات سے لگائی جاسکتی ہے کہ خالق کائنات سب کچھ تخلیق فرما کر سب کو اپنا ہی محتاج بنانا ہے جیسا اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابراہیم کو فرماتے ہیں میں ہی بیمار کرتا ہوں اور میں ہی شفادیتا ہوں اس لیے نبیوں اور پیغمبروں نے مرض کی صورت یا کسی مشکل صورت میں اللہ سے دعا کی تاکہ سب مخلوق کو اس بات کا اندازہ ہو سکے اللہ کے حضور دعا سے ہی شفا حاصل کی جاسکتی جس طرح پہلے انبیاء علیہ اسلام دعا کرتے آئے ہیں اسی طرح قرآن خود دعا ہے جس کے بارے میں خود قرآن کہتا کہ میں مومنوں

حالمین اسلامک طب کے لئے خوشخبری

اسلامی مجربات ادارہ سے تیار شدہ سے دستیاب ہے
 قادریہ کتب خانہ ودواخانہ گلی نمبر 2 شہستان چوک بھکھی

روڈ شیخوخ پورہ

کے لیے شفا ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے شفا کس طرح
حاصل کر سکتے اور بعض کو اللہ تبارک تعالیٰ دست شفاذ بان شفا اور نظر شفاذ عطا
فرماتے ہیں یہ عطا ان لوگوں پر ہوتی جو اللہ کو اس قدر راضی کر لیتے ہیں کہ خدا
بندے کو خود پوچھئے بتا تیری رضا کیا ہے

دست شفا حاصل کرنے کا طریقہ

معانِ پوری طرح صوم و صلوٰۃ کا پابند ہوا اور پھر ذکر الٰہی اپنے شیخ طریقت پیر و
مرشد کے بتائے ہوئے طریقہ سے کرے یا ہماری کتاب کلید سالک میں ذکر
نفی اثبات کا طریقہ درج ہے اس طریقہ سے ذکر کرے اور قرآن مجید میں
مختلف اوقات جو آیات شفاذ نازل ہوئیں ہیں ان کا وظیفہ کرے اور ساتھ ہی
ساتھ جو سات سلام نازل ہوئے ہیں ان کو پڑھے

آیات شفا اور سات سلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا شَافِيْ يَا كَافِيْ يَا سَلَامَ
بِحَقِّ وَيَشَفَ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي
الصُّدُورِ يَخْرُجُ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ الْوَانُهُ فِيهِ
شِفَاءٌ لِلنَّاسِ طَوْ نُزِّلٌ مِّنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ

لِلّمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنَ قُلْ هُوَ لِلّذِيْنَ
أَمْتُ وَأَهْدَى وَشَفَاءٌ طَ
وَبِحَقِّ سَلَمٍ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى . سَلَامٌ قَوْلًا
مِنْ رَبِّ رَحْيْمٍ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَلَمِيْنَ سَلَامٌ
عَلَى إِبْرَاهِيْمَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ سَلَامٌ عَلَى
إِلَيْسِيْنَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ اللَّهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان کا روزانہ وظیفہ ایک تسبیح کرنے اول و آخر دو دشیریف گیا رہ بار پڑھے
اور سورۃ فاتحہ کو نماز فجر سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ کی میم الحمد سے ملا کر
41 بار پڑھے یہ منزل زندگی میں جاری رکھے سورۃ فاتحہ سورۃ شفا بھی کھلاتی
ہے اس عمل کے ساتھ بھی دو دشیریف اول آخر پڑھے مریض خداوند تعالیٰ
کی طرف سے بھیجا ہوا آتا ہے اس کی خدمت کا ارادہ کرے انشا اللہ دست
شفاعطا ہوگی اس کے علاوہ سخاوت کرتا رہے اپنے علم سے مخلوق کو پورہ پورہ
فائدہ پہنچائے ہمیشہ خالق کی مخلوق کی فکر کرے فکر معاش نہ کرے چونکہ رزق
رازق نے ہر حال میں ہر جاندار کو پہنچانا ہوتا ہے یہ فکر پالنے والا کرے ہمارا
جذبہ خادمیت کا رہے دست شفاعطا ہوگی انشا اللہ

قلب کے سکڑنے سے پیدا ہونی والی امراض کی دعا

جیسا ہم پہلے تحریر کر چکے ہیں قرآن میں شفای ہے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کن مرضوں میں کون سی دعا فائدہ جلد دے گی اس لیے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف اسباب سے نیک بندوں کو نقصان پہچانا چاہا تو اس نقصان دینے والے سبب کو سلامتی والا کر دیا جیسا جب حضرت ابراہیم علیہ سلام کو آگ نے نقصان دینا چاہا تب اللہ نے آگ کو حکم دیا تھا نہیں ہو جا سلامتی والی اسی طرح جب پانی کا اذاب انتہا کو تھا پھر اللہ نے پانی کو حکم دیا نوح علیہ کے لیے امن دے اسی طرح رب کی طرف دیگر صورت میں سلامتی کے لیے سلم قولامن رب الرحیم کہا گیا ہماری تحقیقات اسلامک طب کو چونکہ قانون فطرت پر ترتیب دیا گیا اسی لیے قلب و عضلات کو جب آگ کی گرمی و تری اور خشکی سے طعینت پر جو برے اثرات آتے ہیں ان کے لئے ان کے مزاج کے مطابق ان سے مدد لی گئی ہے سلام اور آیات شفا کو ملا کر مریض گیارہ مرتبہ پڑھے مریض اس دعا سے پہلے دور رکعت نماز نفل قضاۓ حاجت پڑھے ہر رکعت میں تین بار سورۃ اخلاص پڑھے اور بعد یہ دعا پڑھے اول واخر

درود شریف تین بار پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَلَامُ قَوْلًا مِّنْ رَبِّ رَحِيمٍ

وَأَمْتَازُ الْيَوْمِ أَيَّهَا الْمُجْرِمُونَ يَا شَافِيْ يَا كَافِيْ يَا
 سَلَامٌ بِحَقٍّ وَيَسْفُدُ وَرَقْوِ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءً لِّمَافِي
 الصُّدُورِ يَخْرُجُ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ الْوَانُهُ فِيهِ
 شِفَاءٌ لِلنَّاسِ طَوْنَزِلٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
 لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنَ قُلْ حُوْلَ لِلَّذِينَ
 أَمْنُوا هُدَىٰ وَشِفَاءٌ طَ

قلب کے پھیلنے سے پیدا ہونے والی امراض کی دعا

قلب و عضلات میں پھیلا و حرارت کی وجہ سے آتا ہے یہ عمل آگ کا ہے
 ان سے سلامتی کیلئے دور کعت نفل قضاۓ حاجت پڑھئے اور یہ سلام اور آیت
 شفا گیارہ مرتبہ پڑھیں اول و آخر درود شریف تین بار پڑھئے اور اپنے اوپر
 دم کر لے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْنَا يَا نَارُ كُوئِنِيْ بِرْدَاؤْ
 سَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

يَا شَافِيْ يَا كَافِيْ يَا سَلَامٌ بِحَقٍّ وَيَسْفُدُ وَرَقْوِ
 مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءً لِّمَافِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ بُطُونِهَا شَرَابٌ

مُخْتَلِفُ الْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ طَوَّنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ
مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مِرِضْتُ فَهُوَ
يَشْفِيْنِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ طَ

قلب و عضلات کے پھولنے سے پیدا ہونے والی امراض کی دعا

چونکہ قانون فطرت ہے کہ تری سے چیزیں پھول جاتی ہے جیسا کہ پانی میں
اگر پڑی رہے تو پھول جاتی ہے اگر قدرت کاملہ پانی کو بچانے کا حکم دیتے تو
اس جہان اصغر کو اس سلام سے سلامتی حاصل ہوتی ہے اول دور کعت نفل
قضاء حاجت پڑھے اور بعد یہ دعا گیارہ مرتبہ پڑھے اول و آخر درود
شریف تین بار پڑھ لیا کرے اور اپنے اوپر دم کر لے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي
الْعَلَيْنِ

يَا شَافِيْ يَا كَافِيْ يَا سَلَامٌ بِحَقِّ وَيَشْفُصُدُ وَرَقُومٍ
مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ يَخْرُجُ بُطُونُهَا شَرَابٌ

مُخْتَلِفُ الْوَانَهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ طَوَّنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ
مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ
يَشْفِيْنِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَهْدَى وَشِفَاءٌ طَ

نوٹ۔ اگر کوئی مریض نہ پڑھ سکے تو ایسی صورت میں مریض کا کوئی عزیز
پڑھ کر پانی پردم کر کے پلا دیں یاد م کر دیں

تسخیر خالق کے عملیات

تسخیر خالق کے وظائف سے مخلوق کو خدمت کے لیے اپنی طرف راغب کیا
جاتا ہے اگر کسی معانج کے پاس کوئی آئے ہی نہیں تو اس سے کسی کو کیا فائدہ
حاصل ہو سکتا ہے اس لیے بزرگوں نے کچھ وظائف بتائے ہیں ان پر عمل
کریں گے تو مخلوق خدا راغب ہو گی اس سے معانج کو فائدہ ہو گا

پہلا عملِ تسخیر خالق

ان آیات کو رزانہ ہر نماز کے بعد گیارہ بار پڑھ لیا کریں عشاء کی نماز کے بعد
چالیس بار پڑھیں اول و آخر درود شریف تین بار پڑھیں آیات قرآنی یہ ہیں
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ
أَنفُسُكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْکُمْ

بِالْمُؤْمِنِينَ وَوْفٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْ أَفْقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ
 (صلَّى) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَرَبُّ الْعَرْشِ
 الْعَظِيمُ

دوسرا عمل تسبیح خلائق

تسبیح خلائق کے لئے کسی جنگل میں یا کسی کھلی جگہ پر طلوع آفتاب سے لے
 کر سوا پہر تک یعنی پونے چار گھنٹے اس کلام کو بروے مشرق یکسوئی سے لا
 تعداد پڑا کرے تسبیح قلوب و مخلوق عام ہوگی جس طرف پڑھ کر پھونک مارنے
 گا مخلوق جو ق در جو ق آنا شروع کر دے گی اگر کوئی اتنا وقت نہ دے سکے تو کم
 از کم تین دن یہ عمل کر کے پھر رزانہ چند تسبیاں پڑھ لیا کرے کلام مکرم یہ ہے

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُسَخِّرُ سَخْرَلِيٍّ كُلُّ
 مَخْلُوقَاتٍ أَجِبْ يَا جِبْرِيلُ بِحِقٍ يَا بَاسِطْ يَا بَدْوَحْ**

تیسرا عمل تسبیح خلائق


اس کلام مکرم کو نماز عشاء کے بعد پڑھیں جتنی زیادہ تعداد میں پڑھیں گے اتنی
 ہی زیادہ تسبیح ہوگی کلام یہ ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ سَخِّرْلِي قُلُوبِ

الْخَلَائِقُ وَالْأَجْسَامُ وَالْأَرْوَاحُ وَالْأَمْوَالُ
الدُّعَى الْأَخِيرُ

محقق طب حكيم صمارت خان نوشائي

10 جمادى الثانى 1424 هجري



معانج کے لئے ضروری ہدایات

- (1) معانج شرعی امور کی پوری پاپنڈی کرے
- (2) معانج معدروں پتیم اور درویش فقیر کا علاج مفت کرے
- (3) معانج پوری تشخیص کے بعد علاج غذا سے شروع کرے جب تک غذا سے مریض فائدہ نہ ہواں وقت تک دوا شروع نہ کرے
- (4) معانج دوا تجویز کرتے وقت مرض کے درجہ کو منظر رکھے
- (5) معانج علاج ہمیشہ مفر دواؤں سے شروع کرے
- (6) معانج کو چاہیے جہاں تک ہو سکے مریض کو مسیل اور قے کی عادت نہ ڈالے
- (7) معانج ہمیشہ زہریلی دواؤں کے استعمال سے اجتناب کرے
- (8) معانج کو اپنا صحیح طریقہ علاج نہیں چھوڑنا چاہیے
- (9) معانج کو موسموں کی شدت میں قوی اور تیز دوائیں استعمال نہ کریں
- (10) معانج اپنے دل میں خوف خدار کھٹے ہوئے کسی مریض سے قوم اور مذہب کا امتیاز نہ کرے کیونکہ سب مخلوق خدا کی ہے
- (11) معانج فن طب کے لئے رات اور دن محنت کرے فکرے مخلوق کرے اور سخاوت کرتا رہے ہر آنے والے سے محبت اور اخلاق سے پیش آئے

طبی دنیا میں اسلام کا طب کا عظیم انقلاب
کوئی مرض لا علاج نہیں

خوشخبری

علماء دین اپنی
وراثت حاصل
کریں

آئیے تشریف لائیے لا علاج امراض کا علاج کرو اب ایسے

سماں دریہ دلار ازگان تبریز شہرستان چونکہ سکھی